BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: اردو (لازمی)　　Session: 2022 سالانہ

Group : 1st

Q. Nos	Paper Code 1021	Paper Code 1023	Paper Code 1025	Paper Code 1027
1	C	C	A	A
2	D	B	C	C
3	B	A	B	D
4	A	C	A	B
5	C	D	D	D
6	B	B	C	C
7	A	D	B	D
8	D	C	A	B
9	C	D	C	A
10	B	B	D	C
11	A	A	B	B
12	C	C	D	A
13	D	B	C	D
14	B	A	D	C
15	D	D	B	B
16				
17				
18				
19				
20				

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1022	Paper Code 1024	Paper Code 1026	Paper Code 1028
1	A	D	D	B
2	C	C	C	A,C
3	B	A	A	D
4	D	A,C	D	C
5	B	A	C	A
6	A,C	C	A	D
7	D	A	A,C	C
8	C	C	A	A
9	A	B	C	A,C
10	D	D	A	A
11	C	B	C	C
12	A	A,C	B	A
13	A,C	D	D	C
14	A	C	B	B
15	C	A	A,C	D
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون اردو لازمی پرچہ پہلا - نہم گروپ I ، II سکیم x میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:　　Dated: 10-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Syed Masood Nabi	S.S.T	G. New Millat H/S Mumtazabad, Multan	0345-7229292	
2	Majeed-ur-Rehman Shah	SS	G. Comprehensive higher	03166462278	
3	Muhammad Siddique	SST	SS MTN GHS Qatal Pur (Khanewal)	03467064537	
4	Zafar Babar	ST. HM	GHS 14-Faiz Multan	03017731273	
5	Mazhar Hayat	SST	Govt Islamia H/S Doulat Gate Multan	0307.7337712	

Re-Checked By　ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Bashir Ahmad Sial	Principal	GHS Basti Nau Multan	0302.7330876	
2					
3					

تاریخ

رول نمبر ________

2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ - پہلا وقت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

حصہ انشائیہ

حصہ اول

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

2۔ مندرجہ ذیل نظم وغزل کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ (تین اشعار حصہ نظم اور دو حصہ غزل سے) 10

(حصہ نظم)

(i) محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم — کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا

(ii) سُنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں — ترا تذکرہ ہے، تری گفتگو ہے

(iii) جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے — بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے

(iv) جو نغمہ زن تھے خلوتِ اوراق میں طیور — رُخصت ہوئے ترے شجر سایہ دار سے

(حصہ غزل)

(i) نازکی اُس کے لب کی کیا کہیے — پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے

(ii) ہمیشہ لکھے وصفِ دندانِ یار — قلم اپنا موتی پرویا کیا

(iii) ہاں بھلا کر ترا بھلا ہو گا — اور درویش کی صدا کیا ہے

حصہ دوم

3۔ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجیے۔ 10

(الف) مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ، جو گردشِ روزگار سے بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دِلّی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دِلی دوست تھے اور ۱۸۵۷ء کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔

(ب) یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اُس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے۔ انھیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اُن کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو مُوافق بھی آئے گی یا نہیں۔ بہر حال انھوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بصد تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔

4۔ کوئی سے پانچ سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ 2 x 5 = 10

(i) مجازِ مرسل سے کیا مراد ہے؟
(ii) نظیر اکبر آبادی کے چار ہم عصر شعرا کے نام لکھیں۔
(iii) طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟
(iv) دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟
(v) قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟
(vi) سیّد امتیاز علی تاج نے کونسا ریڈیو پروگرام شروع کیا؟
(vii) سبق '' لہوا ور قالین '' میں اختر کا حلیہ بیان کریں۔
(viii) کوّے کس بات کو اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں؟

5۔ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ (i) مرزا غالب کے عادات وخصائل (ii) قدرِ ایاز 5

6۔ کتاب میں دی گئی نظم '' برسات کی بہاریں '' کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجیے۔ 5

7۔ اپنے دوست کے نام خط میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیجیے جس سے آپ کی حاضر دماغی کا اندازہ ہوتا ہو۔ یا

اپنے سکول کے پرنسپل کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں۔ 10

8۔ '' ہرنی کی دعا '' کے عنوان پر کہانی تحریر کریں۔ یا مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ لکھیے۔ 5

9۔ درج ذیل جملوں کی درستی کیجیے۔ 5

(i) دس بلب، پانچ انرجی سیور اور ایک ٹیوب لائٹ ٹوٹ گئے۔ (ii) افضل نے اخبار کو پڑھا۔ (iii) حسنین نے مسجد میں قرآن کو پڑھا ہوگا۔

(iv) سموسے، کباب، پکوڑے سب کچھ فروخت ہوگئے۔ (v) طاہر نے کتاب کو اپنے بھائی کو دی۔

یا

درج جُملوں کی تکمیل کیجیے۔

(i) سوت نہ کپاس ________ (ii) ڈوبتے کو تنکے کا ________ (iii) حساب جَو جَو ________

(iv) ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ________ (v) ہاتھی کے دانت ________

1-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1021

2022 (A)

رول نمبر ______

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ - پہلا

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) مولانا الطاف حسین حالؔی نے مرزا غالبؔ کو کہا ہے۔ (A) حیوانِ شریف (B) حیوانِ ناطق (C) حیوانِ ظریف (D) حیوانِ زمین

(2) سرسیّد احمد خان نے کس ادبی صنف کو رواج دیا؟ (A) ناول (B) سفرنامہ (C) داستان (D) مضمون

(3) اِن شعرا میں کون سے شاعر نابینا تھے؟ (A) انشاؔاللہ خاں (B) جُرأت (C) مرزا سوؔدا (D) ناسخ

(4) میرزا ادیب کے مطابق اخترؔ دوسال قبل رہتا تھا۔ (A) خستہ مکان میں (B) عالی شان کوٹھی میں (C) بڑے محل میں (D) جھونپڑی میں

(5) مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں کس قلمی نام سے لکھتے رہے؟ (A) دلاور فگار (B) ن۔م۔راشد (C) مرزا الم نشرح (D) شریف حسین

(6) ’’ملکی پرندے اور دوسرے جانور‘‘ میں مصنف کے خیال میں کوّا کس کے پاس بہت مسرور رہتا ہے؟ (A) کھانے کے پاس (B) باورچی خانے کے پاس (C) بچوں کے پاس (D) چڑیا کے پاس

(7) تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ (A) نامولود (B) نومولود (C) شیرخوار (D) فرماں بردار

(8) اللہ کا گدا ہمیشہ مگن رہتا ہے۔ (A) عبادت میں (B) اپنے آپ میں (C) کام کاج میں (D) کملی میں

(9) امیؔر مینائی کے خیال میں طوطی وبلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ (A) اللہ تعالیٰ کا (B) مظاہراتِ فطرت کا (C) حضرت محمدؐ کا (D) فرشتوں کا

(10) بہادر شاہ ظفؔر کے کلیات میں کتنے دواوین شامل ہیں؟ (A) دو دواوین (B) چار دواوین (C) چھ دواوین (D) آٹھ دواوین

(11) ’’ گرہستن ‘‘ کا مذکر ہے۔ (A) گرہست (B) گرہستی (C) گرہستو (D) گرہستین

(12) ’’ عارف ‘‘ کی جمع ہے۔ (A) عرفان (B) عریف (C) عارفین (D) عروف

(13) ’’ دفینہ ‘‘ کی جمع ہے۔ (A) دفن (B) دفون (C) دفین (D) دفائن

(14) ’’ خفیف ‘‘ کا متضاد ہے۔ (A) گہرا (B) ثقیل (C) لطیف (D) کثیف

(15) ’’ ارزاں ‘‘ کا مترادف ہے۔ (A) نایاب (B) قیمتی (C) شان دار (D) سستا

1(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1023

2022 (A)

رول نمبر ____

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ - پہلا

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) امیؔر مینائی کے خیال میں طوطی وبلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ (A) اللہ تعالیٰ کا (B) مظاہراتِ فطرت کا (C) حضرت محمدؐ کا (D) فرشتوں کا

(2) بہادر شاہ ظفؔر کے کلیات میں کتنے دواوین شامل ہیں؟ (A) دو دواوین (B) چار دواوین (C) چھ دواوین (D) آٹھ دواوین

(3) " گرہستن " کا مذکر ہے۔ (A) گرہست (B) گرہستی (C) گرہستو (D) گرہستین

(4) " عارف " کی جمع ہے۔ (A) عرفان (B) عریف (C) عارفین (D) عروف

(5) " دفینہ " کی جمع ہے۔ (A) دفن (B) دفون (C) دفین (D) دفائن

(6) " خفیف " کا متضاد ہے۔ (A) گہرا (B) ثقیل (C) لطیف (D) کثیف

(7) " ارزاں " کا مترادف ہے۔ (A) نایاب (B) قیمتی (C) شان دار (D) سستا

(8) مولانا الطاف حسین حالؔی نے مرزا غالبؔ کو کہا ہے۔ (A) حیوانِ شریف (B) حیوانِ ناطق (C) حیوانِ ظریف (D) حیوانِ زمین

(9) سرسیّد احمد خان نے کس ادبی صنف کو رواج دیا؟ (A) ناول (B) سفر نامہ (C) داستان (D) مضمون

(10) اِن شعرا میں کون سے شاعر نابینا تھے؟ (A) انشااللہ خاں (B) جُرأت (C) مرزا سوداؔ (D) ناسخؔ

(11) میرزا ادیب کے مطابق اختر دو سال قبل رہتا تھا۔ (A) خستہ مکان میں (B) عالی شان کوٹھی میں (C) بڑے محل میں (D) جھونپڑی میں

(12) مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں کس قلمی نام سے لکھتے رہے؟ (A) دلاور فگار (B) ن۔م۔راشد (C) مرزا الم نشرح (D) شریف حسین

(13) ''ملکی پرندے اور دوسرے جانور'' میں مصنف کے خیال میں کوا کس کے پاس بہت مسرور رہتا ہے؟ (A) کھانے کے پاس (B) باورچی خانے کے پاس (C) بچوں کے پاس (D) چڑیا کے پاس

(14) تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ (A) نامولود (B) نومولود (C) شیر خوار (D) فرماں بردار

(15) اللہ کا گدا ہمیشہ مگن رہتا ہے۔ (A) عبادت میں (B) اپنے آپ میں (C) کام کاج میں (D) کملی میں

1(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER:1025

2022 (A)

رول نمبر

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ - پہلا

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) میرزا ادیب کے مطابق اختر دو سال قبل رہتا تھا۔ (A) خستہ مکان میں (B) عالی شان کوٹھی میں (C) بڑے محل میں (D) جھونپڑی میں

(2) مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں کس قلمی نام سے لکھتے رہے؟ (A) دلاور فگار (B) ن۔م۔راشد (C) مرزا الم نشرح (D) شریف حسین

(3) ''ملکی پرندے اور دوسرے جانور'' میں مصنف کے خیال میں کوا کس کے پاس بہت مسرور رہتا ہے؟ (A) کھانے کے پاس (B) باورچی خانے کے پاس (C) بچوں کے پاس (D) چڑیا کے پاس

(4) تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ (A) نامولود (B) نومولود (C) شیرخوار (D) فرماں بردار

(5) اللہ کا گدا ہمیشہ مگن رہتا ہے۔ (A) عبادت میں (B) اپنے آپ میں (C) کام کاج میں (D) کملی میں

(6) امیر مینائی کے خیال میں طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ (A) اللہ تعالیٰ کا (B) مظاہراتِ فطرت کا (C) حضرت محمدؐ کا (D) فرشتوں کا

(7) بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں کتنے دواوین شامل ہیں؟ (A) دو دواوین (B) چار دواوین (C) چھ دواوین (D) آٹھ دواوین

(8) '' گرہستن '' کا مذکر ہے۔ (A) گرہست (B) گرہستی (C) گرہستو (D) گرہستین

(9) '' عارف '' کی جمع ہے۔ (A) عرفان (B) عریف (C) عارفین (D) عروف

(10) '' دفینہ '' کی جمع ہے۔ (A) دفن (B) دفون (C) دفین (D) دفائن

(11) '' خفیف '' کا متضاد ہے۔ (A) گہرا (B) ثقیل (C) لطیف (D) کثیف

(12) '' ارزاں '' کا مترادف ہے۔ (A) نایاب (B) قیمتی (C) شان دار (D) سستا

(13) مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کو کہا ہے۔ (A) حیوانِ شریف (B) حیوانِ ناطق (C) حیوانِ ظریف (D) حیوانِ زمین

(14) سرسید احمد خان نے کس ادبی صنف کو رواج دیا؟ (A) ناول (B) سفرنامہ (C) داستان (D) مضمون

(15) اِن شعرا میں کون سے شاعر نابینا تھے؟ (A) انشا اللہ خاں (B) جُرأت (C) مرزا سودا (D) ناسخ

1(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-70000 (MULTAN)

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1027

رول نمبر ______

2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ ـ پہلا

وقت = 20 منٹ

notespk.com

کل نمبر = 15

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) " گرہستن " کا مذکر ہے۔ (A) گرہست (B) گرہستی (C) گرہستو (D) گرہستین

(2) " عارف " کی جمع ہے۔ (A) عرفان (B) عریف (C) عارفین (D) عروف

(3) " دفینہ " کی جمع ہے۔ (A) دفن (B) دفون (C) دفین (D) دفائن

(4) " خفیف " کا متضاد ہے۔ (A) گہرا (B) ثقیل (C) لطیف (D) کثیف

(5) " ارزاں " کا مترادف ہے۔ (A) نایاب (B) قیمتی (C) شان دار (D) سستا

(6) مولانا الطاف حسین حالیؔ نے مرزا غالبؔ کو کہا ہے۔ (A) حیوانِ شریف (B) حیوانِ ناطق (C) حیوانِ ظریف (D) حیوانِ زمین

(7) سرسیّد احمد خان نے کس ادبی صنف کو رواج دیا؟ (A) ناول (B) سفرنامہ (C) داستان (D) مضمون

(8) اِن شعرا میں کون سے شاعر نابینا تھے؟ (A) انشااللہ خاں (B) جُرأت (C) مرزا سودا (D) ناسخ

(9) میرزا ادیب کے مطابق اختر دو سال قبل رہتا تھا۔ (A) خستہ مکان میں (B) عالی شان کوٹھی میں (C) بڑے محل میں (D) جھونپڑی میں

(10) مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں کس قلمی نام سے لکھتے رہے؟ (A) دلاور فگار (B) ن۔م۔راشد (C) مرزا الم نشرح (D) شریف حسین

(11) "ملکی پرندے اور دوسرے جانور" میں مصنف کے خیال میں کوا کس کے پاس بہت مسرور رہتا ہے؟ (A) کھانے کے پاس (B) باورچی خانے کے پاس (C) بچوں کے پاس (D) چڑیا کے پاس

(12) تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ (A) نامولود (B) نومولود (C) شیرخوار (D) فرماں بردار

(13) اللہ کا گدا ہمیشہ مگن رہتا ہے۔ (A) عبادت میں (B) اپنے آپ میں (C) کام کاج میں (D) کملی میں

(14) امیر مینائی کے خیال میں طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ (A) اللہ تعالیٰ کا (B) مظاہراتِ فطرت کا (C) حضرت محمدؐ کا (D) فرشتوں کا

(15) بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں کتنے دواوین شامل ہیں؟ (A) دو دواوین (B) چار دواوین (C) چھ دواوین (D) آٹھ دواوین

1(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Page 6 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

PAPER CODE NUMBER: 1022

2022 (A)

رول نمبر ________

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ - دوسرا

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) مطلع غزل کا شعر ہوتا ہے۔
(A) پہلا (B) دوسرا (C) تیسرا (D) آخری

(2) " مرآۃ الغیب " تصنیف ہے۔
(A) غالب کی (B) میر تقی میر کی (C) امیر مینائی کی (D) حیدر علی آتش کی

(3) خواجہ الطاف حسین حالی نے شاعری میں شاگردی اختیار کی۔
(A) علامہ محمد اقبال کی (B) مرزا غالب کی (C) میر درد کی (D) نظیر اکبر آبادی کی

(4) سبق " قدر ایاز " میں ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟
(A) پیڑھی (B) کرسی (C) بینچ (D) چارپائی

(5) طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟
(A) نگران صاحب سے (B) گارڈ صاحب سے (C) سپرنٹنڈنٹ سے (D) کسی طالبِ علم سے

(6) مرزا فرحت اللہ بیگ کون سے محکموں سے وابستہ رہے؟
(A) عدالت کے (B) پولیس کے (C) تعلیم کے (D) صحت کے

(7) منشی پریم چند کی کتاب " سوزِ وطن " اصنافِ ادب کے لحاظ سے ہے۔
(A) داستان (B) ناول (C) آپ بیتی (D) افسانوی مجموعہ

(8) سبق " آرام و سکون " میں ملازم کوٹ رہا تھا۔
(A) نمک (B) مرچیں (C) ریٹھے (D) گرم مسالا

(9) سبق " نصوح اور سلیم کی گفتگو " میں اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟
(A) مبتدی (B) چور (C) جھوٹا (D) نالائق

(10) الطاف حسین حالی کی جائے پیدائش ہے۔
(A) لکھنؤ (B) دِلّی (C) آگرہ (D) پانی پت

(11) لفظ " نشیب " کا متضاد ہے۔
(A) نیچا (B) قلیل (C) فراز (D) تر

(12) لفظ " دانا " کا مترادف ہے۔
(A) عاقل (B) بالغ (C) خاص (D) حاکم

(13) لفظ " سنار " کی مونث ہے۔
(A) سنارن (B) سنارین (C) سناری (D) سنیارن

(14) لفظ " جزیرہ " کی جمع ہے۔
(A) جزائر (B) اجزار (C) جزور (D) جزیرات

(15) لفظ " راحت " کا متضاد ہے۔
(A) خوشی (B) نفاق (C) رنج (D) امیری

3(Obj)(☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER:1024

2022 (A)

رول نمبر ______

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

وقت = 20 منٹ

notespk.com

کل نمبر = 15

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1)	الطاف حسین حالؔی کی جائے پیدائش ہے۔	(A) لکھنؤ	(B) دِلّی	(C) آگرہ	(D) پانی پت
(2)	لفظ '' نشیب '' کا متضاد ہے۔	(A) نیچا	(B) قلیل	(C) فراز	(D) تر
(3)	لفظ '' دانا '' کا مترادف ہے۔	(A) عاقل	(B) بالغ	(C) خاص	(D) حاکم
(4)	لفظ '' سنار '' کی مونث ہے۔	(A) سنارن	(B) سنارین	(C) سناری	(D) سنیارن
(5)	لفظ '' جزیرہ '' کی جمع ہے۔	(A) جزائر	(B) اجزار	(C) جزور	(D) جزیرات
(6)	لفظ '' راحت'' کا متضاد ہے۔	(A) خوشی	(B) نفاق	(C) رنج	(D) امیری
(7)	مطلع غزل کا شعر ہوتا ہے۔	(A) پہلا	(B) دوسرا	(C) تیسرا	(D) آخری
(8)	'' مرآۃ الغیب '' تصنیف ہے۔	(A) غالبؔ کی	(B) میر تقی میرؔ کی	(C) امیرؔ مینائی کی	(D) حیدر علی آتشؔ کی
(9)	خواجہ الطاف حسین حالؔی نے شاعری میں شاگردی اختیار کی۔	(A) علامہ محمد اقبالؒ کی	(B) مرزا غالبؔ کی	(C) میر دردؔ کی	(D) نظیرؔ اکبر آبادی کی
(10)	سبق '' قدر ایاز '' میں ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟	(A) پیڑھی	(B) کرسی	(C) بینچ	(D) چارپائی
(11)	طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟	(A) نگران صاحب سے	(B) گارڈ صاحب سے	(C) سپرنٹنڈنٹ سے	(D) کسی طالبِ علم سے
(12)	مرزا فرحت اللہ بیگ کون سے محکموں سے وابستہ رہے؟	(A) عدالت کے	(B) پولیس کے	(C) تعلیم کے	(D) صحت کے
(13)	منشی پریم چند کی کتاب '' سوزِ وطن '' اصنافِ ادب کے لحاظ سے ہے۔	(A) داستان	(B) ناول	(C) آپ بیتی	(D) افسانوی مجموعہ
(14)	سبق '' آرام و سکون '' میں ملازم کوٹ رہا تھا۔	(A) نمک	(B) مرچیں	(C) ریٹھے	(D) گرم مسالا
(15)	سبق '' نصوح اور سلیم کی گفتگو '' میں اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟	(A) مبتدی	(B) چور	(C) جھوٹا	(D) نالائق

3(Obj)(☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER:1026

2022 (A)

رول نمبر ________

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات C ،B ،A اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1)	منشی پریم چند کی کتاب " سوزِ وطن " اصنافِ ادب کے لحاظ سے ہے۔	(A) داستان	(B) ناول	(C) آپ بیتی	(D) افسانوی مجموعہ
(2)	سبق " آرام وسکون " میں ملازم کوٹ رہا تھا۔	(A) نمک	(B) مرچیں	(C) ریٹھے	(D) گرم مسالا
(3)	سبق " نصوح اور سلیم کی گفتگو " میں اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟	(A) مبتدی	(B) چور	(C) جھوٹا	(D) نالائق
(4)	الطاف حسین حالؔی کی جائے پیدائش ہے۔	(A) لکھنؤ	(B) دِلّی	(C) آگرہ	(D) پانی پت
(5)	لفظ " نشیب " کا متضاد ہے۔	(A) نیچا	(B) قلیل	(C) فراز	(D) تر
(6)	لفظ " دانا " کا مترادف ہے۔	(A) عاقل	(B) بالغ	(C) خاص	(D) حاکم
(7)	لفظ " سنار " کی مونث ہے۔	(A) سنارن	(B) سنارین	(C) سناری	(D) سنیارن
(8)	لفظ " جزیرہ " کی جمع ہے۔	(A) جزائر	(B) اجزار	(C) جزور	(D) جزیرات
(9)	لفظ " راحت " کا متضاد ہے۔	(A) خوشی	(B) نفاق	(C) رنج	(D) امیری
(10)	مطلع غزل کا شعر ہوتا ہے۔	(A) پہلا	(B) دوسرا	(C) تیسرا	(D) آخری
(11)	" مرآۃ الغیب " تصنیف ہے۔	(A) غالبؔ کی	(B) میر تقی میرؔ کی	(C) امیرؔ مینائی کی	(D) حیدر علی آتشؔ کی
(12)	خواجہ الطاف حسین حالؔی نے شاعری میں شاگردی اختیار کی۔	(A) علامہ محمد اقبالؒ کی	(B) مرزا غالبؔ کی	(C) میر درد کی	(D) نظیؔر اکبر آبادی کی
(13)	سبق " قدر ایاز " میں ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟	(A) پیڑھی	(B) کرسی	(C) بینچ	(D) چارپائی
(14)	طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟	(A) نگران صاحب سے	(B) گارڈ صاحب سے	(C) سپرنٹنڈنٹ سے	(D) کسی طالب علم سے
(15)	مرزا فرحت اللہ بیگ کون سے محکموں سے وابستہ رہے؟	(A) عدالت کے	(B) پولیس کے	(C) تعلیم کے	(D) صحت کے

3(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-60000 (MULTAN)

PAPER CODE
NUMBER:1028

2022 (A)

رول نمبر ________

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ - دوسرا

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟
(A) نگران صاحب سے (B) گارڈ صاحب سے (C) سپرنٹنڈنٹ سے (D) کسی طالب علم سے

(2) مرزا فرحت اللہ بیگ کون سے محکموں سے وابستہ رہے؟
(A) عدالت کے (B) پولیس کے (C) تعلیم کے (D) صحت کے

(3) منشی پریم چند کی کتاب "سوزِ وطن" اصنافِ ادب کے لحاظ سے ہے۔
(A) داستان (B) ناول (C) آپ بیتی (D) افسانوی مجموعہ

(4) سبق "آرام و سکون" میں ملازم کوٹ رہا تھا۔
(A) نمک (B) مرچیں (C) ریٹھے (D) گرم مسالا

(5) سبق "نصوح اور سلیم کی گفتگو" میں اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟
(A) مبتدی (B) چور (C) جھوٹا (D) نالائق

(6) الطاف حسین حالی کی جائے پیدائش ہے۔
(A) لکھنؤ (B) دِلّی (C) آگرہ (D) پانی پت

(7) لفظ "نشیب" کا متضاد ہے۔
(A) نیچا (B) قلیل (C) فراز (D) تر

(8) لفظ "دانا" کا مترادف ہے۔
(A) عاقل (B) بالغ (C) خاص (D) حاکم

(9) لفظ "سنار" کی مونث ہے۔
(A) سنارن (B) سنارین (C) سناری (D) سنیارن

(10) لفظ "جزیرہ" کی جمع ہے۔
(A) جزائر (B) اجزار (C) جزور (D) جزیرات

(11) لفظ "راحت" کا متضاد ہے۔
(A) خوشی (B) نفاق (C) رنج (D) امیری

(12) مطلع غزل کا شعر ہوتا ہے۔
(A) پہلا (B) دوسرا (C) تیسرا (D) آخری

(13) "مرآۃ الغیب" تصنیف ہے۔
(A) غالبؔ کی (B) میر تقی میرؔ کی (C) امیر مینائی کی (D) حیدر علی آتشؔ کی

(14) خواجہ الطاف حسین حالی نے شاعری میں شاگردی اختیار کی۔
(A) علامہ محمد اقبالؒ کی (B) مرزا غالبؔ کی (C) میر درد کی (D) نظیر اکبرآبادی کی

(15) سبق "قدر ایاز" میں ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟
(A) پیڑھی (B) کرسی (C) بینچ (D) چارپائی

3(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-60000 (MULTAN)

notespk.com

رول نمبر ________ 2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

وقت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

notespk.com

حصہ اِنشائیہ

حصہ اول

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

2۔ مندرجہ ذیل نظم وغزل کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ (تین اشعار حصہ نظم اور دو حصہ غزل سے) 10

(حصہ نظم)

(i) جسے جس طرف آنکھ، جلوہ ہے اُس کا — جو یک سُو ہو دل تو وہی چار سُو ہے

(ii) محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم — کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا

(iii) جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے — بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے

(iv) ہے تیرے گلستاں میں بھی فصلِ خزاں کا دور — خالی ہے جیبِ گل، زرِ کامل عیار سے

(حصہ غزل)

(i) اِن حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں — اتنی جگہ کہاں ہے دلِ داغ دار میں

(ii) مزا غم کے کھانے کا جس کو پڑا — وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا

(iii) بار بار اُس کے در پہ جاتا ہوں — حالت اب اضطراب کی سی ہے

حصہ دوم

3۔ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجیے۔ 10

(الف) دونوں صاحب پہلے جبلِ ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہِ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منھ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتا لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔

(ب) یہ احساس میرے لیے سُوہانِ روح ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے۔ اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔

4۔ کوئی سے پانچ سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ 2 x 5 = 10

(i) سلیم نے چار لڑکوں کی کیا خوبیاں اپنے والد سے بیان کیں؟

(ii) پنچایت میں الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟

(iii) مرزا غالبؔ نے دیوان فضل اللہ کو رُقعے میں کیا لکھا؟

(iv) مضمون نگار کے بقول کوّا سوچ بچار کے نزدیک کیوں نہیں پھٹکتا؟

(v) سبق امتحان میں '' امدادِ غیبی '' سے مصنف نے کیا مراد لی ہے؟

(vi) آتشؔ نے اپنی کشتِ سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟

(vii) علامہ محمد اقبالؒ کے مطابق امیدِ بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟

(viii) نظم برسات میں گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟

5۔ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ (i) مرزا غالبؔ کے عادات و خصائل (ii) مُلکی پرندے اور دوسرے جانور 5

6۔ کتاب میں دی گئی نظم '' برسات کی بہاریں '' کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ 5

7۔ اپنے چچا کو ایک خط لکھیے جس میں جاڑے کی تعطیلات کے پروگرام کا ذکر کیجیے۔

یا

ہیڈ ماسٹر/ ہیڈ مسٹریس کے نام سکول چھوڑنے کے لیے سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست لکھیے۔ 10

8۔ '' دودھ میں پانی '' کے عنوان پر کہانی تحریر کریں۔ یا گاہک اور درزی کے درمیان مکالمہ لکھیے۔ 5

9۔ درج ذیل جملوں کی درستی کیجیے۔ 5

(i) طبیعت نے چاہا تو ضرور آؤں گا۔ (ii) ہم کو جانا ہے۔ (iii) طارق نے اخبار کو خریدا۔

(iv) سامان، مکانات، دکانیں سب کچھ جل گئے۔ (v) عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں۔

یا

درج جملوں کی تکمیل کیجیے۔

(i) ہاتھوں کے طوطے ________ (ii) کمخواب میں ________ (iii) آ بیل ________

(iv) چور کی داڑھی میں ________ (v) جس کی لاٹھی ________

3-2022(A)-60000 (MULTAN)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

9th
1/A/22
223

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Woodwork Session: 2022

Q.Nos	Paper Code 1991	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	B			
2	C			
3	B			
4	A			
5	B			
6	D			
7	D			
8	A			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون ووڈ ورک پرچہ معروضی تحریری گروپ 9th میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 27.05.2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	سر ناظم حسین	SST (Tech)	گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری سکول ملتان	0307-7306077	[signature]
2					
3					
4					

notespk.com

2022 (A)

رول نمبر

225

SSC PART-I (9th CLASS)

WOOD WORK چوب کاری

TIME ALLOWED: 1.20 Hours وقت = 1.20 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 32 کل نمبر = 32

notespk.com

NOTE: **Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.**

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5** سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Root. (i) جڑ کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define Leaf. (ii) پتے کی تعریف کیجیے۔

(iii) Explain Hard Wood. (iii) سخت لکڑی کی وضاحت کریں۔

(iv) Explain Deodar Tree. (iv) دیودار درخت کی وضاحت کریں۔

(v) Write the names of four parts of a Tree. (v) درخت کے چار حصوں کے نام لکھیں۔

(vi) Write down four methods of sawing wood. (vi) لکڑی کی چرائی کے چار طریقوں کے نام لکھیں۔

(vii) Write four safety precautions. (vii) چار حفاظتی تدابیر لکھیں۔

(viii) Define Annual Rings. (viii) سالانہ حلقے کی تعریف کیجیے۔

3. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5** سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Explain Wedge. (i) کلہاڑی کی وضاحت کریں۔

(ii) Explain Carpenter Axe. (ii) تیشہ کی وضاحت کریں۔

(iii) Define Chisel. (iii) ستھری کی تعریف کیجیے۔

(iv) Describe the Body of Plane. (iv) رندے کی باڈی کی وضاحت کریں۔

(v) Describe the blade of Plane. (v) تیغ کی وضاحت کیجیے۔

(vi) Describe Key Hole Saw. (vi) سوراخ نکالنے والی آری کی وضاحت کیجیے۔

(vii) Describe Frame Saw. (vii) بڑے آرے کی وضاحت کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. **12 = 4 x 3** نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Describe the eight characteristics of seasoning of wood. 4۔ لکڑی کو خشک کرنے کے آٹھ فائدے تحریر کریں۔

5. Write the types of Rots. 5۔ گلاوٹ کی اقسام لکھیں۔

6. Write any two measuring tools. 6۔ کوئی سے دو پیمائشی اوزار تحریر کریں۔

7. Write the parts of metallic plane. 7۔ سٹیل رندہ کے حصوں کے نام لکھیں۔

8. Describe the method of grinding the blade of a plane. 8۔ رندے کے بلیڈ کو تیز کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔

78-2022(A)-50 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1991

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 224

WOOD WORK

چوب کاری

TIME ALLOWED: 10 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 10 منٹ

MAXIMUM MARKS: 8

کل نمبر = 8

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Bark does the ________ of inner part of the tree. — چھال درخت کے اندرونی حصوں کی ______ کرتی ہے۔ (1)

(A) Cleanliness صفائی (B) Protection حفاظت

(C) Growth نشوونما (D) Supply of food خوراک پہنچانے کا

(2) Kinds of shakes are generally of ________ kinds. — دراڑیں عام طور پر ________ قسم کی ہوتی ہیں۔ (2)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(3) Parts of Hand Saw are: — دستی آری کے حصے ہوتے ہیں۔ (3)

(A) Four چار (B) Five پانچ (C) Six چھ (D) Seven سات

(4) Methods of wood sawing are: — لکڑی کی چرائی کے طریقے ہیں۔ (4)

(A) Four چار (B) Five پانچ (C) Six چھ (D) Seven سات

(5) Zig-zag ruler is used for taking _______ measurement. — بل دار پیمانہ پیمائش لینے میں استعمال ہوتا ہے۔ (5)

(A) Circular گول (B) Long لمبی (C) Wide چوڑائی (D) Vertical عمودی

(6) The lowest surface of the plane is called: — رندے کی سب سے نچلی سطح کو کہتے ہیں۔ (6)

(A) Face منہ/چہرہ (B) Body باڈی (C) Edge سائیڈ/کنگر (D) Sole تلہ

(7) ______________ are included in sharping tools. — کاٹنے والے تیز اوزاروں میں __________ شامل ہیں۔ (7)

(A) Mallet and Hammer میلٹ اور ہیمر ہتھوڑا (B) Rip Saw and Coping Saw رِپ سا اور کاپنگ آری

(C) Ball Pin and Cross Pin بال پن اور کراس پن (D) Chisels and Sathries چورسیاں اور ستھریاں

(8) Handle of plane is made of: — رندے کا دستہ ہوتا ہے۔ (8)

(A) Iron/wood لکڑی/لوہے کا (B) Plastic پلاسٹک کا (C) Aluminium ایلومینیم کا (D) Plywood پلائی ووڈ کا

78(Obj)-2022(A)-50 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Islamic Studies (Ele) (9th)   Session: ________

9th A/22

Group: 1st

Q. Nos	Paper Code 1201	Paper Code 1203	Paper Code 1205	Paper Code 1207
1	B	D	B	B
2	B	C	A	D
3	D	C	C	B
4	B	D	D	B
5	B	A	C	A
6	A	C	C	C
7	C	C	D	D
8	D	B	A	C
9	C	B	C	C
10	C	B	C	D
11	D	D	B	A
12	A	B	B	C
13	C	B	B	C
14	C	A	D	B
15	B	C	B	B
16				
17				
18				
19				
20				

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1202	Paper Code 1204	Paper Code 1206	Paper Code 1208
1	B	C	D	C
2	A	B	B	A
3	B	A	A	D
4	D	D	C	B
5	B	B	A	A
6	C	A	D	B
7	C	C	B	D
8	B	A	A	B
9	A	D	B	C
10	D	B	D	C
11	B	A	B	B
12	A	B	C	A
13	C	D	C	D
14	A	B	B	B
15	D	C	A	A
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون اسلامیات اختیاری پرچہ منسٹ I گروپ II ، I سکیم منو میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی(Subjective & Objective) کو بنظرِ عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated: 06-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Syed Muhammad Irfan Hameed	S.S.T	GHS Jamia-ul-Uloom New Multan	0323-6227136	[signature] 06/06/22
2	ڈاکٹر محمد فضل حق ترابی	S.S.T.	گورنمنٹ H/S خلیفہ سمہ لودھراں	0300-6827612	[signature] 06.06.2
3	Mahboob Ahmad Qureshi	SST	G Model H/S Gulgasht Multan	0300-6362747	M. [signature]
4	Nasima Idrees Lodhi	Principal	G.G.H/S Basti Khudadad	0300-0404600	[signature] 6/6/22
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی)، معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Abdul Sattar	SST H/E	Govt Pilot Sec School Multan	03356021947	[signature] 7/6/22
2	Abdul Raoof Khan	SST	Govt-Pilot Sec School, MN	03077424094	[signature] 7/6/22
3					

تاریخ 7/6/22

2022 (A)

رول نمبر 53

SSC PART-I (9th CLASS)

A[D]VANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-I

ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — وقت = 2.10 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How much is the revealing period of the Holy Quran and which Angel brought it?
قرآن مجید کتنے عرصہ میں نازل ہوا اور کون سا فرشتہ لایا؟

(ii) Write the translation of a Quranic verse about silent listening to the Holy Quran.
قرآن مجید کو خاموشی سے سننے کے متعلق ایک قرآنی آیت کا ترجمہ بیان کیجیے۔

(iii) According to the saying of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم how should we perform prayer?
رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟

(iv) Write the meaning of " نُہی ".
" نُہی " کا مفہوم بیان کیجیے۔

(v) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the leader of all the Prophets(A.S). Give a proof.
رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں۔ ایک ثبوت بیان کیجیے۔

(vi) Explain the meaning of Guidance.
ہدایت اور رہنمائی کا مفہوم بیان کیجیے۔

(vii) How was the nation of Noah destroyed?
قوم نوح کس طرح تباہ ہوئی؟

(viii) Define proper noun and write an example of it in Arabic.
اسم معرفہ کی تعریف کیجیے اور عربی میں ایک مثال بھی دیجیے۔

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by dealings?
معاملات سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is meant by faith of Oneness?
عقیدۂ توحید سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by wisdom in the light of Hadith?
حدیث کی روشنی میں دانائی سے کیا مراد ہے؟

(iv) Write meanings of شَقٌّ ۔ تَمْرَةٌ ۔ نَارٌ ۔ اَلصَّوْمُ
معانی لکھیے۔ شَقٌّ ۔ تَمْرَةٌ ۔ نَارٌ ۔ اَلصَّوْمُ

(v) What reward was given to Hazrat Ismaeel(A.S) on his sacrifice?
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا کیا صلہ ملا؟

(vi) Which year is called "the year of grief"?
کون سا سال غم کا سال کہلاتا ہے؟

(vii) Write two sentences on "Shaib-e-Abi Talib".
شعب ابی طالب پر دو جملے لکھیے۔

(viii) Define intrinsic feminine and give an exmaple in Arabic.
مونث معنوی کی تعریف کیجیے اور عربی میں ایک مثال دیجیے۔

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write meanings of اَرْسَلَ ۔ رُحَمَآءُ ۔ يُعْجِبُ ۔ سُوْق ۔
معانی لکھیے۔ اَرْسَلَ ۔ رُحَمَآءُ ۔ يُعْجِبُ ۔ سُوْق ۔

(ii) Write the meaning of " دَاعِىَ اِلَى اللّٰهِ " in detail.
" دَاعِىَ اِلَى اللّٰهِ " کا مفہوم واضح کیجیے۔

(iii) Why the aged persons deserve respect? Explain.
بوڑھے لوگ احترام کے مستحق کیوں ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

(iv) Write the meaning of Khatam-e-Nabovat and explain in few lines.
ختم نبوت کے معنی لکھیے اور چند سطروں میں وضاحت کیجیے۔

(v) Write meanings سَرَّهٗ ۔ يَبْسُطُ ۔ يُنْسَأُ ۔ اَثَر
معانی لکھیے۔ سَرَّهٗ ۔ يَبْسُطُ ۔ يُنْسَأُ ۔ اَثَر

(vi) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was true and trustworthy trader. Explain.
رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین تاجر تھے۔ واضح کیجیے۔

(vii) What order was delivered by the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم about the servants?
رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادموں کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟

(viii) Write the definition of irregular plural.
جمع مکسر کی تعریف لکھیے۔

(ورق الٹئے)

SECTION-II حصہ دوم

5. Translate and explain any two of the following Quranic Aayaat: 5 + 5 مندرجہ ذیل آیات قرآنی میں سے کسی دو کا ترجمہ اور تشریح لکھیے۔ ‎-5

(A) (الف) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(B) (ب) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط

(C) (ج) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ o

6. Translate and explain any one of the following Blessed Ahaadis. 5 درج ذیل احادیث مبارکہ میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ ‎-6

(i) اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلٰوةُ

(ii) اِنَّ اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَاناً اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ۔

7. Write answer of any two parts of the following: 5 + 5 درج ذیل میں سے صرف دو اجزا کے جواب لکھیے۔ ‎-7

(A) Explain the meaning of Prophethood (رسالت) and write any four characteristics of Prophets(A.S).
(الف) رسالت کا مفہوم بیان کیجیے اور انبیاء علیہم السلام کی کوئی سی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

(B) Opposition of Jews to the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(ب) یہود کی رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت

(C) Kind treatment of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with enemies.
(ج) رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک

8. Write down the answer of any one of the following: 5 درج ذیل میں سے صرف ایک جزو کا جواب تحریر کیجیے۔ ‎-8

(A) Define common noun and give its three examples in Arabic.
(الف) اسم نکرہ کی تعریف کیجیے اور عربی میں کوئی تین مثالیں دیجیے۔

(B) Define plural noun and give its three examples in Arabic.
(ب) اسم جمع کی تعریف کیجیے اور عربی میں کوئی تین مثالیں دیجیے۔

45-2022(A)-7000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1201

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-I — ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) TARTEEL (ترتیل) means: — " ترتیل " سے مراد ہے۔
- (A) To read carefully احتیاط سے پڑھنا
- (B) To read slowly ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا
- (C) To read loudly بلند آواز سے پڑھنا
- (D) To read in good tone خوش الحانی سے پڑھنا

(2) TASMEEA (تسمیہ) means: — تسمیہ سے مراد ہے۔
- (A) اعوذ باللہ
- (B) بسم اللہ
- (C) سبحان اللہ
- (D) لا الہ الا اللہ

(3) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is pray of: — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہیں۔
- (A) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
- (B) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام کی
- (C) Hazrat Yaqoob(A.S) حضرت یعقوب علیہ السلام کی
- (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

(4) الٓمٓ is a: — الٓمٓ ہے۔
- (A) Sentence جملہ
- (B) Letters حروف
- (C) Noun اسم
- (D) Verb فعل

(5) One should seek refuge from ______ before reciting the Holy Quran. — قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پناہ مانگنی چاہیے۔
- (A) Angels فرشتوں سے
- (B) Devils شیطان سے
- (C) People لوگوں سے
- (D) Jins جنوں سے

(6) The best man is one who is: — بہترین انسان وہ ہے جو:۔
- (A) Beneficial for people لوگوں کے لیے نفع مند ہو
- (B) Well educated زیادہ تعلیم یافتہ ہو
- (C) More wealthy زیادہ مال دار ہو
- (D) More powerful زیادہ طاقت ور ہو

(7) Telling a lie is sign of a: — جھوٹ بولنا علامت ہے۔
- (A) Non-Muslim کافر کی
- (B) Polytheist مشرک کی
- (C) Hypocrite منافق کی
- (D) Muslim مسلمان کی

(8) خلیل اللہ is title of: — خلیل اللہ لقب ہے۔
- (A) Hazrat Ismail(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام کا
- (B) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
- (C) Hazrat Nooh(A.S) حضرت نوح علیہ السلام کا
- (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

(9) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started open preaching from: — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کیا۔
- (A) Kaba کعبۃ اللہ سے
- (B) Masjid-e-Nabvi مسجد نبوی سے
- (C) Kooh-e-Safa کوہ صفا سے
- (D) Cave Hira غار حرا سے

(10) Hazrat Ali(R.A) embraced Islam in the age of: — حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔
- (A) 10 years دس سال کی عمر میں
- (B) 12 years بارہ سال کی عمر میں
- (C) 13 years تیرہ سال کی عمر میں
- (D) 14 years چودہ سال کی عمر میں

(11) The first injured companion of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for the cause of Islam was: — اسلام کی راہ میں سب سے پہلے زخمی ہونے والے صحابی تھے
- (A) Hazrat Abu Bakar Siddique(R.A) حضرت ابوبکر صدیقؓ
- (B) Hazrat Umar Farooq(R.A) حضرت عمر فاروقؓ
- (C) Hazrat Ali(R.A) حضرت علیؓ
- (D) Hazrat Saad(R.A) حضرت سعدؓ

(12) The Rasool-e-Akram رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم left for Hajja-Tul-Wada on: — حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے۔
- (A) 10th Hijri دس ہجری کو
- (B) 9th Hijri نو ہجری کو
- (C) 8th Hijri آٹھ ہجری کو
- (D) 7th Hijri سات ہجری کو

(13) In Arabic language the meaning of " خاتم " is: — عربی زبان میں " خاتم " کا معنی ہے۔
- (A) Nabi نبی
- (B) Determination عزم
- (C) Seal مہر
- (D) Envelope لفافہ

(14) Types of Kalama are: — کلمہ کی اقسام ہیں۔
- (A) One ایک
- (B) Two دو
- (C) Three تین
- (D) Four چار

(15) According to grammar " قَلَمٌ " is a: — " قَلَمٌ " گرامر کی رو سے ہے۔
- (A) Verb فعل
- (B) Noun اسم
- (C) Letter حرف
- (D) Plural جمع

45(Obj)(☆)-2022(A)-7000 (MULTAN)

PAPER CODE
NUMBER: 1203

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______ 56

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-I — ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) خلیل اللہ is title of: — خلیل اللہ لقب ہے۔ (1)
(A) Hazrat Ismail(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام کا (B) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسٰی علیہ السلام کا
(C) Hazrat Nooh(A.S) حضرت نوح علیہ السلام کا (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

(2) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started open preaching from: — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کیا۔ (2)
(A) Kaba کعبۃ اللہ سے (B) Masjid-e-Nabvi مسجد نبوی سے (C) Kooh-e-Safa کوہ صفا سے (D) Cave Hira غار حرا سے

(3) Hazrat Ali(R.A) embraced Islam in the age of: — حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ (3)
(A) 10 years دس سال کی عمر میں (B) 12 years بارہ سال کی عمر میں (C) 13 years تیرہ سال کی عمر میں (D) 14 years چودہ سال کی عمر میں

(4) The first injured companion of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for the cause of Islam was: — اسلام کی راہ میں سب سے پہلے زخمی ہونے والے صحابی تھے (4)
(A) Hazrat Abu Bakar Siddique(R.A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) Hazrat Umar Farooq(R.A) حضرت عمر فاروقؓ
(C) Hazrat Ali(R.A) حضرت علیؓ (D) Hazrat Saad(R.A) حضرت سعدؓ

(5) The Rasool-e-Akram رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم left for Hajja-Tul-Wada on: — حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ (5)
(A) 10th Hijri دس ہجری کو (B) 9th Hijri نو ہجری کو (C) 8th Hijri آٹھ ہجری کو (D) 7th Hijri سات ہجری کو

(6) In Arabic language the meaning of "خاتم" is: — عربی زبان میں "خاتم" کا معنی ہے۔ (6)
(A) Nabi نبی (B) Determination عزم (C) Seal مہر (D) Envelope لفافہ

(7) Types of Kalama are: — کلمہ کی اقسام ہیں۔ (7)
(A) One ایک (B) Two دو (C) Three تین (D) Four چار

(8) According to grammar "قَلَمٌ" is a: — "قَلَمٌ" گرامر کی رو سے ہے۔ (8)
(A) Verb فعل (B) Noun اسم (C) Letter حرف (D) Plural جمع

(9) TARTEEL (ترتیل) means: — "ترتیل" سے مراد ہے۔ (9)
(A) To read carefully احتیاط سے پڑھنا (B) To read slowly ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا
(C) To read loudly بلند آواز سے پڑھنا (D) To read in good tone خوش الحانی سے پڑھنا

(10) TASMEEA (تسمیہ) means: — تسمیہ سے مراد ہے۔ (10)
(A) اعوذباللہ (B) بسم اللہ (C) سبحان اللہ (D) لا الٰہ الا اللہ

(11) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is pray of: — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہیں۔ (11)
(A) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسٰی علیہ السلام کی (B) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام کی
(C) Hazrat Yaqoob(A.S) حضرت یعقوب علیہ السلام کی (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

(12) الٓمّٓ is a: — الٓمّٓ ہے۔ (12)
(A) Sentence جملہ (B) Letters حروف (C) Noun اسم (D) Verb فعل

(13) One should seek refuge from ______ before reciting the Holy Quran. — قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پناہ مانگنی چاہیے۔ (13)
(A) Angels فرشتوں سے (B) Devils شیطان سے (C) People لوگوں سے (D) Jins جنوں سے

(14) The best man is one who is: — بہترین انسان وہ ہے جو:۔ (14)
(A) Beneficial for people لوگوں کے لیے نفع مند ہو (B) Well educated زیادہ تعلیم یافتہ ہو
(C) More wealthy زیادہ مال دار ہو (D) More powerful زیادہ طاقت ور ہو

(15) Telling a lie is sign of a: — جھوٹ بولنا علامت ہے۔ (15)
(A) Non-Muslim کافر کی (B) Polytheist مشرک کی (C) Hypocrite منافق کی (D) Muslim مسلمان کی

45(Obj)(☆☆)-2022(A)-7000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: **1205**

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____________

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-I ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) One should seek refuge from ______ before reciting the Holy Quran. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پناہ مانگنی چاہیے۔ (1)
- (A) Angels فرشتوں سے (B) Devils شیطان سے (C) People لوگوں سے (D) Jins جنوں سے

(2) The best man is one who is: بہترین انسان وہ ہے جو:۔ (2)
- (A) Beneficial for people لوگوں کے لیے نفع مند ہو (B) Well educated زیادہ تعلیم یافتہ ہو
- (C) More wealthy زیادہ مال دار ہو (D) More powerful زیادہ طاقت ور ہو

(3) Telling a lie is sign of a: جھوٹ بولنا علامت ہے۔ (3)
- (A) Non-Muslim کافر کی (B) Polytheist مشرک کی (C) Hypocrite منافق کی (D) Muslim مسلمان کی

(4) خلیل اللہ is title of: خلیل اللہ لقب ہے۔ (4)
- (A) Hazrat Ismail(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام کا (B) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسٰی علیہ السلام کا
- (C) Hazrat Nooh(A.S) حضرت نوح علیہ السلام کا (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

(5) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started open preaching from: رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کیا۔ (5)
- (A) Kaba کعبۃ اللہ سے (B) Masjid-e-Nabvi مسجد نبوی سے (C) Kooh-e-Safa کوہ صفا سے (D) Cave Hira غار حرا سے

(6) Hazrat Ali(R.A) embraced Islam in the age of: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ (6)
- (A) 10 years دس سال کی عمر میں (B) 12 years بارہ سال کی عمر میں (C) 13 years تیرہ سال کی عمر میں (D) 14 years چودہ سال کی عمر میں

(7) The first injured companion of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for the cause of Islam was: اسلام کی راہ میں سب سے پہلے زخمی ہونے والے صحابی تھے (7)
- (A) Hazrat Abu Bakar Siddique(R.A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) Hazrat Umar Farooq(R.A) حضرت عمر فاروقؓ
- (C) Hazrat Ali(R.A) حضرت علیؓ (D) Hazrat Saad(R.A) حضرت سعدؓ

(8) The Rasool-e-Akram رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم left for Hajja-Tul-Wada on: حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ (8)
- (A) 10th Hijri دس ہجری کو (B) 9th Hijri نو ہجری کو (C) 8th Hijri آٹھ ہجری کو (D) 7th Hijri سات ہجری کو

(9) In Arabic language the meaning of " خاتم " is: عربی زبان میں " خاتم " کا معنی ہے۔ (9)
- (A) Nabi نبی (B) Determination عزم (C) Seal مہر (D) Envelope لفافہ

(10) Types of Kalama are: کلمہ کی اقسام ہیں۔ (10)
- (A) One ایک (B) Two دو (C) Three تین (D) Four چار

(11) According to grammar " قَلَمٌ " is a: " قَلَمٌ " گرامر کی رو سے ہے۔ (11)
- (A) Verb فعل (B) Noun اسم (C) Letter حرف (D) Plural جمع

(12) TARTEEL (ترتیل) means: " ترتیل " سے مراد ہے۔ (12)
- (A) To read carefully احتیاط سے پڑھنا (B) To read slowly ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا
- (C) To read loudly بلند آواز سے پڑھنا (D) To read in good tone خوش الحانی سے پڑھنا

(13) TASMEEA (تسمیہ) means: تسمیہ سے مراد ہے۔ (13)
- (A) اعوذ باللہ (B) بسم اللہ (C) سبحان اللہ (D) لا الٰہ الا اللہ

(14) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is pray of: رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہیں۔ (14)
- (A) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسٰی علیہ السلام کی (B) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام کی
- (C) Hazrat Yaqoob(A.S) حضرت یعقوب علیہ السلام کی (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

(15) الٓمّٓ is a: الٓمّٓ ہے۔ (15)
- (A) Sentence جملہ (B) Letters حروف (C) Noun اسم (D) Verb فعل

45(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-7000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1207

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

88

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-I ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) TASMEEA (تسمیہ) means: تسمیہ سے مراد ہے۔ (1)

(A) اعوذباللہ (B) بسم اللہ (C) سبحان اللہ (D) لا إله إلا الله

(2) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is pray of: رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہیں۔ (2)

(A) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسٰی علیہ السلام کی (B) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام کی
(C) Hazrat Yaqoob(A.S) حضرت یعقوب علیہ السلام کی (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

(3) الٓمٓ is a: الٓمٓ ہے۔ (3)

(A) Sentence جملہ (B) Letters حروف (C) Noun اسم (D) Verb فعل

(4) One should seek refuge from _____ before reciting the Holy Quran. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پناہ مانگنی چاہیے۔ (4)

(A) Angels فرشتوں سے (B) Devils شیطان سے (C) People لوگوں سے (D) Jins جنوں سے

(5) The best man is one who is: بہترین انسان وہ ہے جو:۔ (5)

(A) Beneficial for people لوگوں کے لیے نفع مند ہو (B) Well educated زیادہ تعلیم یافتہ ہو
(C) More wealthy زیادہ مال دار ہو (D) More powerful زیادہ طاقت ور ہو

(6) Telling a lie is sign of a: جھوٹ بولنا علامت ہے۔ (6)

(A) Non-Muslim کافر کی (B) Polytheist مشرک کی (C) Hypocrite منافق کی (D) Muslim مسلمان کی

(7) خلیل اللہ is title of: خلیل اللہ لقب ہے۔ (7)

(A) Hazrat Ismail(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام کا (B) Hazrat Essa(A.S) حضرت عیسٰی علیہ السلام کا
(C) Hazrat Nooh(A.S) حضرت نوح علیہ السلام کا (D) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

(8) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started open preaching from: رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کیا۔ (8)

(A) Kaba کعبۃ اللہ سے (B) Masjid-e-Nabvi مسجد نبوی سے (C) Kooh-e-Safa کوہ صفا سے (D) Cave Hira غار حرا سے

(9) Hazrat Ali(R.A) embraced Islam in the age of: حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ (9)

(A) 10 years دس سال کی عمر میں (B) 12 years بارہ سال کی عمر میں (C) 13 years تیرہ سال کی عمر میں (D) 14 years چودہ سال کی عمر میں

(10) The first injured companion of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for the cause of Islam was: اسلام کی راہ میں سب سے پہلے زخمی ہونے والے صحابی تھے (10)

(A) Hazrat Abu Bakar Siddique(R.A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) Hazrat Umar Farooq(R.A) حضرت عمر فاروقؓ
(C) Hazrat Ali(R.A) حضرت علیؓ (D) Hazrat Saad(R.A) حضرت سعدؓ

(11) The Rasool-e-Akram رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم left for Hajja-Tul-Wada on: حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ (11)

(A) 10th Hijri دس ہجری کو (B) 9th Hijri نو ہجری کو (C) 8th Hijri آٹھ ہجری کو (D) 7th Hijri سات ہجری کو

(12) In Arabic language the meaning of " خاتم " is: عربی زبان میں " خاتم " کا معنی ہے۔ (12)

(A) Nabi نبی (B) Determination عزم (C) Seal مہر (D) Envelope لفافہ

(13) Types of Kalama are: کلمہ کی اقسام ہیں۔ (13)

(A) One ایک (B) Two دو (C) Three تین (D) Four چار

(14) According to grammar " قَلَمٌ " is a: " قَلَمٌ " گرامر کی رو سے ہے۔ (14)

(A) Verb فعل (B) Noun اسم (C) Letter حرف (D) Plural جمع

(15) TARTEEL (ترتیل) means: " ترتیل " سے مراد ہے۔ (15)

(A) To read carefully احتیاط سے پڑھنا (B) To read slowly ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا
(C) To read loudly بلند آواز سے پڑھنا (D) To read in good tone خوش الحانی سے پڑھنا

45(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-7000 **(MULTAN)**

رول نمبر ______

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-II — ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 — سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by prayers in connection with topics of the Holy Quran? — مضامین قرآن کے سلسلہ میں عبادات سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is meant by " رموزاوقاف "? — رموزاوقاف سے کیا مراد ہے؟

(iii) Translate رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ — ترجمہ کیجیے۔ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ

(iv) Write down the kinds of rights. — حقوق کی اقسام لکھیے۔

(v) Who was Namrood? — نمرود کون تھا؟

(vi) Explain the source of the knowledge of Risalat. — رسالت کے علم کے سرچشمہ کی وضاحت کیجیے۔

(vii) Write the literal and terminological meanings of Risalat (رسالت). — رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معانی تحریر کیجیے۔

(viii) Define the proper noun and common noun. — اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف کیجیے۔

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 — سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Translate عَزِيْزٌ ۔ حَرِيْصٌ ۔ تَوَكَّلْتُ ۔ رَءُوْفٌ — معانی لکھیے۔ عَزِيْزٌ ۔ حَرِيْصٌ ۔ تَوَكَّلْتُ ۔ رَءُوْفٌ

(ii) What was the prayer of Hazrat Ibrihim(A.S) and Hazrat Ismail(A.S) at the time of construction of Kaaba? — تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟

(iii) Write two advantages of Roza(Fasting). — روزہ کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

(iv) What is meant by the rights of Allah? — حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟

(v) Write the names of four companions (صحابہ رضی اللہ عنہم) who accepted Islam under the influence of Hazrat Abu Bakr(R.A). — حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زیر اثر اسلام قبول کرنے والے صحابہؓ میں سے چار کے نام لکھیے۔

(vi) What is meant by the year of sorrow? — سال غم سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write an Ayat or its translation in the dignity of Masjid-e-Quba. — مسجد قبا کی فضیلت کے بارے میں ایک آیت یا اس کا ترجمہ لکھیے۔

(viii) Define literal feminine. — مؤنث لفظی کی تعریف کیجیے۔

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 — سوال نمبر 4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two benefits of modesty. — حیاء کے دو فوائد لکھیے۔

(ii) Write meanings of ثَلَاثٌ ۔ وَعَدَ ۔ حَدَّثَ ۔ اَخْلَفَ — معانی لکھیے۔ ثَلَاثٌ ۔ وَعَدَ ۔ حَدَّثَ ۔ اَخْلَفَ

(iii) Write the translation of an Ayat related to Khatam-e-Nabuwat. — ختم نبوت کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ تحریر کیجیے۔

(iv) What is the incident of Harb-e-Fijar (حرب فجار)? — واقعہ حرب فجار کیا ہے؟

(v) What was the treatment of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with the animals? — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟

(vi) What is meant by " دَاعِيَ اِلَى اللّٰهِ "? — " دَاعِيَ اِلَى اللّٰهِ " سے کیا مراد ہے؟

(vii) What favour did Allah Almighty do on the believers? — اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کیا احسان فرمایا؟

(viii) Define plural and write one example in Arabic. — جمع کی تعریف اور عربی میں ایک مثال لکھیے۔

(ورق الٹئے)

SECTION-II حصہ دوم

5. Translate and explain any two of the following Quranic Aayaat: 5 + 5 — مندرجہ ذیل آیات قرآنی میں سے کسی دو کا ترجمہ اور تشریح لکھیے۔ ‎5۔

(A) (الف) يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(B) (ب) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ط

(C) (ج) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ۝

6. Translate and explain any one of the following Blessed Ahaadis. 5 — درج ذیل احادیث مبارکہ میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ ‎6۔

(i) اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلٰوةُ (ii) مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّبْسُطَ اللّٰهُ رِزْقَهٗ وَاَنْ يُّنْسَاَلَهٗ مِنْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ

7. Write answer of any two parts of the following: 5 + 5 — درج ذیل میں سے صرف دو اجزا کا جواب دیجیے۔ ‎7۔

(A) Write the three ways of reforming humanity and explain the best way. — (الف) انسانیت کی اصلاح و تربیت کے تین طریقے لکھیے اور سب سے بہترین طریقے کی وضاحت کیجیے۔

(B) Write a note on the preaching of Islam in Taif. — (ب) طائف میں تبلیغ اسلام پر نوٹ لکھیے۔

(C) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was very kind to children. Write any five examples. — (ج) رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بڑے شفیق تھے۔ پانچ مثالیں لکھیے۔

8. Write down the answer of any one of the following: 5 — درج ذیل میں سے صرف ایک جزو کا جواب تحریر کیجیے۔ ‎8۔

(A) Define Kalma and give three examples in Arabic. — (الف) کلمہ کی تعریف کریں اور عربی میں تین مثالیں دیں۔

(B) Define regular plural masculine and give three examples in Arabic. — (ب) جمع مذکر سالم کی تعریف کریں اور عربی میں تین مثالیں دیجیے۔

47-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1206

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر (61)

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-II ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

notespk.com

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) "O Allah Almighty, wipe out the disbelievers from the world" which prophet(A.S) requested to Allah: ''اے اللہ دُنیا سے کافروں کو مٹادے'' کس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ (1)
(A) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (B) Hazrat Mosa(A.S) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(C) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم (D) Hazrat Noah(A.S) حضرت نوح علیہ السلام

(2) The torment of frogs and blood came down on: مینڈک اور خون کا عذاب نازل ہوا۔ (2)
(A) Nation of Noah قومِ نوحؑ پر (B) Nation of Mosa قومِ موسیٰؑ پر (C) Nation of Loot قومِ لوطؑ پر (D) Nation of Issa قومِ عیسیٰؑ پر

(3) The person who was sent to the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم to stop the preaching of Islam: وہ شخص جس کو رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ (3)
(A) Utba bin Rabia عتبہ بن ربیعہ (B) Abdullah bin Ubai عبداللہ بن اُبَی (C) Suraqa bin Ju'sham سراقہ بن جعشم (D) Umro Bin Alhazar عمرو بن الحضر

(4) In Arabic language the meaning of '' خاتم '' is: عربی زبان میں '' خاتم '' کا معنی ہے۔ (4)
(A) Nabi نبی (B) Determination عزم (C) Seal مہر (D) Envelope لفافہ

(5) The names which do not intended to male & female, it will be used: جن اسماء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے وہاں استعمال ہوتا ہے۔ (5)
(A) Mascaline مذکر (B) Feminine مؤنث (C) Literal feminine مؤنث لفظی (D) Plural(regular) masculine جمع مذکر سالم

(6) According to Arabic grammar '' اَلْبَیْتُ '' is: عربی قواعد کی رو سے '' اَلْبَیْتُ '' (6)
(A) Common noun اسم نکرہ (B) Literal feminine مؤنث لفظی (C) Intrinsic feminine مؤنث معنوی (D) Proper noun اسم معرفہ

(7) Commands regarding murder and adultery are related to: قتل اور زنا کے متعلق احکام تعلق رکھتے ہیں۔ (7)
(A) Dealings معاملات سے (B) Ethics اخلاقیات سے (C) Worship عبادات سے (D) Tales قصص سے

(8) '' بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ '' is called: '' بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ '' کو کہتے ہیں۔ (8)
(A) Tasmiah تسمیہ (B) Tauwoz تعوذ (C) Tarteel ترتیل (D) Purity پاکیزگی

(9) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم revised the Holy Quran in the last year of His life: رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے عمر کے آخری سال قرآن مجید دہرایا۔ (9)
(A) One time ایک مرتبہ (B) Two times دو مرتبہ (C) Three times تین مرتبہ (D) Four times چار مرتبہ

(10) The literal meaning of '' مَنّ '' is: '' مَنّ '' کے لفظی معنی ہیں۔ (10)
(A) Well-wisher خیرخواہ (B) Guidance ہدایت (C) Willing رضامندی (D) Favour احسان

(11) Which Prophet(A.S) is called '' سِرَاجٌ مُنِیْر ''? '' سِرَاجٌ مُنِیْر '' کس نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے؟ (11)
(A) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام (B) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم
(C) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) Hazrat Ismaeel(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام

(12) He is perfect believer who: کامل ایمان والا وہ ہے جو:۔ (12)
(A) Offers prayers نماز پڑھتا ہے۔ (B) Pays Zakat زکوٰۃ دیتا ہے
(C) Posseses good morals اچھے اخلاق کا مالک ہے (D) Speaks the truth سچ بولتا ہے

(13) The heart condition due to which man avoids from undesirable deeds is: وہ دلی کیفیت جس کی وجہ سے انسان ناپسندیدہ کاموں سے بچتا ہے۔ (13)
(A) Peace امن ہے (B) Justice عدل ہے (C) Modesty حیاء ہے (D) Wisdom دانائی ہے

(14) The status of Prophethood is attained by: رسالت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ (14)
(A) Struggle سعی و محنت سے (B) Divine gifted عطیہ الٰہی ہے (C) Prayers دُعاؤں سے (D) Charity صدقات دینے سے

(15) To convey the message of Allah Almighty to the people is called: اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کہلاتا ہے۔ (15)
(A) Preaching تبلیغ (B) Worship عبادت (C) Shariat شریعت (D) Education تعلیم

47(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1208	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر 6

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-II — ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) In Arabic language the meaning of " خاتم " is: — عربی زبان میں " خاتم " کا معنی ہے۔

(A) Nabi نبی (B) Determination عزم (C) Seal مہر (D) Envelope لفافہ

(2) The names which do not intended to male & female, it will be used: — جن اسماء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے وہاں استعمال ہوتا ہے۔

(A) Mascaline مذکر (B) Feminine مؤنث (C) Literal feminine مؤنث لفظی (D) Plural(regular) masculine جمع مذکر سالم

(3) According to Arabic grammar " اَلْبَيْتُ " is: — عربی قواعد کی رو سے " اَلْبَيْتُ "

(A) Common noun اسم نکرہ (B) Literal feminine مؤنث لفظی (C) Intrinsic feminine مؤنث معنوی (D) Proper noun اسم معرفہ

(4) Commands regarding murder and adultery are related to: — قتل اور زنا کے متعلق احکام تعلق رکھتے ہیں۔

(A) Dealings معاملات سے (B) Ethics اخلاقیات سے (C) Worship عبادات سے (D) Tales قصص سے

(5) " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ " is called: — " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ " کو کہتے ہیں۔

(A) Tasmiah تسمیہ (B) Tauwoz تعوذ (C) Tarteel ترتیل (D) Purity پاکیزگی

(6) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم revised the Holy Quran in the last year of His life: — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے آخری سال قرآن مجید دہرایا۔

(A) One time ایک مرتبہ (B) Two times دومرتبہ (C) Three times تین مرتبہ (D) Four times چارمرتبہ

(7) The literal meaning of " مَنّ " is: — " مَنّ " کے لفظی معنی ہیں۔

(A) Well-wisher خیرخواہ (B) Guidance ہدایت (C) Willing رضامندی (D) Favour احسان

(8) Which Prophet(A.S) is called " سِرَاجٌ مُّنِيْر "? — " سِرَاجٌ مُّنِيْر " کس نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے؟

(A) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام (B) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(C) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) Hazrat Ismaeel(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام

(9) He is perfect believer who: — کامل ایمان والا وہ ہے جو:۔

(A) Offers prayers نماز پڑھتا ہے۔ (B) Pays Zakat زکوٰۃ دیتا ہے
(C) Posseses good morals اچھے اخلاق کا مالک ہے (D) Speaks the truth سچ بولتا ہے

(10) The heart condition due to which man avoids from undesirable deeds is: — وہ دلی کیفیت جس کی وجہ سے انسان ناپسندیدہ کاموں سے بچتا ہے۔

(A) Peace امن ہے (B) Justice عدل ہے (C) Modesty حیاء ہے (D) Wisdom دانائی ہے

(11) The status of Prophethood is attained by: — رسالت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔

(A) Struggle سعی و محنت سے (B) Divine gifted عطیہ الٰہی ہے (C) Prayers دعاؤں سے (D) Charity صدقات دینے سے

(12) To convey the message of Allah Almighty to the people is called: — اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کہلاتا ہے۔

(A) Preaching تبلیغ (B) Worship عبادت (C) Shariat شریعت (D) Education تعلیم

(13) "O Allah Almighty, wipe out the disbelievers from the world" which prophet(A.S) requested to Allah: — " اے اللہ دنیا سے کافروں کو مٹا دے " کس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔

(A) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (B) Hazrat Mosa(A.S) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(C) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (D) Hazrat Noah(A.S) حضرت نوح علیہ السلام

(14) The torment of frogs and blood came down on: — مینڈک اور خون کا عذاب نازل ہوا۔

(A) Nation of Noah قوم نوحؑ پر (B) Nation of Mosa قوم موسیٰؑ پر (C) Nation of Loot قوم لوطؑ پر (D) Nation of Issa قوم عیسیٰؑ پر

(15) The person who was sent to the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to stop the preaching of Islam: — وہ شخص جس کو رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے بھیجا گیا۔

(A) Utba bin Rabia عتبہ بن ربیعہ (B) Abdullah bin Ubai عبداللہ بن اُبی (C) Suraqa bin Ju'sham سراقہ بن جعشم (D) Umro Bin Alhazar عمرو بن الحضر

47(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1202

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-II — ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes — وقت = 20 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Commands regarding murder and adultery are related to: — قتل اور زنا کے متعلق احکام تعلق رکھتے ہیں۔

(A) Dealings معاملات سے (B) Ethics اخلاقیات سے (C) Worship عبادات سے (D) Tales قصص سے

(2) '' بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ '' is called: — '' بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ '' کو کہتے ہیں۔

(A) Tasmiah تسمیہ (B) Tauwoz تعوذ (C) Tarteel ترتیل (D) Purity پاکیزگی

(3) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم revised the Holy Quran in the last year of His life: — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے آخری سال قرآن مجید دہرایا۔

(A) One time ایک مرتبہ (B) Two times دومرتبہ (C) Three times تین مرتبہ (D) Four times چار مرتبہ

(4) The literal meaning of '' مَنّ '' is: — '' مَنّ '' کے لفظی معنی ہیں۔

(A) Well-wisher خیرخواہ (B) Guidance ہدایت (C) Willing رضامندی (D) Favour احسان

(5) Which Prophet(A.S) is called '' سِرَاجٌ مُنِيْر ''? — '' سِرَاجٌ مُنِيْر '' کس نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے؟

(A) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام (B) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(C) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) Hazrat Ismaeel(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام

(6) He is perfect believer who: — کامل ایمان والا وہ ہے جو:۔

(A) Offers prayers نماز پڑھتا ہے۔ (B) Pays Zakat زکوٰۃ دیتا ہے

(C) Posseses good morals اچھے اخلاق کا مالک ہے (D) Speaks the truth سچ بولتا ہے

(7) The heart condition due to which man avoids from undesirable deeds is: — وہ دِلی کیفیت جس کی وجہ سے انسان ناپسندیدہ کاموں سے بچتا ہے۔

(A) Peace امن ہے (B) Justice عدل ہے (C) Modesty حیاء ہے (D) Wisdom دانائی ہے

(8) The status of Prophethood is attained by: — رسالت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔

(A) Struggle سعی ومحنت سے (B) Divine gifted عطیہ الٰہی ہے (C) Prayers دُعاؤں سے (D) Charity صدقات دینے سے

(9) To convey the message of Allah Almighty to the people is called: — اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کہلاتا ہے۔

(A) Preaching تبلیغ (B) Worship عبادت (C) Shariat شریعت (D) Education تعلیم

(10) "O Allah Almighty, wipe out the disbelievers from the world" which prophet(A.S) requested to Allah: — '' اے اللہ دُنیا سے کافروں کو مٹا دے '' کس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔

(A) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (B) Hazrat Mosa(A.S) حضرت موسیٰ علیہ السلام

(C) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (D) Hazrat Noah(A.S) حضرت نوح علیہ السلام

(11) The torment of frogs and blood came down on: — مینڈک اور خون کا عذاب نازل ہوا۔

(A) Nation of Noah قوم نوحؑ پر (B) Nation of Mosa قوم موسیٰؑ پر (C) Nation of Loot قوم لوطؑ پر (D) Nation of Issa قوم عیسیٰؑ پر

(12) The person who was sent to the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to stop the preaching of Islam: — وہ شخص جس کو رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے بھیجا گیا۔

(A) Utba bin Rabia عتبہ بن ربیعہ (B) Abdullah bin Ubai عبداللہ بن اُبی (C) Suraqa bin Ju'sham سراقہ بن جعشم (D) Umro Bin Alhazar عمرو بن الحضر

(13) In Arabic language the meaning of '' خاتم '' is: — عربی زبان میں '' خاتم '' کا معنی ہے۔

(A) Nabi نبی (B) Determination عزم (C) Seal مہر (D) Envelope لفافہ

(14) The names which do not intended to male & female, it will be used: — جن اسماء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے وہاں استعمال ہوتا ہے۔

(A) Mascaline مذکر (B) Feminine مؤنث (C) Literal feminine مؤنث لفظی (D) Plural(regular) masculine جمع مذکر سالم

(15) According to Arabic grammar '' اَلْبَيْتُ '' is: — عربی قواعد کی رو سے '' اَلْبَيْتُ ''

(A) Common noun اسم نکرہ (B) Literal feminine مؤنث لفظی (C) Intrinsic feminine مؤنث معنوی (D) Proper noun اسم معرفہ

47(Obj)(☆)-2022(A)-4000 (MULTAN)

Page 26 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

PAPER CODE NUMBER: 1204

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____ (64)

ADVANCE ISLAMIC STUDIES (ELECTIVE) GROUP-II

ایڈوانس اسلامک سٹڈیز (الیکٹیو) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The heart condition due to which man avoids from undesirable deeds is: وہ دلی کیفیت جس کی وجہ سے انسان ناپسندیدہ کاموں سے بچتا ہے۔ (1)

(A) Peace امن ہے (B) Justice عدل ہے (C) Modesty حیاء ہے (D) Wisdom دانائی ہے

(2) The status of Prophethood is attained by: رسالت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ (2)

(A) Struggle سعی ومحنت سے (B) Divine gifted عطیہ الٰہی ہے (C) Prayers دُعاؤں سے (D) Charity صدقات دینے سے

(3) To convey the message of Allah Almighty to the people is called: اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کہلاتا ہے۔ (3)

(A) Preaching تبلیغ (B) Worship عبادت (C) Shariat شریعت (D) Education تعلیم

(4) "O Allah Almighty, wipe out the disbelievers from the world" which prophet(A.S) requested to Allah: "اے اللہ دُنیا سے کافروں کو مٹا دے" کس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ (4)

(A) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (B) Hazrat Mosa(A.S) حضرت موسیٰ علیہ السلام

(C) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (D) Hazrat Noah(A.S) حضرت نوح علیہ السلام

(5) The torment of frogs and blood came down on: مینڈک اور خون کا عذاب نازل ہوا۔ (5)

(A) Nation of Noah قوم نوحؑ پر (B) Nation of Mosa قوم موسیٰؑ پر (C) Nation of Loot قوم لوطؑ پر (D) Nation of Issa قوم عیسیٰؑ پر

(6) The person who was sent to the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to stop the preaching of Islam: وہ شخص جس کو رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ (6)

(A) Utba bin Rabia عتبہ بن ربیعہ (B) Abdullah bin Ubai عبداللہ بن اُبی (C) Suraqa bin Ju'sham سراقہ بن جعشم (D) Umro Bin Alhazar عمرو بن الحضر

(7) In Arabic language the meaning of " خَاتَم " is: عربی زبان میں " خاتم " کا معنی ہے۔ (7)

(A) Nabi نبی (B) Determination عزم (C) Seal مہر (D) Envelope لفافہ

(8) The names which do not intended to male & female, it will be used: جن اسماء میں نر اور مادہ نہیں ہوتے وہاں استعمال ہوتا ہے۔ (8)

(A) Mascaline مذکر (B) Feminine مؤنث (C) Literal feminine مؤنث لفظی (D) Plural(regular) masculine جمع مذکر سالم

(9) According to Arabic grammar " اَلْبَیْتُ " is: عربی قواعد کی رو سے " اَلْبَیْتُ " (9)

(A) Common noun اسم نکرہ (B) Literal feminine مؤنث لفظی (C) Intrinsic feminine مؤنث معنوی (D) Proper noun اسم معرفہ

(10) Commands regarding murder and adultery are related to: قتل اور زنا کے متعلق احکام تعلق رکھتے ہیں۔ (10)

(A) Dealings معاملات سے (B) Ethics اخلاقیات سے (C) Worship عبادات سے (D) Tales قصص سے

(11) " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ " is called: " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ " کو کہتے ہیں۔ (11)

(A) Tasmiah تسمیہ (B) Tauwoz تعوذ (C) Tarteel ترتیل (D) Purity پاکیزگی

(12) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم revised the Holy Quran in the last year of His life: رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے آخری سال قرآن مجید دہرایا۔ (12)

(A) One time ایک مرتبہ (B) Two times دومرتبہ (C) Three times تین مرتبہ (D) Four times چار مرتبہ

(13) The literal meaning of " مَنّ " is: " مَنّ " کے لفظی معنی ہیں۔ (13)

(A) Well-wisher خیرخواہ (B) Guidance ہدایت (C) Willing رضامندی (D) Favour احسان

(14) Which Prophet(A.S) is called " سِرَاجٌ مُّنِيْر "? " سِرَاجٌ مُّنِيْر " کس نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے؟ (14)

(A) Hazrat Adam(A.S) حضرت آدم علیہ السلام (B) Hazrat Muhammad حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(C) Hazrat Ibrahim(A.S) حضرت ابراہیم علیہ السلام (D) Hazrat Ismaeel(A.S) حضرت اسماعیل علیہ السلام

(15) He is perfect believer who: کامل ایمان والا وہ ہے جو:۔ (15)

(A) Offers prayers نماز پڑھتا ہے۔ (B) Pays Zakat زکوٰۃ دیتا ہے

(C) Posseses good morals اچھے اخلاق کا مالک ہے (D) Speaks the truth سچ بولتا ہے

47(Obj)(☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: ARABIC   Session: 2021-2023

Q.Nos	Paper Code 1241	Paper Code 1243	Paper Code 1245	Paper Code 1247
1	B	D	A	D
2	D	D	B	C
3	D	B	B	A
4	B	D	A	B
5	D	C	C	B
6	C	A	B	A
7	A	B	A	C
8	B	B	C	B
9	B	A	C	A
10	A	C	B	C
11	C	B	D	C
12	B	A	D	B
13	A	C	B	D
14	C	C	D	D
15	C	B	C	B
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون ___عربی___ پرچہ ___I___ گروپ ___/___ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظرِ عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated: 09-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	DR. NASIR HUSSAIN	SS	GHSS 135/10R KWL.	0302-7612743	[signature]
2	Mahboob Ahmad Qureshi	SST	G.M. H/S Gulgasht Multan	0300-6362747	M. [signature] 9/6/22
3					
4					

notespk.com

PAPER CODE
NUMBER: 1247

2022 (A)

رول نمبر ______ 158

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

عربی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر1 ۔ أَكْمِلِ الْجُمَلَ الْآتِيَةَ بِكَلِمَةٍ مُنَاسِبَةٍ ۔ (دیئے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کیجیے۔)

(1) " يَضُمُّ " فعل ______ ہے۔ (A) امر (B) نہی (C) ماضی (D) مضارع

(2) ______ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (A) اَلْأَخُ (B) اَلْمُسْلِمُ (C) اَلْمُؤْمِنُ (D) اَلْحَبِيْبُ

(3) رِسَالَةُ الْبِنْتِ إِلَى الْوَالِدِ وَالرَّدُّ ______ (A) عَلَيْهَا (B) عَلَيْهِ (C) عَلَيْهِمَا (D) عَلَيْهِمْ

(4) أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا وَ إِيْمَانًا بِهٖ هِيَ السَّيِّدَةُ ______ رضي اللّٰهُ عَنْهَا. (A) سُمَيَّةُ (B) خَدِيْجَةُ (C) حَفْصَةُ (D) سَوْدَةُ

(5) فَأَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى ______ أَوَّلًا. (A) الْمَدِيْنَةِ (B) الْحَبَشَةِ (C) الْهِنْدِ (D) مِصْرٍ

(6) وَفَتْحُ مَكَّةَ اِنْتَصَرَ فِيْهَا ______ عَلَى الْبَاطِلِ. (A) الْحَقُّ (B) الدِّيْنُ (C) الْعِلْمُ (D) الْجِهَادُ

(7) حِصَّتُنَا هٰذِهٖ ______ لِلْحَدِيْثِ عَنْ أَيِّ مَوْضُوْعٍ تُحِبُّوْنَهٗ. (A) خَاصَّةٌ (B) مُخْتَصَّةٌ (C) مَفْتُوْحَةٌ (D) ضَرُوْرِيَّةٌ

(8) يُقَالُ إِنَّ قِرْدًا رَأَى ______ يَشُقُّ خَشَبَةً. (A) حَدَّادًا (B) نَجَّارًا (C) تَاجِرًا (D) شُرْطِيًّا

(9) ______ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. (A) إِنَّمَا (B) إِنَّنِيْ (C) إِنِّيْ (D) إِنَّهٗ

(10) وَإِقْلِيْمُ ______ وَعَاصِمَتُهَا بِشَاوَرَ. (A) بَنْجَابُ (B) بَلُوْجِسْتَانَ (C) سَرْحَدُ (D) السِّنْدِ

(11) فَقَالَ جُحَا : ______ بِئْرٌ مَقْلُوْبَةٌ. (A) هٰذَا (B) ذٰلِكَ (C) هٰذِهٖ (D) هٰؤُلَاءِ

(12) بَقِيَ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ ______ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا.
(A) ثَلَاثَ (B) أَرْبَعَ (C) خَمْسَ (D) سِتَّ

(13) ______ أَنْ تَشْرَحَ لِيْ بَيْتًا مِنَ الشِّعْرِ. (A) يَرْجُوْكَ (B) تَرْجُوْكَ (C) نَرْجُوْكَ (D) أَرْجُوْكَ

(14) " اَلتَّسْهِيْلَاتُ " ______ ہے۔ (A) واحد (B) تثنیہ (C) جمع الجمع (D) جمع

(15) بَيْتُنَا يَقَعُ ______ شَارِعِ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدُ إِقْبَالٌ بِلَاهُوْرَ. (A) عَلٰى (B) فِيْ (C) إِلٰى (D) عَنْ

63(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-1000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1241

2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

رول نمبر ______ 159

عربی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات C ،B ،A اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر1 ۔ اَكْمِلِ الْجُمَلَ اَلآتِيَةَ بِكَلِمَةٍ مُنَاسِبَةٍ ۔ (دیئے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کیجیے۔)

(1) بَقِيَ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ ______ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا۔
(A) ثَلَاثَ (B) أَرْبَعَ (C) خَمْسَ (D) سِتَّ

(2) ______ أَنْ تَشْرَحَ لِيْ بَيْتًا مِنَ الشِّعْرِ۔
(A) يَرْجُوْكَ (B) تَرْجُوْكَ (C) نَرْجُوْكَ (D) أَرْجُوْكَ

(3) " اَلتَّسْهِيْلَاتُ " ______ ہے۔
(A) واحد (B) تثنیہ (C) جمع الجمع (D) جمع

(4) بَيْتُنَا يَقَعُ ______ شَارِعِ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدُ إِقْبَالٌ بِلَاهُوْرَ۔
(A) عَلٰى (B) فِيْ (C) إِلٰى (D) عَنْ

(5) " يَضُمُّ " فعل ______ ہے۔
(A) امر (B) نہی (C) ماضی (D) مضارع

(6) ______ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا۔
(A) اَلْأَخُ (B) اَلْمُسْلِمُ (C) اَلْمُؤْمِنُ (D) اَلْحَبِيْبُ

(7) رِسَالَةُ الْبِنْتِ إِلَى الْوَالِدِ وَالرَّدُّ ______
(A) عَلَيْهَا (B) عَلَيْهِ (C) عَلَيْهِمَا (D) عَلَيْهِمْ

(8) أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا وَ إِيْمَانًا بِهٖ هِيَ السَّيِّدَةُ ______ رضي اللّٰهُ عَنْهَا۔ (A) سُمَيَّةُ (B) خَدِيْجَةُ (C) حَفْصَةُ (D) سَوْدَةُ

(9) فَأَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى ______ أَوَّلًا۔ (A) اَلْمَدِيْنَةِ (B) اَلْحَبْشَةِ (C) اَلْهِنْدِ (D) مِصْرٍ

(10) وَفَتْحُ مَكَّةَ اِنْتَصَرَ فِيْهَا ______ عَلَى الْبَاطِلِ۔
(A) اَلْحَقُّ (B) اَلدِّيْنُ (C) اَلْعِلْمُ (D) اَلْجِهَادُ

(11) حِصَّتُنَا هٰذِهٖ ______ لِلْحَدِيْثِ عَنْ أَيِّ مَوْضُوْعٍ تُحِبُّوْنَهٗ۔ (A) خَاصَّةٌ (B) مُخْتَصَّةٌ (C) مَفْتُوْحَةٌ (D) ضَرُوْرِيَّةٌ

(12) يُقَالُ إِنَّ قِرْدًا رَأَى ______ يَشُقُّ خَشَبَةً۔
(A) حَدَّادًا (B) نَجَّارًا (C) تَاجِرًا (D) شُرْطِيًّا

(13) ______ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔
(A) إِنَّمَا (B) إِنَّنِيْ (C) إِنِّيْ (D) إِنَّهٗ

(14) وَإِقْلِيْمُ ______ وَعَاصِمَتُهَا بِشَاوَرَ۔
(A) بَنْجَابُ (B) بَلُوْجِسْتَانُ (C) سَرْحَدُ (D) اَلسِّنْدِ

(15) فَقَالَ جُحَا : ______ بِئْرٌ مَقْلُوْبَةٌ۔
(A) هٰذَا (B) ذٰلِكَ (C) هٰذِهٖ (D) هٰؤُلَاءِ

63(Obj)(☆)-2022(A)-1000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1243

2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

رول نمبر 160

عربی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر1 ۔ أَكْمِلِ الْجُمَلَ الْآتِيَةَ بِكَلِمَةٍ مُنَاسِبَةٍ ۔ (دیئے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کیجیے۔)

(1) ـــــــ أَنْ تَشْرَحَ لِيْ بَيْتًا مِنَ الشِّعْرِ. (A) يَرْجُوْكَ (B) تَرْجُوْكَ (C) نَرْجُوْكَ (D) أَرْجُوْكَ

(2) '' اَلتَّسْهِيْلَاتُ '' ـــــــ ہے۔ (A) واحد (B) تثنیہ (C) جمع الجمع (D) جمع

(3) بَيْتُنَا يَقَعُ ـــــــ شَارِعِ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدْ إِقْبَالْ بِلَاهُوْرَ. (A) عَلٰى (B) فِيْ (C) إِلٰى (D) عَنْ

(4) '' يَضُمُّ '' فعل ـــــــ ہے۔ (A) امر (B) نہی (C) ماضی (D) مضارع

(5) ـــــــ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (A) اَلْأَخُ (B) اَلْمُسْلِمُ (C) اَلْمُؤْمِنُ (D) اَلْحَبِيْبُ

(6) رِسَالَةُ الْبِنْتِ إِلَى الْوَالِدِ وَالرَّدُّ ـــــــ (A) عَلَيْهَا (B) عَلَيْهِ (C) عَلَيْهِمَا (D) عَلَيْهِمْ

(7) أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا وَ إِيْمَانًا بِهٖ هِيَ السَّيِّدَةُ ـــــــ رضي اللّٰهُ عَنْهَا. (A) سُمَيَّةُ (B) خَدِيْجَةُ (C) حَفْصَةُ (D) سَوْدَةُ

(8) فَأَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى ـــــــ أَوَّلًا. (A) الْمَدِيْنَةِ (B) الْحَبَشَةِ (C) الْهِنْدِ (D) مِصْرٍ

(9) وَفَتْحُ مَكَّةَ اِنْتَصَرَ فِيْهَا ـــــــ عَلَى الْبَاطِلِ. (A) الْحَقُّ (B) الدِّيْنُ (C) الْعِلْمُ (D) الْجِهَادُ

(10) حِصَّتُنَا هٰذِهٖ ـــــــ لِلْحَدِيْثِ عَنْ أَيِّ مَوْضُوْعٍ تُحِبُّوْنَهٗ. (A) خَاصَّةٌ (B) مُخْتَصَّةٌ (C) مَفْتُوْحَةٌ (D) ضَرُوْرِيَّةٌ

(11) يُقَالُ إِنَّ قِرْدًا رَأَى ـــــــ يَشُقُّ خَشَبَةً. (A) حَدَّادًا (B) نَجَّارًا (C) تَاجِرًا (D) شُرْطِيًّا

(12) ـــــــ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. (A) إِنَّمَا (B) إِنَّنِيْ (C) إِنِّيْ (D) إِنَّهٗ

(13) وَإِقْلِيْمُ ـــــــ وَعَاصِمَتُهَا بِشَاوَرَ. (A) بَنْجَابُ (B) بَلُوْجِسْتَانَ (C) سَرْحَدُ (D) السِّنْدِ

(14) فَقَالَ جُحَا : ـــــــ بِئْرٌ مَقْلُوْبَةٌ. (A) هٰذَا (B) ذٰلِكَ (C) هٰذِهٖ (D) هٰؤُلَاءِ

(15) بَقِيَ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ ـــــــ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا.

(A) ثَلَاثَ (B) أَرْبَعَ (C) خَمْسَ (D) سِتَّ

63(Obj)(☆☆)-2022(A)-1000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1245

رول نمبر 161

2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

عربی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر1 ۔ أَكْمِلِ الْجُمَلَ الْآتِيَةَ بِكَلِمَةٍ مُنَاسِبَةٍ ۔ (دیئے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کیجیے۔)

(1) رِسَالَةُ الْبِنْتِ إِلَى الْوَالِدِ وَالرَّدُّ ______ (A) عَلَيْهَا (B) عَلَيْهِ (C) عَلَيْهِمَا (D) عَلَيْهِمْ

(2) أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا وَ إِيمَانًا بِهِ هِيَ السَّيِّدَةُ ____ رضي اللّٰهُ عَنْهَا۔ (A) سُمَيَّةُ (B) خَدِيْجَةُ (C) حَفْصَةُ (D) سَوْدَةُ

(3) فَأَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى _____ أَوَّلًا۔ (A) الْمَدِيْنَةِ (B) الْحَبْشَةِ (C) الْهِنْدِ (D) مِصْرٍ

(4) وَفَتْحُ مَكَّةَ اِنْتَصَرَ فِيْهَا _____ عَلَى الْبَاطِلِ۔ (A) الْحَقُّ (B) الدِّيْنُ (C) الْعِلْمُ (D) الْجِهَادُ

(5) حِصَّتُنَا هٰذِهٖ _____ لِلْحَدِيْثِ عَنْ أَيِّ مَوْضُوْعٍ تُحِبُّوْنَهٗ۔ (A) خَاصَّةٌ (B) مُخْتَصَّةٌ (C) مَفْتُوْحَةٌ (D) ضَرُوْرِيَّةٌ

(6) يُقَالُ إِنَّ قِرْدًا رَأَى _____ يَشُقُّ خَشَبَةً۔ (A) حَدَّادًا (B) نَجَّارًا (C) تَاجِرًا (D) شُرْطِيًّا

(7) _____ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ (A) إِنَّمَا (B) إِنَّنِيْ (C) إِنِّيْ (D) إِنَّهٗ

(8) وَإِقْلِيْمُ _____ وَعَاصِمَتُهَا بِشَاوَرْ۔ (A) بَنْجَابْ (B) بَلُوْجِسْتَانَ (C) سَرْحَدُ (D) السِّنْدِ

(9) فَقَالَ جُحَا: _____ بِئْرٌ مَقْلُوْبَةٌ۔ (A) هٰذَا (B) ذٰلِكَ (C) هٰذِهٖ (D) هٰؤُلَاءِ

(10) بَقِيَ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ _____ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا۔
(A) ثَلَاثَ (B) أَرْبَعَ (C) خَمْسَ (D) سِتَّ

(11) _____ أَنْ تَشْرَحَ لِيْ بَيْتًا مِنَ الشِّعْرِ۔ (A) يَرْجُوْكَ (B) تَرْجُوْكَ (C) نَرْجُوْكَ (D) أَرْجُوْكَ

(12) " اَلتَّسْهِيْلَاتُ " _____ ہے۔ (A) واحد (B) تثنیہ (C) جمع الجمع (D) جمع

(13) بَيْتُنَا يَقَعُ _____ شَارِعِ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدْ إِقْبَالْ بِلَاهُوْرَ۔ (A) عَلٰى (B) فِيْ (C) إِلٰى (D) عَنْ

(14) " يَضُمُّ " فعل _____ ہے۔ (A) امر (B) نہی (C) ماضی (D) مضارع

(15) _____ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا۔ (A) اَلْأَخُ (B) اَلْمُسْلِمُ (C) اَلْمُؤْمِنُ (D) اَلْحَبِيْبُ

Page 32 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

2022 (A) رول نمبر ____________

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

عربی حصہ انشائیہ وقت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

notespk.com

حصہ اول

2- اَجِبْ عَنِ الْاَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ عَنْ خَمْسِ جُمَلٍ فَقَطْ . (صرف پانچ سوالات کے عربی میں جواب دیجیے۔) 10 = 2 x 5

(i) بِمَاذَا سَمَّاهُ جَدُّهٗ وَأُمُّهٗ ؟

(ii) مَا اسْمُ قَرْيَةِ حَامِدٍ وَ مِنْطَقَتِهٖ ؟

(iii) مَنْ فَطَرَ الْخَلْقَ الْبَدِيْعَ ؟

(iv) هَلْ يَكُوْنُ الْحَجْزُ فِيْ جَمِيْعِ الْقِطَارَاتِ ؟

(v) مَاذَا كَانَ النَّجَّارُ يَعْمَلُ حِيْنَ رَآهُ الْقِرْدُ ؟

(vi) مَا هُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ بُنِيَ فِيْ أَرْضِ اللّٰهِ ؟

(vii) مَنِ الَّذِيْ فَزِعَ حِيْنَ سَمِعَ صَوْتَ جُحَا وَ هُوَ فِيْ الْحَمَّامِ ؟

(viii) مَا هِيَ الْفُرْصَةُ الَّتِيْ انْتَهَزَهَا عَبْدُ اللّٰهِ فِيْ رِسَالَتِهٖ ؟

3- تَرْجِمْ اِلٰى الْعَرَبِيَّةِ خَمْسَ جُمَلٍ فَقَطْ . (مندرجہ ذیل میں سے صرف پانچ جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے) 10 = 2 x 5

(i) آپؐ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔

(ii) ہمارے سکول میں ستر اُستاد ہیں۔

(iii) سعید ایک شہری لڑکا ہے۔

(iv) اپنی آخرت کے لیے کام کرو۔

(v) اللہ کی نعمت سب تک پہنچتی ہے۔

(vi) میانہ روی اختیار کرو۔

(vii) وزیرِ اعظم سربراہِ حکومت ہوتا ہے۔

(viii) میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں۔

4-(الف) رَتِّبِ الْجُمَلَ مِنَ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ . (درج ذیل الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیے) 3

(i) مِنَ ، الْعَهْدِ ، الْإِيْمَانِ ، حُسْنُ

(ii) الْجَلِيْلَ ، الْيَوْمَ ، هٰذَا ، يَا ، نُرِيْدُهٗ ، نَا ، أُسْتَاذَ، مَا۔

(iii) السَّيَّارَاتِ ، الْجَرَّارَاتِ ، بَاكِسْتَانَ ، إِنَّ ، تَصْنَعُ ، وَ

(ب) شَكِّلِ الْجُمَلَ الْآتِيَةَ (درج ذیل جملوں پر اعراب لگائیے) 2

(i) بيت حامد قروى صغير ولكنه نظيف و جميل۔

(ii) ان الله سبحانه و تعالى لا يقنط العصاة۔

(ج) خُذْ خَمسَةً الْآتِيَةَ وَحَوِّلْهَا الْجَمْعَ إِلَى الْمُفْرَدَاتِ و الْمُفْرَدَاتِ إِلَى الْجَمْعِ ۔ 5

(درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ الفاظ کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں)

بَنَاتٌ ، عَوَاطِفُ ، بِئْرٌ ، خُفٌّ ، أَجْرٌ ، أَقَالِيْمُ ، وُزَرَاءُ ، سُكَّانٌ ۔

(ورق الٹئے)

حصہ دوم

5۔ ترجِمْ إِلَى اللُّغَةِ الْأَرْدِيَّةِ ۔ (درج ذیل کا اردو میں ترجمہ کیجیے) 10

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهٗ وَ حَسُنَ عَمَلُهٗ. أَصْلِحُوْا دُنْيَاكُمْ وَاعْمَلُوْا لِآخِرَتِكُمْ كَأَنَّكُمْ تَمُوْتُوْنَ غَدًا. إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ ۔ اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ۔

notespk.com

یا

بَاكِسْتَانُ مَعْنَاهَا: الْأَرْضُ الطَّاهِرَةُ وَ يُقْصَدُ بِهَا أَرْضُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَهِيَ دَوْلَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ وَّاسْمُهَا الرَّسْمِيُّ: جُمْهُوْرِيَّةُ بَاكِسْتَانَ الْإِسْلَامِيَّةُ وَ تَحْتَلُّ بَاكِسْتَانُ مَوْقِعًا جُغْرَافِيًّا وَاسْتِرَاتِيْجِيًّاهَا مًّا جِدًّا فِيْ مِنْطَقَةٍ عُرِفَتْ أَخِيْرًا بِجُنُوْبِ آسِيَا۔

6۔ تَرْجِمِ الْأَبْيَاتِ التَّالِيَةَ إِلَى الْأُرْدِيَّةِ۔ (درج ذیل اشعار کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔) 10

يُخَبِّرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا
يَكُوْنُ فَلَا يَخُوْنُ وَلَا يَحُوْلُ
فَلَمْ نَرَ مِثْلَهٗ فِي النَّاسِ حَيًّا
وَلَيْسَ لَهٗ مِنَ الْمَوْتٰى عَدِيْلٌ

یا

تَوْحِيْدُ اللّٰهِ لَنَا نُوْرٌ
أَعْدَدْنَا الرُّوْحَ لَهٗ سَكَنًا
اَلْكَوْنُ يَزُوْلُ وَلَا تُمْحٰى
فِي الدَّهْرِ صَحَائِفُ سُؤْدَدِنَا

7۔ اُكْتُبْ/اُكْتُبِيْ رِسَالَةً إِلٰى أَبِيْكَ وَ أَخْبِرْهُ عَنْ صِحَّتِكَ۔
(اپنے والد کو خط لکھیں جس میں انہیں اپنی صحت سے متعلق آگاہ کیجیے۔) 10

یا

إِسْتَعْمِلِ الْكَلِمَاتِ فِىْ جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ ۔ (درج ذیل الفاظ کو مفید عربی جملوں میں استعمال کیجیے۔)

دَلِيْلٌ ، ضَوْءٌ ، ضَلَالٌ ، دَرَسَ ، طَلَبَةٌ

Page 34 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Art and Model Drawing Session: 2022

Q.Nos	Paper Code 1231	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	B			
2	D			
3	C			
4	A			
5	C			
6	D			
7	B			
8	A			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ پرچہ _____ 9th گروپ _________ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 04-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Muhammad Yaseen Athar	EST (DM)	Govt Nusrat-ul-Islam H/SS Multan Cantt.	03088708019	[signature]
2	M. Zafar Jamil	EST (DM)	Govt. Compri. School Multan	03007389316	[signature]
3					
4					

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1231

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____________

125

ART AND MODEL DRAWING آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ

notespk.com

TIME ALLOWED: 10 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 10 منٹ

MAXIMUM MARKS: 8 کل نمبر = 8

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) ______ pencil is used for sketching. (1) سکیچ بنانے کے لیے ______ پنسل استعمال کی جاتی ہے۔

(A) 2B (B) HB (C) 2H (D) 3H

(2) Ibn-e-Meqala lived in: (2) ابن مقلہ رہنے والے تھے۔

(A) Turkey ترکی (B) Iran ایران (C) Makkah مکہ (D) Baghdad بغداد

(3) Babar ruled for: (3) بابر نے حکومت کی۔

(A) 2 years دوسال (B) 3 years تین سال (C) 4 years چارسال (D) Six years چھ سال

(4) The tomb of Jahangir was built in: (4) مقبرہ جہانگیر ______ میں بنایا گیا۔

(A) 1637ء (B) 1537ء (C) 1437ء (D) 1337ء

(5) The area of Badshahi Masjid Lahore is: (5) بادشاہی مسجد لاہور کا رقبہ ہے۔

(A) 521489 sq feet (B) 615489 sq feet (C) 321489 sq feet (D) 421489 sq feet

(6) The length of Shalimar Garden is: (6) شالیمار باغ کی لمبائی ہے۔

(A) 512 m (B) 412 m (C) 712 m (D) 612 m

(7) Red colour is called ______ colour. (7) سرخ رنگ کو ______ رنگ کہتے ہیں۔

(A) Secondary ثانوی (B) Basic بنیادی (C) Intermediate درمیانی (D) Contrast متضاد

(8) Pencil used for shade is: (8) شیڈ کے لیے پنسل استعمال ہوتی ہے۔

(A) HB (B) 2H (C) 2B (D) 3H

69(Obj)-2022(A)-200 **(MULTAN)**

2022 (A)

رول نمبر ______

SSC PART-I (9th CLASS)

ART AND MODEL DRAWING آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ

TIME ALLOWED: 1.20 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.20 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 32 کل نمبر = 32

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are the essentials of Drawing? (i) لوازمات ڈرائنگ کیا ہیں؟

(ii) What do you know about Dim Lines? (ii) دھندلے خطوط کے بارے آپ کیا جانتے ہیں؟

(iii) Name three Hot Colours. (iii) تین گرم رنگوں کے نام لکھیں۔

(iv) Names the court painters of Shah Tamasup. (iv) شاہ تماسپ کے درباری مصوروں کے نام تحریر کیجیے۔

(v) Why should the pencil be rotated while making Drawing? (v) ڈرائنگ بناتے وقت پنسل کو گھمانا کیوں چاہیے؟

(vi) Which are two kinds of Arts? (vi) آرٹ کی دو اقسام کون سی ہیں؟

(vii) What is meant by Texture? (vii) بافت یا سطحی بناوٹ سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is Tone? (viii) ٹون کسے کہتے ہیں؟

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Border Design. (i) بارڈر ڈیزائن کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write the detailed of Drawing Box Accessories. (ii) ڈرائنگ بکس کے سامان کی تفصیل لکھیں۔

(iii) Write the numbers of Ajanta Caves. (iii) اجنتا غاروں کی تعداد لکھیے۔

(iv) Where is Shailamar Garden? (iv) شالامار باغ کہاں ہے؟

(v) Write the names of two cool colours. (v) دو سرد رنگوں کے نام لکھیے۔

(vi) What is the difference between Painting and Drawing? (vi) مصوری اور ڈرائنگ میں کیا فرق ہے؟

(vii) What is meant by Balance in Art? (vii) آرٹ میں توازن سے کیا مراد ہے؟

(viii) Where is Red Fort situated? (viii) لال قلعہ کہاں واقع ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 12 = 6 x 2

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Write a note on division of colours according to their effects. 4۔ اثرات کے لحاظ سے رنگوں کی تقسیم پر نوٹ لکھیں۔

5. Write two kinds of Art in detail. 5۔ آرٹ کی دو اقسام کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔

6. Write about Gandhara Architecture Art. 6۔ گندھارا کا فن تعمیر بیان کیجیے۔

69-2022(A)-200 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

9th A/22

Name of Subject: Biology

Session: 2022

Group : 1st

Q. Nos	Paper Code 1461	Paper Code 1463	Paper Code 1465	Paper Code 1467
1	C	A	A	B
2	B	D	C	D
3	A	B	B	A
4	D	D	C	C
5	B	A	B	D
6	D	C	A	A
7	A	D	D	C
8	C	A	B	B
9	D	C	D	C
10	A	B	A	B
11	C	C	C	A
12	B	B	D	D
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1462	Paper Code 1464	Paper Code 1466	Paper Code 1468
1	C	B	C	C
2	D	D	D	C
3	A	C	A	B
4	C	C	B	C
5	C	D	D	D
6	B	A	C	A
7	C	C	C	B
8	D	C	D	D
9	A	B	A	C
10	B	C	C	C
11	D	D	C	D
12	C	A	B	A
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون بیالوجی پرچہ 1st (9th) گروپ I / II سکیم ______ میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 31-5-22

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Nazir Ahmad	SS(Bio)	Govt H.S.S Jar Multan	0302-7495743	[signature]
2	Dr Shazia Qadir	SSS(Bio)	GG HSS Shujabad	03003780151	[signature] 31-05-22
3	Mukhtar Ahmad Malik	SR.HM	GHS Gilaywala Lodhran	0304-8720086	[signature] 31/5/22
4	Saima Iram Gilani SST	SST	G. Model Muslim GHS Multan	03357241198	Saima Gilani 31/5/22
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) بمعہ معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Syed Athar Husnain	SS(Bio)	GHSS Qadir Pur Ran	03007363792	[signature]
2	Nazar Hussain	SSS(Bio)	GHSS Ailam Pur Multan	0307-8696855	[signature]
3					

تاریخ 01-6-2022

PAPER CODE NUMBER: 1461

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 88

BIOLOGY GROUP-I

بائیولوجی گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which level of organization is less definite in plants? — پودوں میں تنظیم کا کون سا لیول کم واضح ہے؟

(A) Organism level آرگنزم لیول (B) Tissue level ٹشو لیول (C) Organ system level آرگن سسٹم لیول (D) Organ level آرگن لیول

(2) Similar cells organised into groups and performing same functions are called as ________. — ایک جیسے سیلز جو گروہ کی شکل میں ترتیب پائے ہوئے ہوں اور ایک ہی کام کرتے ہوں ______ کہلاتے ہیں۔

(A) Organelle آرگنیلی (B) Tissue ٹشو (C) Organ آرگن (D) Organ System آرگن سسٹم

(3) Which is the most basic step of biological method? — بائیولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم کونسا ہے؟

(A) Experimentation تجربات کرنا (B) Hypothesis ہائپوتھیسس (C) Deduction ڈیڈکشن (D) Taking Observations مشاہدات کرنا

(4) The system of binomial nomenclature was introduced by ______. — بائی نومیئل نومن کلیچر کا سسٹم پہلی مرتبہ ______ نے متعارف کروایا۔

(A) Aristotle ارسطو (B) Robert Whittaker رابرٹ وٹیکر (C) Ernst Hackel ارنسٹ ہیکل (D) Carolus Linnaeus کارلس لینیس

(5) The sites of aerobic respiration in cell are _________. — سیل میں ایروبک ریسپریشن کے مراکز ہیں۔

(A) Plastids پلاسٹڈز (B) Mitochondria مائٹوکونڈریا (C) Nucleus نیوکلیس (D) Ribosomes رائبوسومز

(6) The most common chemical found in plant cell wall is _______. — پودوں کی سیل وال میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل _______ ہے۔

(A) Albumin البیومن (B) Lignin لگنن (C) Chitin کائٹن (D) Cellulose سیلولوز

(7) In which stage of cell cycle, the cell is preparing enzymes? — سیل سائیکل کے کس مرحلہ میں سیل اینزائمز تیار کر رہا ہوتا ہے؟

(A) G1 phase جی 1 فیز (B) S phase ایس فیز (C) M phase ایم فیز (D) G2 phase جی 2 فیز

(8) Meiosis was discovered by _______. — میاوسس کو ______ نے دریافت کیا۔

(A) Golgi گالجی (B) Walther Fleming والدر فلیمنگ (C) Oscar Hertwig آسکر ہرٹ وگ (D) Pasteur پاسچر

(9) To which category of molecules, enzymes belong? — اینزائمز کا تعلق مالیکیولز کی کون سی قسم سے ہے؟

(A) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس (B) Nucleic acids نیوکلیک ایسڈز (C) Lipids لپڈز (D) Proteins پروٹینز

(10) From which bond of ATP molecule, energy is taken? — ATP کے کون سے بانڈ سے انرجی حاصل کی جاتی ہے؟

(A) P-P bond P-P بانڈ (B) C-N bond C-N بانڈ (C) C-H bond C-H بانڈ (D) C-O bond C-O بانڈ

(11) Bacteria living in Colon produce ________. — کولون میں رہنے والے بیکٹیریا ______ پیدا کرتے ہیں۔

(A) Vitamin A وٹامن (B) Vitamin D وٹامن (C) Vitamin K وٹامن (D) Vitamin C وٹامن

(12) Which disease is the leading cause of deaths all over the world? — دنیا بھر میں اموات کی بڑی وجہ کون سی بیماری ہے؟

(A) Cancer کینسر (B) Heart attack ہارٹ اٹیک (C) AIDS ایڈز (D) Polio پولیو

25(Obj)(☆)-2022(A)-50000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1463

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

BIOLOGY GROUP-I بائیولوجی گروپ ۔ پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which is the most basic step of biological method? بائیولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم کونسا ہے؟ (1)

(A) Experimentation تجربات کرنا (B) Hypothesis ہائپوتھیسس (C) Deduction ڈیڈکشن (D) Taking Observations مشاہدات کرنا

(2) The system of binomial nomenclature was introduced by ______. بائی نومیئل نومن کلیچر کا سسٹم پہلی مرتبہ ______ نے متعارف کروایا۔ (2)

(A) Aristotle ارسطو (B) Robert Whittaker رابرٹ وٹیکر (C) Ernst Hackel ارنسٹ ہیکل (D) Carolus Linnaeus کارلس لینیس

(3) The sites of aerobic respiration in cell are ________. سیل میں ایروبک ریسپریشن کے مراکز ہیں۔ (3)

(A) Plastids پلاسٹڈز (B) Mitochondria مائٹوکونڈریا (C) Nucleus نیوکلیس (D) Ribosomes رائبوسومز

(4) The most common chemical found in plant cell wall is _______. پودوں کی سیل وال میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل _______ ہے۔ (4)

(A) Albumin البیومن (B) Lignin لگنن (C) Chitin کائٹن (D) Cellulose سیلولوز

(5) In which stage of cell cycle, the cell is preparing enzymes? سیل سائیکل کے کس مرحلہ میں سیل اینزائمز تیار کررہا ہوتا ہے؟ (5)

(A) G1 phase جی 1 فیز (B) S phase ایس فیز (C) M phase ایم فیز (D) G2 phase جی 2 فیز

(6) Meiosis was discovered by ______. می اوسس کو ______ نے دریافت کیا۔ (6)

(A) Golgi گالجی (B) Walther Fleming والدر فلیمنگ (C) Oscar Hertwig آسکر ہرٹ وِگ (D) Pasteur پاسچر

(7) To which category of molecules, enzymes belong? اینزائمز کا تعلق مالیکیولز کی کون سی قسم سے ہے؟ (7)

(A) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس (B) Nucleic acids نیوکلیک ایسڈز (C) Lipids لپڈز (D) Proteins پروٹینز

(8) From which bond of ATP molecule, energy is taken? ATP کے کون سے بانڈ سے انرجی حاصل کی جاتی ہے؟ (8)

(A) P-P bond P-P بانڈ (B) C-N bond C-N بانڈ (C) C-H bond C-H بانڈ (D) C-O bond C-O بانڈ

(9) Bacteria living in Colon produce ________. کولون میں رہنے والے بیکٹیریا ______ پیدا کرتے ہیں۔ (9)

(A) Vitamin A وٹامن (B) Vitamin D وٹامن (C) Vitamin K وٹامن (D) Vitamin C وٹامن

(10) Which disease is the leading cause of deaths all over the world? دنیا بھر میں اموات کی بڑی وجہ کون سی بیماری ہے؟ (10)

(A) Cancer کینسر (B) Heart attack ہارٹ اٹیک (C) AIDS ایڈز (D) Polio پولیو

(11) Which level of organization is less definite in plants? پودوں میں تنظیم کا کون سا لیول کم واضح ہے؟ (11)

(A) Organism level آرگنزم لیول (B) Tissue level ٹشو لیول (C) Organ system level آرگن سسٹم لیول (D) Organ level آرگن لیول

(12) Similar cells organised into groups and performing same functions are called as ________. ایک جیسے سیلز جو گروہ کی شکل میں ترتیب پائے ہوئے ہوں اور ایک ہی کام کرتے ہوں ______ کہلاتے ہیں۔ (12)

(A) Organelle آرگنیلی (B) Tissue ٹشو (C) Organ آرگن (D) Organ System آرگن سسٹم

25(Obj)(☆☆)-2022(A)-50000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1465

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

BIOLOGY GROUP-I بائیولوجی گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) From which bond of ATP molecule, energy is taken? ATP کے کون سے بانڈ سے انرجی حاصل کی جاتی ہے؟ (1)

(A) P-P bond P-P بانڈ (B) C-N bond C-N بانڈ (C) C-H bond C-H بانڈ (D) C-O bond C-O بانڈ

(2) Bacteria living in Colon produce ________ . کولون میں رہنے والے بیکٹیریا ______ پیدا کرتے ہیں۔ (2)

(A) Vitamin A وٹامن (B) Vitamin D وٹامن (C) Vitamin K وٹامن (D) Vitamin C وٹامن

(3) Which disease is the leading cause of deaths all over the world? دنیا بھر میں اموات کی بڑی وجہ کون سی بیماری ہے؟ (3)

(A) Cancer کینسر (B) Heart attack ہارٹ اٹیک (C) AIDS ایڈز (D) Polio پولیو

(4) Which level of organization is less definite in plants? پودوں میں تنظیم کا کون سا لیول کم واضح ہے؟ (4)

(A) Organism level آرگنزم لیول (B) Tissue level ٹشو لیول (C) Organ system level آرگن سسٹم لیول (D) Organ level آرگن لیول

(5) Similar cells organised into groups and performing same functions are called as ________. ایک جیسے سیلز جو گروہ کی شکل میں ترتیب پائے ہوئے ہوں اور ایک ہی کام کرتے ہوں ______ کہلاتے ہیں۔ (5)

(A) Organelle آرگنیلی (B) Tissue ٹشو (C) Organ آرگن (D) Organ System آرگن سسٹم

(6) Which is the most basic step of biological method? بائیولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم کونسا ہے؟ (6)

(A) Experimentation تجربات کرنا (B) Hypothesis ہائپوتھیسس (C) Deduction ڈیڈکشن (D) Taking Observations مشاہدات کرنا

(7) The system of binomial nomenclature was introduced by ______. بائی نومیئل نومن کلیچر کا سسٹم پہلی مرتبہ ______ نے متعارف کروایا۔ (7)

(A) Aristotle ارسطو (B) Robert Whittaker رابرٹ وٹیکر (C) Ernst Hackel ارنسٹ ہیکل (D) Carolus Linnaeus کارلس لینیس

(8) The sites of aerobic respiration in cell are _________ . سیل میں ایروبک ریسپریشن کے مراکز ہیں۔ (8)

(A) Plastids پلاسٹڈز (B) Mitochondria مائٹوکونڈریا (C) Nucleus نیوکلیس (D) Ribosomes رائبوسومز

(9) The most common chemical found in plant cell wall is _______. پودوں کی سیل وال میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل _______ ہے۔ (9)

(A) Albumin ایلبیومن (B) Lignin لگنن (C) Chitin کائٹن (D) Cellulose سیلولوز

(10) In which stage of cell cycle, the cell is preparing enzymes? سیل سائیکل کے کس مرحلہ میں سیل اینزائمز تیار کر رہا ہوتا ہے؟ (10)

(A) G1 phase جی 1 فیز (B) S phase ایس فیز (C) M phase ایم فیز (D) G2 phase جی 2 فیز

(11) Meiosis was discovered by _______. می اوسس کو ______ نے دریافت کیا۔ (11)

(A) Golgi گالجی (B) Walther Fleming والدر فلیمنگ (C) Oscar Hertwig آسکر ہرٹ وگ (D) Pasteur پاسچر

(12) To which category of molecules, enzymes belong? اینزائمز کا تعلق مالیکیولز کی کون سی قسم سے ہے؟ (12)

(A) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس (B) Nucleic acids نیوکلیک ایسڈز (C) Lipids لپڈز (D) Proteins پروٹینز

25(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-50000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1467

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 91

BIOLOGY GROUP-I

بائیولوجی گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The sites of aerobic respiration in cell are ________ . — سیل میں ایروبک ریسپریشن کے مراکز ہیں۔ (1)

(A) Plastids پلاسٹڈز (B) Mitochondria مائٹوکونڈریا (C) Nucleus نیوکلیس (D) Ribosomes رائبوسومز

(2) The most common chemical found in plant cell wall is _______. — پودوں کی سیل وال میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل _______ ہے۔ (2)

(A) Albumin البیومن (B) Lignin لگنن (C) Chitin کائٹن (D) Cellulose سیلولوز

(3) In which stage of cell cycle, the cell is preparing enzymes? — سیل سائیکل کے کس مرحلہ میں سیل اینزائمز تیار کر رہا ہوتا ہے؟ (3)

(A) G1 phase جی 1 فیز (B) S phase ایس فیز (C) M phase ایم فیز (D) G2 phase جی 2 فیز

(4) Meiosis was discovered by _______. — می اوسس کو _______ نے دریافت کیا۔ (4)

(A) Golgi گالجی (B) Walther Fleming والدر فلیمنگ (C) Oscar Hertwig آسکر ہرٹ وگ (D) Pasteur پاسچر

(5) To which category of molecules, enzymes belong? — اینزائمز کا تعلق مالیکیولز کی کون سی قسم سے ہے؟ (5)

(A) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس (B) Nucleic acids نیوکلیک ایسڈز (C) Lipids لپڈز (D) Proteins پروٹینز

(6) From which bond of ATP molecule, energy is taken? — ATP کے کون سے بانڈ سے انرجی حاصل کی جاتی ہے؟ (6)

(A) P-P bond P-P بانڈ (B) C-N bond C-N بانڈ (C) C-H bond C-H بانڈ (D) C-O bond C-O بانڈ

(7) Bacteria living in Colon produce ________ . — کولون میں رہنے والے بیکٹیریا _______ پیدا کرتے ہیں۔ (7)

(A) Vitamin A وٹامن (B) Vitamin D وٹامن (C) Vitamin K وٹامن (D) Vitamin C وٹامن

(8) Which disease is the leading cause of deaths all over the world? — دنیا بھر میں اموات کی بڑی وجہ کون سی بیماری ہے؟ (8)

(A) Cancer کینسر (B) Heart attack ہارٹ اٹیک (C) AIDS ایڈز (D) Polio پولیو

(9) Which level of organization is less definite in plants? — پودوں میں تنظیم کا کون سا لیول کم واضح ہے؟ (9)

(A) Organism level آرگنزم لیول (B) Tissue level ٹشو لیول (C) Organ system level آرگن سسٹم لیول (D) Organ level آرگن لیول

(10) Similar cells organised into groups and performing same functions are called as _______. — ایک جیسے سیلز جو گروہ کی شکل میں ترتیب پائے ہوئے ہوں اور ایک ہی کام کرتے ہوں _______ کہلاتے ہیں۔ (10)

(A) Organelle آرگنیلی (B) Tissue ٹشو (C) Organ آرگن (D) Organ System آرگن سسٹم

(11) Which is the most basic step of biological method? — بائیولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم کونسا ہے؟ (11)

(A) Experimentation تجربات کرنا (B) Hypothesis ہائپوتھیسس (C) Deduction ڈیڈکشن (D) Taking Observations مشاہدات کرنا

(12) The system of binomial nomenclature was introduced by ______. — بائی نومیئل نومن کلیچر کا سسٹم پہلی مرتبہ _______ نے متعارف کروایا۔ (12)

(A) Aristotle ارسطو (B) Robert Whittaker رابرٹ وٹیکر (C) Ernst Hackel ارنسٹ ہیکل (D) Carolus Linnaeus کارلس لینیس

25(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-50000 **(MULTAN)**

رول نمبر

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

BIOLOGY GROUP-I — بائیولوجی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48 — کل نمبر = 48

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Histology and Physiology. — ہسٹولوجی اور فزیالوجی کی تعریف کریں۔

(ii) Differentiate between Micromolecules and Macromolecules. — مائیکرو مالیکیولز اور میکرو مالیکیولز میں فرق کریں۔

(iii) Describe Colonial type Cellular Organization. — کولونیل آرگنائزیشن بیان کریں۔

(iv) What are Quantitative Observations? Give example. — مقداری مشاہدات کیا ہیں؟ مثال دیں۔

(v) What is meant by Biological Problem? — بائیولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے؟

(vi) Define Bioinformatics. — بائیوانفورمیٹکس کی تعریف کریں۔

(vii) What are Plasmodesmata? — پلازموڈیزمیٹا کیا ہیں؟

(viii) What are Chromoplasts? How do these help in pollination? — کروموپلاسٹس کیا ہیں؟ یہ پولی نیشن میں کیسے مدد کرتے ہیں؟

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between extinct and endangered species. — اینڈینجرڈ اور ناپید پی شیز میں فرق کریں۔

(ii) Write down classification of human. — انسان کی کلاسیفکیشن لکھیں۔

(iii) What is method of Cytokinesis in Animal cell? — جانور کے سیل میں سائٹوکائنیسز کا کیا طریقہ کار ہے؟

(iv) What is non-disjunction? — نان۔ڈس جنکشن کیا ہے؟

(v) Define Synapsis. — سائی نیپسس کی تعریف کریں۔

(vi) Draw and label diagram of Metaphase I of Meiosis I. — می اوسس I کی میٹافیز I کی ڈایاگرام بنا کر لیبل کریں۔

(vii) How many ATP are produced during Aerobic and Anaerobic Respiration? — ایروبک اور این ایروبک ریسپریشن میں کتنے ATP پیدا ہوتے ہیں؟

(viii) What is Alcoholic Fermentation? — الکحلک فرمنٹیشن کیا ہے؟

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between Substrate and Product. — سبسٹریٹ اور پراڈکٹ میں فرق لکھیے۔

(ii) Differentiate between Intracellular enzymes and Extracellular enzymes. — انٹراسیلولر اور ایکسٹرا سیلولر انزائمز میں فرق لکھیے۔

(iii) Differentiate between Inhibitors and Activators. — انہبٹرز اور ایکٹیویٹرز میں فرق لکھیے۔

(iv) What are the preventions of Dengue Mosquito? — ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے طریقے لکھیے۔

(v) What is meant by eutrophication? — یوٹروفیکیشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Draw the diagram of a Villus and label it. — ایک ولس کی شکل بنائیں اور لیبل کریں۔

(vii) What is meant by Transpirational Pull? — ٹرانسپائریشنل پل سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is meant by A-Granulocytes? Give their functions. — اے۔گرینولوسائٹس سے کیا مراد ہے؟ ان کے افعال تحریر کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 x 2

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) Explain any four careers related to Biology. 4 — 5۔(الف) بائیولوجی سے منسلک کوئی سے چار پیشوں کی وضاحت کریں۔

(B) Differentiate between Prokaryotic and Eukaryotic cells. 5 — (ب) پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق واضح کریں۔

6.(A) Write a detailed note on Taxonomic Hierarchy. 2 + 2 — 6۔(الف) ٹیکسانومی کے نظام مراتب پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔

(B) Define Photosynthesis. 1 + 4 — (ب) فوٹوسنتھیسز کی تعریف کریں۔ فوٹوسنتھیسز کے لائٹ ری ایکشنز پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔

Write a detailed note on light reactions of Photosynthesis.

7.(A) Explain digestion of food and churning in stomach. 2 + 2 — 7۔(الف) معدہ میں خوراک کی ڈائی جیشن اور چرننگ کی وضاحت کریں۔

(B) Define Transpiration. 1 + 4 — (ب) ٹرانسپائریشن کی تعریف کریں۔ نیز ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثرانداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کریں۔

Explain factors affecting the rate of transpiration.

25-2022(A)-50000 (MULTAN)

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

BIOLOGY GROUP-II بائیولوجی گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours وقت = 1.45 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 48 کل نمبر = 48

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

notespk.com

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are the major biological issues today? آج کے دور کے بڑے بائیولوجیکل ایشوز کیا ہیں؟

(ii) Define Biochemistry. بائیوکیمسٹری کی تعریف کریں۔

(iii) Differentiate between Micromolecules and Macromolecules. مائیکرومالیکیولز اور میکرومالیکیولز میں فرق واضح کریں۔

(iv) Write down the two characteristics of a good hypothesis. ایک اچھے ہائپوتھیسس کی دو خصوصیات تحریر کریں۔

(v) What is Scientific Law? Give two examples. سائنٹفک لاء کیا ہے؟ دو مثالیں دیں۔

(vi) What is meant by Data organization? ڈیٹا کو ترتیب دینے سے کیا مراد ہے؟

(vii) Differentiate between Primary and Secondary wall. پرائمری اور سیکنڈری وال میں فرق تحریر کریں۔

(viii) Write down the structure of Ribosomes. رائبوسومز کی ساخت تحریر کریں۔

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Species. پی شیز کی تعریف بیان کیجیے۔

(ii) Write the scientific names of Onion and House crow. پیاز اور عام کوا کے سائنسی نام لکھیے۔

(iii) Define Chromatin. کروماٹن کی تعریف کریں۔

(iv) What happens in G0 phase? جی0 فیز میں کیا وقوع پذیر ہوتا ہے؟

(v) Differentiate between Necrosis and Apoptosis. نیکروسس اور اپاپٹوسس میں فرق کیجیے۔

(vi) What is Cell plate or Phragmoplast? سیل پلیٹ یا فریگمو پلاسٹ کیا ہے؟

(vii) What does FAD and NAD^+ stands for? FAD اور NAD^+ کس کا مخفف ہے؟

(viii) Define Fermentation. فرمینٹیشن کی تعریف کریں۔

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define activation energy. ایکٹیویشن انرجی کی تعریف کریں۔

(ii) What is use of enzymes in paper industry? کاغذ کی صنعت میں اینزائمز کا کیا استعمال ہے؟

(iii) Differentiate between prosthetic group and coenzyme. پراستھیٹک گروپ اور کوانیزائم میں فرق بیان کریں۔

(iv) What is the role of magnesium in the life of plants? پودوں کی زندگی میں میگنیشیم کا کردار کیا ہے؟

(v) What are symptoms and causes of goiter? گوائٹر کی علامات اور وجوہات کیا ہیں؟

(vi) What is the affect of temperature on rate of transpiration? ٹرانسپائریشن کی رفتار پر ٹمپریچر کا کیا اثر ہے؟

(vii) What is Angina pectoris? اینجائنا پیکٹورس کیا ہے؟

(viii) What are symptoms of dengue fever? ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 x 2 نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) Define Community and explain its types with examples. 2 + 1 + 1 کمیونٹی کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کو مثالوں سے واضح کریں۔ 5۔(الف)

(B) Explain differences between prokaryotic and eukaryotic cells. 2½+2½ پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق کی وضاحت کریں۔ (ب)

6.(A) Write a detailed note on Kingdom Fungi and Kingdom Protista. 4 کنگڈم فنجائی اور کنگڈم پروٹیسٹا پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ 6۔(الف)

(B) What is Anaerobic Respiration? Give its types in detail. 5 این ایروبک ریسپائریشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ (ب)

7.(A) Describe the structure and function of stomach. 2 + 2 معدہ (سٹومک) کی ساخت اور افعال بیان کیجیے۔ 7۔(الف)

(B) How would you relate the internal structure of root with the uptake of water and salt? 5 جڑ کی اندرونی ساخت کا اس میں پانی اور سالٹس کے جذب کرنے سے تعلق بتائیں۔ (ب)

27-2022(A)-40000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: **1462**

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____

BIOLOGY GROUP-II

بائیولوجی گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The scientific study of animals is called: — جانوروں کے سائنسی مطالعہ کو کہتے ہیں۔ (1)

(A) Biology بائیولوجی (B) Botany باٹنی (C) Zoology زوالوجی (D) Microbiology مائیکروبائیولوجی

(2) The example of Colonial organization is: — کولونیل آرگنائزیشن کی مثال ہے۔ (2)

(A) Euglena یوگلینا (B) Amoeba امیباء (C) Paramecium پیرامیشیم (D) Volvox والووکس

(3) Productive theory keeps on suggesting new: — ایک بارآور یعنی پروڈکٹو تھیوری پیش کرتی رہتی ہے۔ (3)

(A) Hypotheses ہائپوتھیسس (B) Observations مشاہدات (C) Deduction ڈی ڈکشن (D) Law لاء

(4) National animal of Pakistan is: — پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (4)

(A) Indus Dolphin انڈس ڈولفن (B) Sheep بھیڑ (C) Markhor مارخور (D) Lion شیر

(5) Microfilaments are made of Protein: — مائیکروفلامنٹس پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ (5)

(A) Haemoglobin ہیموگلوبن (B) Tubulin ٹیوبیولن (C) Actin ایکٹن (D) Myoglobin مائیوگلوبن

(6) The inner membrane of mitochondria forms infoldings are called: — مائٹوکانڈریا کی اندرونی ممبرین کی تہیں کہلاتی ہیں۔ (6)

(A) Stroma سٹروما (B) Cristae کرسٹی (C) Thylakoid تھائلاکوائیڈ (D) Granum گرینم

(7) At which phase of Mitosis sister chromatids separate? — مائی ٹوسس کے کس مرحلہ میں سسٹر کروماٹیڈز علیحدہ ہوتے ہیں؟ (7)

(A) Prophase پروفیز (B) Metaphase میٹافیز (C) Anaphase اینافیز (D) Telophase ٹیلوفیز

(8) Longest phase of Meiosis is: — می اوسس کا طویل ترین مرحلہ ہے۔ (8)

(A) Metaphase I میٹافیز (B) Telophase I ٹیلوفیز (C) Anaphase I اینافیز (D) Prophase I پروفیز

(9) Starch broken down by an enzyme is called: — سٹارچ جس انزائم سے توڑی جاتی ہے، کہلاتا ہے۔ (9)

(A) Amylase ایمائی لیز (B) Pepsin پیپسن (C) Lipase لائپیز (D) Protease پروٹی ایز

(10) The biproduct formed during photosynthesis in the presence of sunlight is: — سورج کی روشنی میں فوٹوسنتھیسز کے دوران بننے والا ایک بائی پراڈکٹ ہے۔ (10)

(A) CO_2 (B) O_2 (C) H_2O (D) $C_6H_{12}O_6$

(11) One gram of lipids contain energy: — ایک گرام لپڈز سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ (11)

(A) کلوکیلوریز 2 kilocalories (B) کلوکیلوریز 4 kilocalories (C) کلوکیلوریز 7 kilocalories (D) کلوکیلوریز 9 kilocalories

(12) Stomata in plants are closed at temperature: — پودوں میں سٹومیٹا اس ٹمپریچر پر بند ہو جاتے ہیں۔ (12)

(A) 25-30°C (B) 35-40°C (C) 40-45°C (D) 46-50°C

27(Obj)(☆)-2022(A)-40000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1464	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ________

BIOLOGY GROUP-II بائیولوجی گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The biproduct formed during photosynthesis in the presence of sunlight is: سورج کی روشنی میں فوٹوسنتھی سیز کے دوران بننے والا ایک بائی پراڈکٹ ہے۔ (1)

(A) CO_2 (B) O_2 (C) H_2O (D) $C_6H_{12}O_6$

(2) One gram of lipids contain energy: ایک گرام لپڈز سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ (2)

(A) کلوکیلوریز 2 kilocalories (B) کلوکیلوریز 4 kilocalories (C) کلوکیلوریز 7 kilocalories (D) کلوکیلوریز 9 kilocalories

(3) Stomata in plants are closed at temperature: پودوں میں سٹومیٹا اس ٹمپریچر پر بند ہوجاتے ہیں۔ (3)

(A) 25-30^{o}C (B) 35-40^{o}C (C) 40-45^{o}C (D) 46-50^{o}C

(4) The scientific study of animals is called: جانوروں کے سائنسی مطالعہ کو کہتے ہیں۔ (4)

(A) Biology بائیولوجی (B) Botany باٹنی (C) Zoology زوالوجی (D) Microbiology مائیکروبائیولوجی

(5) The example of Colonial organization is: کولونیل آرگنائزیشن کی مثال ہے۔ (5)

(A) Euglena یوگلینا (B) Amoeba امیباء (C) Paramecium پیرامیشیم (D) Volvox والووکس

(6) Productive theory keeps on suggesting new: ایک بارآور یعنی پروڈکٹو تھیوری پیش کرتی رہتی ہے۔ (6)

(A) Hypotheses ہائپوتھیسس (B) Observations مشاہدات (C) Deduction ڈی ڈکشن (D) Law لاء

(7) National animal of Pakistan is: پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (7)

(A) Indus Dolphin انڈس ڈالفن (B) Sheep بھیڑ (C) Markhor مارخور (D) Lion شیر

(8) Microfilaments are made of Protein: مائیکروفلامنٹس پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ (8)

(A) Haemoglobin ہیموگلوبن (B) Tubulin ٹیوبیولن (C) Actin ایکٹن (D) Myoglobin مائیوگلوبن

(9) The inner membrane of mitochondria forms infoldings are called: مائٹوکانڈریا کی اندرونی ممبرین کی تہیں کہلاتی ہیں۔ (9)

(A) Stroma سٹروما (B) Cristae کرسٹی (C) Thylakoid تھائی لاکوائیڈ (D) Granum گرینم

(10) At which phase of Mitosis sister chromatids separate? مائی ٹوسس کے کس مرحلہ میں سسٹر کروماٹیڈز علیحدہ ہوتے ہیں؟ (10)

(A) Prophase پروفیز (B) Metaphase میٹافیز (C) Anaphase اینافیز (D) Telophase ٹیلوفیز

(11) Longest phase of Meiosis is: می اوسس کا طویل ترین مرحلہ ہے۔ (11)

(A) Metaphase I میٹافیز (B) Telophase I ٹیلوفیز (C) Anaphase I اینافیز (D) Prophase I پروفیز

(12) Starch broken down by an enzyme is called: سٹارچ جس انزائم سے توڑی جاتی ہے، کہلاتا ہے۔ (12)

(A) Amylase ایمائی لیز (B) Pepsin پیپسن (C) Lipase لائیپز (D) Protease پروٹی ایز

27(Obj)(☆☆)-2022(A)-40000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1466

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

BIOLOGY GROUP-II بائیولوجی گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) At which phase of Mitosis sister chromatids separate? مائی ٹوسس کے کس مرحلہ میں سسٹر کروماٹیڈز علیحدہ ہوتے ہیں؟ (1)

(A) Prophase پروفیز (B) Metaphase میٹافیز (C) Anaphase اینافیز (D) Telophase ٹیلوفیز

(2) Longest phase of Meiosis is: می اوسس کا طویل ترین مرحلہ ہے۔ (2)

(A) Metaphase I میٹافیز (B) Telophase I ٹیلوفیز (C) Anaphase I اینافیز (D) Prophase I پروفیز

(3) Starch broken down by an enzyme is called: سٹارچ جس انزائم سے توڑی جاتی ہے، کہلاتا ہے۔ (3)

(A) Amylase ایمائی لیز (B) Pepsin پیپسن (C) Lipase لائپیز (D) Protease پروٹی ایز

(4) The biproduct formed during photosynthesis in the presence of sunlight is: سورج کی روشنی میں فوٹوسنتھی سیز کے دوران بننے والا ایک بائی پراڈکٹ ہے۔ (4)

(A) CO_2 (B) O_2 (C) H_2O (D) $C_6H_{12}O_6$

(5) One gram of lipids contain energy: ایک گرام لپڈز سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ (5)

(A) کلوکیلوریز 2 kilocalories (B) کلوکیلوریز 4 kilocalories (C) کلوکیلوریز 7 kilocalories (D) کلوکیلوریز 9 kilocalories

(6) Stomata in plants are closed at temperature: پودوں میں سٹومیٹا اس ٹمپریچر پر بند ہوجاتے ہیں۔ (6)

(A) 25-30^{o}C (B) 35-40^{o}C (C) 40-45^{o}C (D) 46-50^{o}C

(7) The scientific study of animals is called: جانوروں کے سائنسی مطالعہ کو کہتے ہیں۔ (7)

(A) Biology بائیولوجی (B) Botany باٹنی (C) Zoology زوالوجی (D) Microbiology مائیکروبائیولوجی

(8) The example of Colonial organization is: کولونیئل آرگنائزیشن کی مثال ہے۔ (8)

(A) Euglena یوگلینا (B) Amoeba امیباء (C) Paramecium پیرامیشیم (D) Volvox والووکس

(9) Productive theory keeps on suggesting new: ایک بارآور یعنی پروڈکٹو تھیوری پیش کرتی رہتی ہے۔ (9)

(A) Hypotheses ہائپوتھیسس (B) Observations مشاہدات (C) Deduction ڈی ڈکشن (D) Law لاء

(10) National animal of Pakistan is: پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (10)

(A) Indus Dolphin انڈس ڈالفن (B) Sheep بھیڑ (C) Markhor مارخور (D) Lion شیر

(11) Microfilaments are made of Protein: مائیکروفلامنٹس پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ (11)

(A) Haemoglobin ہیموگلوبن (B) Tubulin ٹیوبولن (C) Actin ایکٹن (D) Myoglobin مائیوگلوبن

(12) The inner membrane of mitochondria forms infoldings are called: مائٹوکانڈریا کی اندرونی ممبرین کی تہیں کہلاتی ہیں۔ (12)

(A) Stroma سٹروما (B) Cristae کرسٹی (C) Thylakoid تھائی لاکوائیڈ (D) Granum گرینم

27(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-40000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1468

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

BIOLOGY GROUP-II — بائیولوجی گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes — وقت = 15 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 12 — کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) National animal of Pakistan is: — پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (1)

(A) Indus Dolphin انڈس ڈالفن (B) Sheep بھیڑ (C) Markhor مارخور (D) Lion شیر

(2) Microfilaments are made of Protein: — مائیکروفلامنٹس پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ (2)

(A) Haemoglobin ہیموگلوبن (B) Tubulin ٹیوبولن (C) Actin ایکٹن (D) Myoglobin مائیوگلوبن

(3) The inner membrane of mitochondria forms infoldings are called: — مائٹوکانڈریا کی اندرونی ممبرین کی تہیں کہلاتی ہیں۔ (3)

(A) Stroma سٹروما (B) Cristae کرسٹی (C) Thylakoid تھائی لاکوائیڈ (D) Granum گرینم

(4) At which phase of Mitosis sister chromatids separate? — مائی ٹوسس کے کس مرحلہ میں سسٹر کروماٹیڈز علیحدہ ہوتے ہیں؟ (4)

(A) Prophase پروفیز (B) Metaphase میٹافیز (C) Anaphase اینافیز (D) Telophase ٹیلوفیز

(5) Longest phase of Meiosis is: — می اوسس کا طویل ترین مرحلہ ہے۔ (5)

(A) Metaphase I میٹافیز I (B) Telophase I ٹیلوفیز I (C) Anaphase I اینافیز I (D) Prophase I پروفیز I

(6) Starch broken down by an enzyme is called: — سٹارچ جس انزائم سے توڑی جاتی ہے، کہلاتا ہے۔ (6)

(A) Amylase ایمائی لیز (B) Pepsin پیپسن (C) Lipase لائپیز (D) Protease پروٹی ایز

(7) The biproduct formed during photosynthesis in the presence of sunlight is: — سورج کی روشنی میں فوٹوسنتھیسز کے دوران بننے والا ایک بائی پراڈکٹ ہے۔ (7)

(A) CO_2 (B) O_2 (C) H_2O (D) $C_6H_{12}O_6$

(8) One gram of lipids contain energy: — ایک گرام لپڈز سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ (8)

(A) کلوکیلوریز 2 kilocalories (B) کلوکیلوریز 4 kilocalories (C) کلوکیلوریز 7 kilocalories (D) کلوکیلوریز 9 kilocalories

(9) Stomata in plants are closed at temperature: — پودوں میں سٹومیٹا اس ٹمپریچر پر بند ہو جاتے ہیں۔ (9)

(A) 25-30°C (B) 35-40°C (C) 40-45°C (D) 46-50°C

(10) The scientific study of animals is called: — جانوروں کے سائنسی مطالعہ کو کہتے ہیں۔ (10)

(A) Biology بائیولوجی (B) Botany باٹنی (C) Zoology زوالوجی (D) Microbiology مائیکروبائیولوجی

(11) The example of Colonial organization is: — کولونیل آرگنائزیشن کی مثال ہے۔ (11)

(A) Euglena یوگلینا (B) Amoeba امیباء (C) Paramecium پیرامیشیم (D) Volvox والووکس

(12) Productive theory keeps on suggesting new: — ایک بارآور یعنی پروڈکٹو تھیوری پیش کرتی رہتی ہے۔ (12)

(A) Hypotheses ہائپوتھیسس (B) Observations مشاہدات (C) Deduction ڈی ڈکشن (D) Law لاء

27(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-40000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN
OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Chemistry   Session: 2020 – 22

Group : 1st   Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1481	Paper Code 1483	Paper Code 1485	Paper Code 1487
1	C	A	D	C
2	A	B	D	A
3	D	A	C	D
4	D	B	C	A
5	C	C	A	B
6	C	A	D	A
7	A	D	A	B
8	D	D	B	C
9	A	C	A	A
10	B	C	B	D
11	A	A	C	D
12	B	D	A	C
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Q. Nos	Paper Code 1482	Paper Code 1484	Paper Code 1486	Paper Code 1488
1	B	B	A	C
2	C	A	D	C
3	C	C	D	A
4	B	A	C	B
5	A	D	C	C
6	C	D	A	C
7	A	C	B	B
8	D	C	C	A
9	D	A	C	C
10	C	B	B	A
11	C	C	A	D
12	A	C	C	D
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سر ٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون کیمسٹری پرچہ I گروپ II & I سکیم 2020-22 میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated:

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	M. Abul Hassan Nawaz	SST(Sc)	GHS Kabirwala	03335410792	
2	Afshan Aftab	SST(Sc)	G Junior Model GHS Multan	0301-7547168	
3	MUHAMMAD ARIF	SST(Sc)	GMHS Gulgasht Multan	0307-7873333	
4	Rana Muhammad Iqbal	SST(Sc)	G Model H/S/S Khanewal	0345-7374816	
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) بمعہ معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	M. Masood Chishty	SST (Sc)	G.H.S Gulzar Pur Multan	0321-6336654	
2	M. Alamgir Khan	SST. Sc	Govt. Compre. H/S Multan	03047997624	
3					

تاریخ 3-6-22

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____________

CHEMISTRY GROUP-I

کیمسٹری گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48

کل نمبر = 48

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

notespk.com

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5**

سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Molecular Formula. How is it derived from emperical formula?
(i) مالیکیولر فارمولا کی تعریف کیجیے۔ اسے امپیریکل فارمولا سے کیسے اخذ کیا جاتا ہے؟

(ii) What is meant by atomic mass unit? Write its value in grams.
(ii) اٹامک ماس یونٹ (amu) سے کیا مراد ہے؟ گراموں میں اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟

(iii) Differentiate between organic and inorganic chemistry.
(iii) آرگینک اور اِن آرگینک کیمسٹری میں فرق واضح کیجیے۔

(iv) Write any two properties of neutron.
(iv) نیوٹرون کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

(v) What is meant by carbon dating?
(v) کاربن ڈیٹنگ سے کیا مراد ہے؟

(vi) Why in a period size of the atom decreases from left to right?
(vi) پیریڈ میں ایٹم کا سائز بائیں سے دائیں کیوں کم ہوتا ہے؟

(vii) How many groups and periods are in the modern periodic table?
(vii) ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں کتنے گروپس اور پیریڈز ہیں؟

(viii) Why are nobel gases not reactive?
(viii) نوبل گیسیں کیوں ری ایکٹو نہیں ہوتی ہیں؟

3. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5**

سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between polar and non-polar covalent bond.
(i) پولر اور نان پولر کوویلنٹ بانڈ میں تمیز کیجیے۔

(ii) Why is the BF_3 molecule electron deficient?
(ii) BF_3 مالیکیول میں الیکٹرونز کی کمی کیوں ہوتی ہے؟

(iii) Write down any two properties of polar covalent compounds.
(iii) پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iv) Define absolute zero.
(iv) ایبسولیوٹ زیرو کی تعریف کیجیے۔

(v) Differentiate between diffusion and effusion of gases.
(v) گیسوں کی ڈیفیوژن اور ایفیوژن میں تمیز کیجیے۔

(vi) Why does evaporation increase at high temperature?
(vi) ایویپوریشن زیادہ ٹمپریچر پر کیوں بڑھ جاتی ہے؟

(vii) Write down any two uses of calcium.
(vii) کیلشیم کے کوئی سے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(viii) How does electropositive character change in a group and period of periodic table?
(viii) پیریاڈک ٹیبل کے گروپ اور پیریڈ میں الیکٹروپوزیٹو خاصیت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟

4. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5**

سوال نمبر 4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by supersaturated solution? 02
(i) سُپر سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) Differentiate between dilute solution and concentrated solution. 02
(ii) ڈائلیوٹ سلوشن اور کنسنٹریٹڈ سلوشن میں فرق لکھیں۔

(iii) What is meant by $\frac{mass}{volume}\left(\frac{m}{v}\right)$ percentage? 02
(iii) ماس/والیم $\left(\frac{m}{v}\right)$ پرسنٹیج سے کیا مراد ہے؟

(iv) In which solvents, non polar covalent substances are soluble? Give an example. 1 + 1
(iv) نان پولر کوویلنٹ اشیا کیسے سالوینٹس میں حل ہوتی ہیں؟ ایک مثال بھی دیں۔

(v) What are weak electrolytes? Give one example. 1 + 1
(v) کمزور الیکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔

(vi) Define rusting. Write its important condition. 1 + 1
(vi) زنگ لگنے کی تعریف کریں۔ اس کی اہم شرط کیا ہے؟

(vii) What is the principle of electroplating? 02
(vii) الیکٹروپلیٹنگ کا اصول کیا ہے؟

(viii) Differentiate between electrolytic cell and galvanic cell. 02
(viii) الیکٹرولیٹک سیل اور گیلوانک سیل میں فرق لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. **18 = 9 x 2**

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) Explain five postulates of Bohr's atomic model. 1 x 5
5۔(الف) بوہر اٹامک ماڈل کے پانچ مفروضات کی وضاحت کیجیے۔

(B) Give any four differences in compound and mixture. 1 x 4
(ب) کمپاؤنڈ اور مکسچر میں کوئی سے چار فرق بیان کیجیے۔

6.(A) Define ionic bond and explain it with an example. 1 + 4
6۔(الف) آئیونک بانڈ کی تعریف کریں اور ایک مثال سے وضاحت کریں۔

(B) Write four factors on which diffusion depends. 1 x 4
(ب) ڈیفیوژن کا انحصار کن چار فیکٹرز پر ہوتا ہے؟

7.(A) How can we prepare NaOH on commercial scale? Discuss the steps alongwith flow sheet diagram. 5
7۔(الف) صنعتی پیمانے پر سوڈیم ہائڈروآکسائیڈ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ فلوشیٹ ڈایاگرام کے ساتھ اس کے مراحل بیان کیجیے۔

(B) Write any four physical properties of Non-metals. 1 x 4
(ب) نان میٹلز کی کوئی سی چار طبیعی خصوصیات لکھیں۔

21-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1481

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 28

CHEMISTRY GROUP-I کیمسٹری گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The branch of Chemistry in which the properties such as structure of atoms or formation of molecules are studied is called:
کیمسٹری کی شاخ جس میں ایٹمز کی ساخت یا مالیکیولز کی تشکیل کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے، کہلاتی ہے:۔ (1)

(A) Bio Chemistry بائیوکیمسٹری (B) Organic Chemistry آرگینک کیمسٹری
(C) Physical Chemistry فزیکل کیمسٹری (D) Inorganic Chemistry اِن آرگینک کیمسٹری

(2) Percentage of silicon in earth's crust is:
قشرِ ارض میں سیلیکان کی فی صد مقدار ہے۔ (2)

(A) 28 (B) 47 (C) 78 (D) 86

(3) The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation is called:
انرجی کی سب سے کم مقدار جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈی ایشنز کی صورت میں خارج یا جذب ہوسکتی ہے، کہلاتی ہے۔ (3)

(A) Momentum مومینٹم (B) Valency ویلنسی (C) Orbit آربٹ (D) Quantum کوانٹم

(4) Salts of sodium on burning give colour:
سوڈیم کے سالٹس جلنے پر رنگ دیتے ہیں۔ (4)

(A) Red سرخ (B) Green سبز (C) Blue نیلا (D) Yellow پیلا

(5) The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as:
کیمیکل بانڈنگ میں حصہ لینے والے ویلنس الیکٹرونز کو کہا جاتا ہے۔ (5)

(A) Attractive forces اٹریکٹوفورسز
(B) Repulsive forces ریپلسوفورسز (C) Bonding electrons بانڈنگ الیکٹرونز (D) System energy سسٹم انرجی

(6) On the Pauling Scale fluorine has given an electronegativity value:
پالنگ (Pauling) سکیل پر فلورین کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے۔ (6)

(A) 2.0 (B) 3.0 (C) 4.0 (D) 5.0

(7) In SI system, the unit of force is:
ایس آئی نظام میں فورس کا یونٹ ہے۔ (7)

(A) N (B) A (C) m (D) Hg

(8) The process of changing of a gas phase into liquid is called:
گیس ویپرز کا مائع حالت میں تبدیل ہونے کا عمل ہے۔ (8)

(A) Evaporation ایواپوریشن (B) Melting میلٹنگ (C) Transpiration ٹرانسپائریشن (D) Condensation کنڈنسیشن

(9) A homogeneous mixture of two or more substances is called:
دو یا دو سے زیادہ اشیا کا ہوموجینیس مکسچر کہلاتا ہے۔ (9)

(A) Solution سلوشن (B) Solvent سولوینٹ (C) Solute سولیوٹ (D) Element ایلیمنٹ

(10) A substance that reduces itself and oxidizes other is called:
ایسی شے جو خود کو ریڈیوس کرے اور دوسروں کو آکسیڈائز کرے، کہلاتی ہے۔ (10)

(A) Reducing agent ریڈیوسنگ ایجنٹ (B) Oxidizing agent آکسیڈائزنگ ایجنٹ (C) Ion آئن (D) Radical ریڈیکل

(11) The oxidation number of all elements in free state is:
آزاد حالت میں تمام ایلیمنٹس کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے۔ (11)

(A) Zero صفر (B) + 1 (C) -1 (D) -2

(12) The most precious metal is:
سب سے بیش قیمت میٹل ہے۔ (12)

(A) Iron آئرن (B) Platinum پلاٹینم (C) Cesium سیزیم (D) Silver سلور

21(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1483

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 79

CHEMISTRY GROUP-I

کیمسٹری گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) A homogeneous mixture of two or more substances is called: دو یا دو سے زیادہ اشیا کا ہوموجینیس مکسچر کہلاتا ہے۔ (1)

(A) Solution سلوشن (B) Solvent سولوینٹ (C) Solute سولیوٹ (D) Element ایلیمنٹ

(2) A substance that reduces itself and oxidizes other is called: ایسی شے جو خود کو ریڈیوس کرے اور دوسروں کو آکسیڈائز کرے، کہلاتی ہے۔ (2)

(A) Reducing agent ریڈیوسنگ ایجنٹ (B) Oxidizing agent آکسیڈائزنگ ایجنٹ (C) Ion آئن (D) Radical ریڈیکل

(3) The oxidation number of all elements in free state is: آزاد حالت میں تمام ایلیمنٹس کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے۔ (3)

(A) Zero صفر (B) + 1 (C) −1 (D) −2

(4) The most precious metal is: سب سے بیش قیمت میٹل ہے۔ (4)

(A) Iron آئرن (B) Platinum پلاٹینم (C) Cesium سیزیم (D) Silver سلور

(5) The branch of Chemistry in which the properties such as structure of atoms or formation of molecules are studied is called: کیمسٹری کی شاخ جس میں ایٹمز کی ساخت یا مالیکیولز کی تشکیل کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے، کہلاتی ہے:۔ (5)

(A) Bio Chemistry بائیو کیمسٹری (B) Organic Chemistry آرگینک کیمسٹری

(C) Physical Chemistry فزیکل کیمسٹری (D) Inorganic Chemistry اِن آرگینک کیمسٹری

(6) Percentage of silicon in earth's crust is: قشرِ ارض میں سیلیکان کی فی صد مقدار ہے۔ (6)

(A) 28 (B) 47 (C) 78 (D) 86

(7) The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation is called: انرجی کی سب سے کم مقدار جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈی ایشنز کی صورت میں خارج یا جذب ہوسکتی ہے، کہلاتی ہے۔ (7)

(A) Momentum مومینٹم (B) Valency ویلنسی (C) Orbit آربٹ (D) Quantum کوانٹم

(8) Salts of sodium on burning give colour: سوڈیم کے سالٹس جلنے پر رنگ دیتے ہیں۔ (8)

(A) Red سرخ (B) Green سبز (C) Blue نیلا (D) Yellow پیلا

(9) The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as: کیمیکل بانڈنگ میں حصہ لینے والے ویلنس الیکٹرونز کو کہا جاتا ہے۔ (9)

(A) Attractive forces اٹریکٹو فورسز (B) Repulsive forces ریپلسو فورسز (C) Bonding electrons بانڈنگ الیکٹرونز (D) System energy سسٹم انرجی

(10) On the Pauling Scale fluorine has given an electronegativity value: پالنگ (Pauling) سکیل پر فلورین کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے۔ (10)

(A) 2.0 (B) 3.0 (C) 4.0 (D) 5.0

(11) In SI system, the unit of force is: ایس آئی نظام میں فورس کا یونٹ ہے۔ (11)

(A) N (B) A (C) m (D) Hg

(12) The process of changing of a gas phase into liquid is called: گیس و یپرز کا مائع حالت میں تبدیل ہونے کا عمل ہے۔ (12)

(A) Evaporation ایویپوریشن (B) Melting میلٹنگ (C) Transpiration ٹرانسپائریشن (D) Condensation کنڈنسیشن

21(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1485	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر 880

CHEMISTRY GROUP-I — کیمسٹری گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 — کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation is called: — انرجی کی سب سے کم مقدار جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈی ایشنز کی صورت میں خارج یا جذب ہوسکتی ہے، کہلاتی ہے۔

(A) Momentum مومینٹم (B) Valency ویلنسی (C) Orbit آربٹ (D) Quantum کوانٹم

(2) Salts of sodium on burning give colour: — سوڈیم کے سالٹس جلنے پر رنگ دیتے ہیں۔

(A) Red سرخ (B) Green سبز (C) Blue نیلا (D) Yellow پیلا

(3) The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as: — کیمیکل بانڈنگ میں حصہ لینے والے ویلنس الیکٹرونز کو کہا جاتا ہے۔

(A) Attractive forces اٹریکٹو فورسز (B) Repulsive forces ریپلسو فورسز (C) Bonding electrons بانڈنگ الیکٹرونز (D) System energy سسٹم انرجی

(4) On the Pauling Scale fluorine has given an electronegativity value: — پالنگ (Pauling) سکیل پر فلورین کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے۔

(A) 2.0 (B) 3.0 (C) 4.0 (D) 5.0

(5) In SI system, the unit of force is: — ایس آئی نظام میں فورس کا یونٹ ہے۔

(A) N (B) A (C) m (D) Hg

(6) The process of changing of a gas phase into liquid is called: — گیس ویپرز کا مائع حالت میں تبدیل ہونے کا عمل ہے۔

(A) Evaporation ایویپوریشن (B) Melting میلٹنگ (C) Transpiration ٹرانسپائریشن (D) Condensation کنڈنسیشن

(7) A homogeneous mixture of two or more substances is called: — دو یا دو سے زیادہ اشیا کا ہوموجینیئس مکسچر کہلاتا ہے۔

(A) Solution سلوشن (B) Solvent سولوینٹ (C) Solute سولیوٹ (D) Element ایلیمنٹ

(8) A substance that reduces itself and oxidizes other is called: — ایسی شے جو خود کو ریڈیوس کرے اور دوسروں کو آکسیڈائز کرے، کہلاتی ہے۔

(A) Reducing agent ریڈیوسنگ ایجنٹ (B) Oxidizing agent آکسیڈائزنگ ایجنٹ (C) Ion آئن (D) Radical ریڈیکل

(9) The oxidation number of all elements in free state is: — آزاد حالت میں تمام ایلیمنٹس کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے۔

(A) Zero صفر (B) + 1 (C) −1 (D) −2

(10) The most precious metal is: — سب سے بیش قیمت میٹل ہے۔

(A) Iron آئرن (B) Platinum پلاٹینم (C) Cesium سیزیم (D) Silver سلور

(11) The branch of Chemistry in which the properties such as structure of atoms or formation of molecules are studied is called: — کیمسٹری کی شاخ جس میں ایٹمز کی ساخت یا مالیکیولز کی تشکیل کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے، کہلاتی ہے:۔

(A) Bio Chemistry بائیوکیمسٹری (B) Organic Chemistry آرگینک کیمسٹری
(C) Physical Chemistry فزیکل کیمسٹری (D) Inorganic Chemistry اِن آرگینک کیمسٹری

(12) Percentage of silicon in earth's crust is: — قشرِ ارض میں سلیکان کی فی صد مقدار ہے۔

(A) 28 (B) 47 (C) 78 (D) 86

21(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1487

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

CHEMISTRY GROUP-I کیمسٹری گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) On the Pauling Scale fluorine has given an electronegativity value: پالنگ (Pauling) سکیل پر فلورین کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ہے۔ (1)

(A) 2.0 (B) 3.0 (C) 4.0 (D) 5.0

(2) In SI system, the unit of force is: ایس آئی نظام میں فورس کا یونٹ ہے۔ (2)

(A) N (B) A (C) m (D) Hg

(3) The process of changing of a gas phase into liquid is called: گیس و یپرز کا مائع حالت میں تبدیل ہونے کا عمل ہے۔ (3)

(A) Evaporation ایویپوریشن (B) Melting میلٹنگ (C) Transpiration ٹرانسپائریشن (D) Condensation کنڈنسیشن

(4) A homogeneous mixture of two or more substances is called: دو یا دو سے زیادہ اشیا کا ہوموجینیس مکسچر کہلاتا ہے۔ (4)

(A) Solution سلوشن (B) Solvent سولوینٹ (C) Solute سولیوٹ (D) Element ایلیمنٹ

(5) A substance that reduces itself and oxidizes other is called: ایسی شے جو خود کو ریڈیوس کرے اور دوسروں کو آکسیڈائز کرے، کہلاتی ہے۔ (5)

(A) Reducing agent ریڈیوسنگ ایجنٹ (B) Oxidizing agent آکسیڈائزنگ ایجنٹ (C) Ion آئن (D) Radical ریڈیکل

(6) The oxidation number of all elements in free state is: آزاد حالت میں تمام ایلیمنٹس کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے۔ (6)

(A) Zero صفر (B) + 1 (C) -1 (D) -2

(7) The most precious metal is: سب سے بیش قیمت میٹل ہے۔ (7)

(A) Iron آئرن (B) Platinum پلاٹینم (C) Cesium سیزیم (D) Silver سلور

(8) The branch of Chemistry in which the properties such as structure of atoms or formation of molecules are studied is called: کیمسٹری کی شاخ جس میں ایٹمز کی ساخت یا مالیکیولز کی تشکیل کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے، کہلاتی ہے:۔ (8)

(A) Bio Chemistry بائیوکیمسٹری (B) Organic Chemistry آرگینک کیمسٹری

(C) Physical Chemistry فزیکل کیمسٹری (D) Inorganic Chemistry اِن آرگینک کیمسٹری

(9) Percentage of silicon in earth's crust is: قشرِ ارض میں سلیکان کی فی صد مقدار ہے۔ (9)

(A) 28 (B) 47 (C) 78 (D) 86

(10) The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation is called: انرجی کی سب سے کم مقدار جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈی ایشنز کی صورت میں خارج یا جذب ہو سکتی ہے، کہلاتی ہے۔ (10)

(A) Momentum مومینٹم (B) Valency ویلنسی (C) Orbit آربٹ (D) Quantum کوانٹم

(11) Salts of sodium on burning give colour: سوڈیم کے سالٹس جلنے پر رنگ دیتے ہیں۔ (11)

(A) Red سرخ (B) Green سبز (C) Blue نیلا (D) Yellow پیلا

(12) The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as: کیمیکل بانڈنگ میں حصہ لینے والے ویلنس الیکٹرونز کو کہا جاتا ہے۔ (12)

(A) Attractive forces اٹریکٹو فورسز (B) Repulsive forces ریپلسو فورسز (C) Bonding electrons بانڈنگ الیکٹرونز (D) System energy سسٹم انرجی

21(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______ 62

CHEMISTRY GROUP-II

کیمسٹری گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48 کل نمبر = 48

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define free radical, how is it generated? فری ریڈیکل کی تعریف کیجیے نیز بتائیں یہ کیسے بنتا ہے؟ (i)

(ii) Calculate the formula mass of K_2SO_4. K_2SO_4 کا فارمولا ماس معلوم کیجیے۔ (ii)

(iii) Differentiate between atom and ion. ایٹم اور آئن کے درمیان فرق کیجیے۔ (iii)

(iv) Write down the electronic configuration of Argon. آرگان کی الیکٹرونک کنفگریشن تحریر کیجیے۔ (iv)

(v) How did Chadwick discover Neutron? چیڈوک نے نیوٹرون کیسے دریافت کیا؟ (v)

(vi) Define electronegativity. الیکٹرونیگیٹیویٹی کی تعریف کیجیے۔ (vi)

(vii) How does atomic radius change in a group and period of periodic table? پیریاڈک ٹیبل کے گروپ اور پیریڈ میں اٹامک ریڈیس کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ (vii)

(viii) Why ionization energy increases from left to right in a period and decreases from top to bottom in a group of periodic table? کیوں پیریاڈک ٹیبل کے پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب آئیونائزیشن انرجی بڑھتی اور گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف کم ہوتی ہے؟ (viii)

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by polar covalent bond? 02 پولر کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟ (i)

(ii) Define van der Waals forces? What is their nature? 1 + 1 وان ڈر والز فورسز کی تعریف کریں۔ یہ فطری طور پر کیسی ہوتی ہیں؟ (ii)

(iii) Write two properties of covalent compounds. 02 کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی دو خصوصیات لکھیں۔ (iii)

(iv) Why rigidity is present in solids? 02 ٹھوس اشیا میں ریجیڈٹی کیوں پائی جاتی ہے؟ (iv)

(v) What is meant by evaporation? 02 ایویپوریشن سے کیا مراد ہے؟ (v)

(vi) Differentiate between vapour pressure and condensation. 02 ویپر پریشر اور کنڈینسیشن میں فرق بیان کریں۔ (vi)

(vii) What are halogens? Give any one example. 1 + 1 ہیلوجنز سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی ایک مثال دیجیے۔ (vii)

(viii) How non-metals are essential for the existence of life? 02 نان میٹلز زندگی کے لیے کیسے ضروری ہیں؟ (viii)

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by molarity? Write its formula. 1 + 1 مولیریٹی سے کیا مراد ہے؟ اس کا فارمولا لکھیے۔ (i)

(ii) Differentiate between saturated and unsaturated solution. 1 + 1 سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ سلوشن میں فرق واضح کیجیے۔ (ii)

(iii) Why test tube becomes warm when Li_2SO_4 is dissolved in water? 02 جب Li_2SO_4 کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو ٹیسٹ ٹیوب گرم کیوں ہو جاتی ہے؟ (iii)

(iv) What is meant by percentage $\frac{mass}{mass}$ $\frac{m}{m}$%, give an example. 1 + 1 پرسینٹیج ماس/ماس $\frac{m}{m}$% سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔ (iv)

(v) What is salt bridge? What is its basic function? 1 + 1 سالٹ برج کیا ہے؟ اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ (v)

(vi) What is difference between valency and oxidation state? 1 + 1 ویلنسی اور آکسیڈیشن سٹیٹ میں کیا فرق ہے؟ (vi)

(vii) Define electrochemistry. 02 الیکٹروکیمسٹری کی تعریف کیجیے۔ (vii)

(viii) Write the redox reaction taking place during the electroplating of chromium. 02 کرومیم کی الیکٹروپلیٹنگ کے دوران ہونے والے ریڈاکس ری ایکشن لکھیے۔ (viii)

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 x 2

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) How many isotopes of hydrogen are there? How isotopes are used in power generation? 1 + 4 5۔(الف) ہائیڈروجن کے کتنے آئسوٹوپس ہیں اور پاور جنریشن میں آئسوٹوپس کیسے استعمال ہوتے ہیں؟

(B) Write any four properties of molecular ion. 1 x 4 (ب) مالیکیولر آئن کی چار خصوصیات بیان کریں۔

6.(A) Define and explain co-ordinate covalent bond. 05 6۔(الف) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کریں اور وضاحت کریں۔

(B) Define vapour pressure and which factors affect on vapour pressure? 1 + 3 (ب) ویپر پریشر کی تعریف کریں اور کون سے فیکٹرز ویپر پریشر پر اثر انداز ہوتے ہیں؟

7.(A) Define electroplating. What is its procedure? Write about electroplating of silver. 1 + 2 + 2 7۔(الف) الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کیجیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سلور کی الیکٹروپلیٹنگ بیان کیجیے۔

(B) What are non-metals? Describe their three physical properties. 1 + 3 (ب) نان میٹلز کیا ہیں؟ ان کی تین طبیعی خصوصیات بیان کیجیے۔

23-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1482

2022 (A)

رول نمبر ______

SSC PART-I (9th CLASS)

CHEMISTRY GROUP-II

کیمسٹری گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which one of the following is a heterogeneous mixture? درج ذیل میں سے کون سی چیز ہیٹروجینیس مکسچر ہے؟

(A) Air ہوا (B) Rock چٹان (C) Gasoline گیسولین (D) Ice cream آئس کریم

(2) The empirical formula of glucose is: گلوکوز کا امپیریکل فارمولا ہے۔

(A) HO (B) CH (C) CH_2O (D) H_2O_2

(3) Which isotope is used for treatment of skin cancer? کون سا آئسوٹوپ سکن کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(A) C-12 (B) C-14 (C) P-32 (D) I-131

(4) 2nd and 3rd periods of long form of periodic table are called: لونگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کے دوسرے اور تیسرے پیریڈز کو کہتے ہیں۔

(A) Short periods شارٹ پیریڈز (B) Normal periods نارمل پیریڈز

(C) Long periods لونگ پیریڈز (D) Very long periods وری لونگ پریڈز

(5) Covalent bond formation is due to: کوویلنٹ بانڈ بننے کی وجہ ہے۔

(A) Sharing of electrons الیکٹرونز کا شیئرنگ کرنا (B) Donation of electrons الیکٹرونز کا عطیہ کرنا

(C) Acceptance of electrons الیکٹرونز کی ایکسیپٹینس کرنا (D) Repulsion of electrons الیکٹرونز کی ریپلسیو فورسز کا ہونا

(6) Which one of the following compounds is soluble in water? درج ذیل میں سے کون سا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر ہے؟

(A) CH_4 (B) C_2H_2 (C) NaCl (D) C_6H_6

(7) Which one of the following gases diffuses fastest? ان میں سے کون سی گیس تیزی سے ڈیفیوژ کرتی ہے؟

(A) Hydrogen ہائڈروجن (B) Fluorine فلورین (C) Chlorine کلورین (D) Oxygen آکسیجن

(8) The molecular formula of Sulphur molecule is: سلفر کے مالیکیول کا مالیکیولی فارمولا ہوتا ہے۔

(A) S_4 (B) S_5 (C) S_6 (D) S_8

(9) Which one is the example of "solid in solid" solution? کون سا سلوشن ٹھوس میں ٹھوس کی مثال ہے؟

(A) Butter مکھن (B) Smoke in air ہوا میں دھواں (C) Air ہوا (D) Brass براس (پیتل)

(10) Which one is Non-Electrolyte? کون سا نان الیکٹرولائٹ ہے؟

(A) $Ca(OH)_2$ solution $Ca(OH)_2$ کا سلوشن (B) HCl solution HCl کا سلوشن

(C) Sugar solution شوگر سلوشن (D) NaOH solution NaOH کا سلوشن

(11) The oxidation number of chromium in $K_2Cr_2O_7$ is: $K_2Cr_2O_7$ میں کرومیم کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

(A) +3 (B) +4 (C) +6 (D) +7

(12) Which one of the metals burns with golden yellow flame? ان میں سے کون سی میٹل سنہری پیلے رنگ کے شعلے کے ساتھ جلتی ہے؟

(A) Sodium سوڈیم (B) Iron آئرن (C) Calcium کیلشیم (D) Magnesium میگنیشیم

23(Obj)(☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1484

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

CHEMISTRY GROUP-II

کیمسٹری گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 **سوال نمبر 1۔**

(1) 2nd and 3rd periods of long form of periodic table are called: لونگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کے دوسرے اور تیسرے پیریڈز کو کہتے ہیں۔ (1)

(A) Short periods شارٹ پیریڈز (B) Normal periods نارمل پیریڈز (C) Long periods لونگ پیریڈز (D) Very long periods ویری لونگ پریڈز

(2) Covalent bond formation is due to: کوویلنٹ بانڈ بننے کی وجہ ہے۔ (2)

(A) Sharing of electrons الیکٹرونز کا شیئرنگ کرنا (B) Donation of electrons الیکٹرونز کا عطیہ کرنا (C) Acceptance of electrons الیکٹرونز کی ایکسیپٹینس کرنا (D) Repulsion of electrons الیکٹرونز کی ریپلسیو فورسز کا ہونا

(3) Which one of the following compounds is soluble in water? درج ذیل میں سے کون سا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر ہے؟ (3)

(A) CH_4 (B) C_2H_2 (C) NaCl (D) C_6H_6

(4) Which one of the following gases diffuses fastest? ان میں سے کون سی گیس تیزی سے ڈیفیوژ کرتی ہے؟ (4)

(A) Hydrogen ہائڈروجن (B) Fluorine فلورین (C) Chlorine کلورین (D) Oxygen آکسیجن

(5) The molecular formula of Sulphur molecule is: سلفر کے مالیکیول کا مالیکیولی فارمولا ہوتا ہے۔ (5)

(A) S_4 (B) S_5 (C) S_6 (D) S_8

(6) Which one is the example of "solid in solid" solution? کون سا سلوشن ٹھوس میں ٹھوس کی مثال ہے؟ (6)

(A) Butter مکھن (B) Smoke in air ہوا میں دُھواں (C) Air ہوا (D) Brass براس (پیتل)

(7) Which one is Non-Electrolyte? کون سا نان الیکٹرولائٹ ہے؟ (7)

(A) $Ca(OH)_2$ solution $Ca(OH)_2$ کا سلوشن (B) HCl solution HCl کا سلوشن (C) Sugar solution شوگر سلوشن (D) NaOH solution NaOH کا سلوشن

(8) The oxidation number of chromium in $K_2Cr_2O_7$ is: $K_2Cr_2O_7$ میں کرومیم کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔ (8)

(A) +3 (B) +4 (C) +6 (D) +7

(9) Which one of the metals burns with golden yellow flame? اِن میں سے کون سی میٹل سنہری پیلے رنگ کے شعلے کے ساتھ جلتی ہے؟ (9)

(A) Sodium سوڈیم (B) Iron آئرن (C) Calcium کیلشیم (D) Magnesium میگنیشیم

(10) Which one of the following is a heterogeneous mixture? درج ذیل میں سے کون سی چیز ہیٹروجینیس مکسچر ہے؟ (10)

(A) Air ہوا (B) Rock چٹان (C) Gasoline گیسولین (D) Ice cream آئس کریم

(11) The empirical formula of glucose is: گلوکوز کا امپیریکل فارمولا ہے۔ (11)

(A) HO (B) CH (C) CH_2O (D) H_2O_2

(12) Which isotope is used for treatment of skin cancer? کون سا آئسوٹوپ سکن کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ (12)

(A) C-12 (B) C-14 (C) P-32 (D) I-131

23(Obj)(☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1486

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

CHEMISTRY GROUP-II کیمسٹری گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چارممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which one of the following gases diffuses fastest? ان میں سے کون سی گیس تیزی سے ڈیفیوژ کرتی ہے؟

(A) Hydrogen ہائڈروجن (B) Fluorine فلورین (C) Chlorine کلورین (D) Oxygen آکسیجن

(2) The molecular formula of Sulphur molecule is: سلفر کے مالیکیول کا مالیکیولی فارمولا ہوتا ہے۔

(A) S_4 (B) S_5 (C) S_6 (D) S_8

(3) Which one is the example of "solid in solid" solution? کون سا سلوشن ٹھوس میں ٹھوس کی مثال ہے؟

(A) Butter مکھن (B) Smoke in air ہوا میں دھواں (C) Air ہوا (D) Brass براس (پیتل)

(4) Which one is Non-Electrolyte? کون سا نان الیکٹرولائٹ ہے؟

(A) $Ca(OH)_2$ solution $Ca(OH)_2$ کا سلوشن (B) HCl solution HCl کا سلوشن

(C) Sugar solution شوگر سلوشن (D) NaOH solution NaOH کا سلوشن

(5) The oxidation number of chromium in $K_2Cr_2O_7$ is: $K_2Cr_2O_7$ میں کرومیم کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

(A) +3 (B) +4 (C) +6 (D) +7

(6) Which one of the metals burns with golden yellow flame? اِن میں سے کون سی میٹل سنہری پیلے رنگ کے شعلے کے ساتھ جلتی ہے؟

(A) Sodium سوڈیم (B) Iron آئرن (C) Calcium کیلشیم (D) Magnesium میگنیشیم

(7) Which one of the following is a heterogeneous mixture? درج ذیل میں سے کون سی چیز ہیٹروجینیس مکسچر ہے؟

(A) Air ہوا (B) Rock چٹان (C) Gasoline گیسولین (D) Ice cream آئس کریم

(8) The empirical formula of glucose is: گلوکوز کا امپیریکل فارمولا ہے۔

(A) HO (B) CH (C) CH_2O (D) H_2O_2

(9) Which isotope is used for treatment of skin cancer? کون سا آئسوٹوپ سکن کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(A) C-12 (B) C-14 (C) P-32 (D) I-131

(10) 2nd and 3rd periods of long form of periodic table are called: لونگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کے دوسرے اور تیسرے پیریڈز کو کہتے ہیں۔

(A) Short periods شارٹ پیریڈز (B) Normal periods نارمل پیریڈز

(C) Long periods لونگ پیریڈز (D) Very long periods ویری لونگ پریڈز

(11) Covalent bond formation is due to: کوویلنٹ بانڈ بننے کی وجہ ہے۔

(A) Sharing of electrons الیکٹرونز کا شیئرنگ کرنا (B) Donation of electrons الیکٹرونز کا عطیہ کرنا

(C) Acceptance of electrons الیکٹرونز کی ایکسیپٹینس کرنا (D) Repulsion of electrons الیکٹرونز کی ریپلسیو فورسز کا ہونا

(12) Which one of the following compounds is soluble in water? درج ذیل میں سے کون سا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر ہے؟

(A) CH_4 (B) C_2H_2 (C) NaCl (D) C_6H_6

23(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

رول نمبر ______

PAPER CODE NUMBER: 1488

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

CHEMISTRY GROUP-II

کیمسٹری گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which one is Non-Electrolyte? کون سا نان الیکٹرولائٹ ہے؟
- (A) $Ca(OH)_2$ solution $Ca(OH)_2$ کا سلوشن
- (B) HCl solution HCl کا سلوشن
- (C) Sugar solution شوگر سلوشن
- (D) NaOH solution NaOH کا سلوشن

(2) The oxidation number of chromium in $K_2Cr_2O_7$ is: $K_2Cr_2O_7$ میں کرومیم کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔
- (A) +3
- (B) +4
- (C) +6
- (D) +7

(3) Which one of the metals burns with golden yellow flame? ان میں سے کون سی میٹل سنہری پیلے رنگ کے شعلے کے ساتھ جلتی ہے؟
- (A) Sodium سوڈیم
- (B) Iron آئرن
- (C) Calcium کیلشیم
- (D) Magnesium میگنیشیم

(4) Which one of the following is a heterogeneous mixture? درج ذیل میں سے کون سی چیز ہیٹروجینیس مکسچر ہے؟
- (A) Air ہوا
- (B) Rock چٹان
- (C) Gasoline گیسولین
- (D) Ice cream آئس کریم

(5) The empirical formula of glucose is: گلوکوز کا امپیریکل فارمولا ہے۔
- (A) HO
- (B) CH
- (C) CH_2O
- (D) H_2O_2

(6) Which isotope is used for treatment of skin cancer? کون سا آئسوٹوپ سکن کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
- (A) C-12
- (B) C-14
- (C) P-32
- (D) I-131

(7) 2nd and 3rd periods of long form of periodic table are called: لونگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کے دوسرے اور تیسرے پیریڈز کو کہتے ہیں۔
- (A) Short periods شارٹ پیریڈز
- (B) Normal periods نارمل پیریڈز
- (C) Long periods لونگ پیریڈز
- (D) Very long periods وری لونگ پریڈز

(8) Covalent bond formation is due to: کوویلنٹ بانڈ بننے کی وجہ ہے۔
- (A) Sharing of electrons الیکٹرونز کا شیئرنگ کرنا
- (B) Donation of electrons الیکٹرونز کا عطیہ کرنا
- (C) Acceptance of electrons الیکٹرونز کی ایکسیپٹینس کرنا
- (D) Repulsion of electrons الیکٹرونز کی ریپلسیو فورسز کا ہونا

(9) Which one of the following compounds is soluble in water? درج ذیل میں سے کون سا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر ہے؟
- (A) CH_4
- (B) C_2H_2
- (C) NaCl
- (D) C_6H_6

(10) Which one of the following gases diffuses fastest? ان میں سے کون سی گیس تیزی سے ڈیفیوژ کرتی ہے؟
- (A) Hydrogen ہائیڈروجن
- (B) Fluorine فلورین
- (C) Chlorine کلورین
- (D) Oxygen آکسیجن

(11) The molecular formula of Sulphur molecule is: سلفر کے مالیکیول کا مالیکیولی فارمولا ہوتا ہے۔
- (A) S_4
- (B) S_5
- (C) S_6
- (D) S_8

(12) Which one is the example of "solid in solid" solution? کون سا سلوشن ٹھوس میں ٹھوس کی مثال ہے؟
- (A) Butter مکھن
- (B) Smoke in air ہوا میں دھواں
- (C) Air ہوا
- (D) Brass براس (پیتل)

23(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: Civics Session: 2020 - 2022

7th 1/22 186

notespk.com

Q.Nos	Paper Code 1171	Paper Code 1173	Paper Code 1175	Paper Code 1177
1	B	B	D	D
2	B	A	B	C
3	B	D	D	B
4	D	C	D	B
5	B	A	C	B
6	A	C	B	D
7	D	D	B	B
8	C	B	B	A
9	A	D	D	D
10	C	D	B	C
11	D	C	A	A
12	B	B	D	C
13	D	B	C	D
14	D	B	A	B
15	C	D	C	D
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون ـــــــ سوکس ـــــــ پرچہ ـــــ I ـــــ گروپ ــــ x ــــ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 27-05-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	تنویر احمد اختر	S.S	Govt. HSS CAR Multan	03006885363	[signature]
2	محمد یونس ولو	S.S.T	Govt Islamia H/S Vehari	03017943634	[signature]
3					
4					

رول نمبر

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

CIVICS

سوکس

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is E.M. White's definition of Civics?
ای۔ایم۔وائٹ نے علم شہریت کی کیا تعریف کی ہے؟

(ii) How is the state formed on the basis of Civics?
علم شہریت کی روسے ریاست کیسے تشکیل پاتی ہے؟

(iii) What is Professor M.C.Iver's definition of "Family"?
پروفیسر میک آئیور نے " خاندان " کی کیا تعریف کی ہے؟

(iv) Write two characteristics of society.
معاشرے کی دو خصوصیات لکھیں۔

(v) What should be the population of the state nowadays?
آج کل کے دور میں ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے؟

(vi) Name two elements of the state.
ریاست کے دو عناصر کے نام بیان کریں۔

(vii) How are quick decisions useful in a dictatorship?
آمریت میں فوری فیصلے کیسے مفید ثابت ہوتے ہیں؟

(viii) What does Islam's system of civil equality teach?
اسلام کا شہری مساوات کا نظام کیا درس دیتا ہے؟

(ix) What is the role fo education in creating good citizenship?
اچھی شہریت پیدا کرنے میں تعلیم کا کیا کردار ہے؟

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why did Aristotle call man a social animal?
ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کیوں کہا ہے؟

(ii) Write the names of three disciplines of Civics similarity.
علم شہریت کی مماثلت کے تین علوم کے نام لکھیں۔

(iii) What rights and duties of a citizen are described in political science?
علم سیاسیات میں شہری کے کون سے حقوق و فرائض بیان کیے جاتے ہیں؟

(iv) What is John-F. Sober's definition of society?
جان۔ایف سوبر نے معاشرے کی کیا تعریف کی ہے؟

(v) Write two points about the importance of Family.
خاندان کی اہمیت کے دو نکات لکھیں۔

(vi) Write the names of four Media outlets.
چار ذرائع ابلاغ کے نام تحریر کریں۔

(vii) The word nation is derived from which language and from which word?
قوم کا لفظ کون سی زبان اور کس لفظ سے ماخذ ہے؟

(viii) What are the administrative duties of the legislature?
مقننہ کے انتظامی فرائض کیا ہیں؟

(ix) How can a citizen maintain a balance between Obedience and Loyalty?
ایک شہری اطاعت اور وفاداری میں توازن کیسے قائم کرسکتا ہے؟

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by Ethics?
اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟

(ii) Civics is derived from which words and what do they mean?
سوکس کن الفاظ سے ماخذ ہے اور ان کے معنی کیا ہیں؟

(iii) What does a family consist of?
خاندان کن افراد پر مشتمل ہوتا ہے؟

(iv) What are the types of community?
کمیونٹی کی کون کون سی اقسام ہیں؟

(v) What are the essential elements of the state?
ریاست کے لازمی عناصر کون سے ہیں؟

(vi) Who is responsible to do justice?
عدل و انصاف قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟

(vii) How are the members of the Legislature elected?
مقننہ کے ممبران کا انتخاب کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟

(viii) Describe any two duties of administration.
انتظامیہ کے کوئی دو فرائض بیان کیجیے۔

(ix) Write the names of the four virtues of democracy.
جمہوریت کی چار خوبیوں کے نام لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Define Civics and explain its importance.
علم شہریت کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ ‎-5

6. Write the important features of the Islamic Ummah.
اُمتِ اسلامیہ کی اہم خصوصیات تحریر کیجیے۔ ‎-6

7. Define the state and describe its essential elements in detail.
ریاست کی تعریف کریں اور اس کے لازمی عناصر تفصیل سے بیان کریں۔ ‎-7

8. Define dictatorship and write down its strengths and weaknesses.
آمریت کی تعریف کریں اس کی خوبیاں اور خامیاں تحریر کیجیے۔ ‎-8

9. Define the citizen and write the ancient and modern concepts of the citizen.
شہری کی تعریف کریں۔ شہری کے قدیم اور جدید تصور تحریر کیجیے۔ ‎-9

61-2022(A)-900 **(MULTAN)**

Page 61 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

PAPER CODE NUMBER: 1173

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

188

CIVICS

سوکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات C ،B ،A اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The foundation of the Islamic Ummah is on: — اُمت اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ (1)
- (A) Common political goals مشترکہ سیاسی مقاصد
- (B) The highest human principle اعلیٰ ترین انسانی اصول
- (C) Cultural values ثقافتی اقدار
- (D) Sciences and Arts علوم وفنون

(2) A group of individuals in which the spirit of nationalism is found is called: — افراد کا ایسا گروہ جس میں جذبہ قومیت پایا جائے، کہلاتا ہے۔ (2)
- (A) Nation قوم
- (B) Rural community دیہی کمیونٹی
- (C) Civic community شہری کمیونٹی
- (D) Tribe قبیلہ

(3) In which city did the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم establish the First Islamic state? — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی؟ (3)
- (A) Jeddah جدہ
- (B) Makkah Mukarrama مکہ مکرمہ
- (C) Riyadh ریاض
- (D) Medina Munawwara مدینہ منورہ

(4) What is the total area of China? — چین کا کل رقبہ کتنا ہے؟ (4)
- (A) 17 Lakh square miles سترہ لاکھ مربع میل
- (B) 27 Lakh square miles ستائیس لاکھ مربع میل
- (C) 37 Lakh square miles سینتیس لاکھ مربع میل
- (D) 47 Lakh square miles سنتالیس لاکھ مربع میل

(5) People of ______ lived in ancient Greece. — قدیم یونان میں افراد رہتے تھے۔ (5)
- (A) Two kinds دو طرح کے
- (B) Three kinds تین طرح کے
- (C) Four kinds چار طرح کے
- (D) Five kinds پانچ طرح کے

(6) Pakistan's Highest Court is: — پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ (6)
- (A) Services Tribunal سروسز ٹریبونل
- (B) High Court ہائی کورٹ
- (C) Supreme Court سپریم کورٹ
- (D) Session Court سیشن کورٹ

(7) What is the authority of the President called: — صدر کے اختیار کو کیا کہتے ہیں۔ (7)
- (A) The right is obligatory حق لازمی
- (B) Secondary right حق ثانوی
- (C) Privilege حق استحقاق
- (D) Right of return حق استرداد

(8) "The wish and thinking of the dictator is law" who said? — " آمر جو کچھ سوچتا ہے اور چاہتا ہے وہی قانون ہے " یہ قول کس مفکر کا ہے؟ (8)
- (A) Allama Muhammad Iqbal علامہ محمد اقبالؒ
- (B) Austin آسٹن
- (C) Gettle گیٹل
- (D) Abraham Lincoln ابراہم لنکن

(9) Which quality has brought the nation at present stage that are most developed today? — جو اقوام آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں ان کو کس صفت نے اس مقام تک پہنچایا ہے؟ (9)
- (A) Social consciousness سماجی شعور
- (B) Beyond prejudice تعصب سے بالاتر ہونا
- (C) The spirit of obedience اطاعت کا جذبہ
- (D) A sense of responsibility احساس ذمہ داری

(10) What is the name of tax imposed on non-muslims in the Islamic state? — اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر عائد ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ (10)
- (A) Income tax انکم ٹیکس
- (B) Property tax پراپرٹی ٹیکس
- (C) Sales tax سیلز ٹیکس
- (D) Jaziya جزیہ

(11) An individual can not fulfil alone his: — فرد تنہا اپنی ______ پوری نہیں کرسکتا۔ (11)
- (A) Books کتابیں
- (B) Wishes خواہشات
- (C) Needs ضروریات
- (D) Struggles کوششیں

(12) In democracies the ______ run the Government affairs? — جمہوری ممالک میں حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں۔ (12)
- (A) Legislative bodies قانون ساز ادارے
- (B) Citizens شہری
- (C) Local Government Agencies مقامی حکومتی ادارے
- (D) Political leader سیاسی راہنما

(13) The whole nation is represented by: — پوری قوم کی نمائندہ ہوتی ہے۔ (13)
- (A) Administration انتظامیہ
- (B) Legislature مقننہ
- (C) Government حکومت
- (D) Judiciary عدلیہ

(14) Which famous economist has called economics knowledge of wealth and acquisition of wealth? — کس مشہور ماہر اقتصادیات نے اقتصادیات کو " دولت اور حصولِ دولت " کا علم کہا ہے؟ (14)
- (A) Adam Smith آدم سمتھ
- (B) Marshall مارشل
- (C) Recadrow ریکاڈرو
- (D) Robbins رابنز

(15) An individual can not fulfil his duties: — فرد اپنے فرائض کو پوری طرح ادا نہیں کرسکتا۔ (15)
- (A) Without education تعلیم کے بغیر
- (B) Without wealth دولت کے بغیر
- (C) Without land زمین کے بغیر
- (D) Without health صحت کے بغیر

61(Obj)(☆☆)-2022(A)-900 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1171

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

(189)

CIVICS

سوکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) In democracies the ________ run the Government affairs? جمہوری ممالک میں حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں۔ (1)
- (A) Legislative bodies قانون ساز ادارے
- (B) Citizens شہری
- (C) Local Government Agencies مقامی حکومتی ادارے
- (D) Political leader سیاسی راہنما

(2) The whole nation is represented by: پوری قوم کی نمائندہ ہوتی ہے۔ (2)
- (A) Administration انتظامیہ
- (B) Legislature مقننہ
- (C) Government حکومت
- (D) Judiciary عدلیہ

(3) Which famous economist has called economics knowledge of wealth and acquisition of wealth? کس مشہور ماہر اقتصادیات نے اقتصادیات کو " دولت اور حصولِ دولت " کا علم کہا ہے؟ (3)
- (A) Adam Smith آدم سمتھ
- (B) Marshall مارشل
- (C) Recadrow ریکاڈرو
- (D) Robbins رابنز

(4) An individual can not fulfil his duties: فرد اپنے فرائض کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ (4)
- (A) Without education تعلیم کے بغیر
- (B) Without wealth دولت کے بغیر
- (C) Without land زمین کے بغیر
- (D) Without health صحت کے بغیر

(5) The foundation of the Islamic Ummah is on: اُمت اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ (5)
- (A) Common political goals مشترکہ سیاسی مقاصد
- (B) The highest human principle اعلیٰ ترین انسانی اصول
- (C) Cultural values ثقافتی اقدار
- (D) Sciences and Arts علوم وفنون

(6) A group of individuals in which the spirit of nationalism is found is called: افراد کا ایسا گروہ جس میں جذبہ قومیت پایا جائے، کہلاتا ہے۔ (6)
- (A) Nation قوم
- (B) Rural community دیہی کمیونٹی
- (C) Civic community شہری کمیونٹی
- (D) Tribe قبیلہ

(7) In which city did the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم establish the First Islamic state? رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی؟ (7)
- (A) Jeddah جدہ
- (B) Makkah Mukarrama مکہ مکرمہ
- (C) Riyadh ریاض
- (D) Medina Munawwara مدینہ منورہ

(8) What is the total area of China? چین کا کل رقبہ کتنا ہے؟ (8)
- (A) 17 Lakh square miles سترہ لاکھ مربع میل
- (B) 27 Lakh square miles ستائیس لاکھ مربع میل
- (C) 37 Lakh square miles سینتیس لاکھ مربع میل
- (D) 47 Lakh square miles سنتالیس لاکھ مربع میل

(9) People of _______ lived in ancient Greece. قدیم یونان میں افراد رہتے تھے۔ (9)
- (A) Two kinds دو طرح کے
- (B) Three kinds تین طرح کے
- (C) Four kinds چار طرح کے
- (D) Five kinds پانچ طرح کے

(10) Pakistan's Highest Court is: پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ (10)
- (A) Services Tribunal سروسز ٹربیونل
- (B) High Court ہائی کورٹ
- (C) Supreme Court سپریم کورٹ
- (D) Session Court سیشن کورٹ

(11) What is the authority of the President called: صدر کے اختیار کو کیا کہتے ہیں۔ (11)
- (A) The right is obligatory حق لازمی
- (B) Secondary right حق ثانوی
- (C) Privilege حق استحقاق
- (D) Right of return حق استرداد

(12) "The wish and thinking of the dictator is law" who said? " آمر جو کچھ سوچتا ہے اور چاہتا ہے وہی قانون ہے " یہ قول کس مفکر کا ہے؟ (12)
- (A) Allama Muhammad Iqbal علامہ محمد اقبالؒ
- (B) Austin آسٹن
- (C) Gettle گیٹل
- (D) Abraham Lincoln ابراہم لنکن

(13) Which quality has brought the nation at present stage that are most developed today? جو اقوام آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں ان کو کس صفت نے اس مقام تک پہنچایا ہے؟ (13)
- (A) Social consciousness سماجی شعور
- (B) Beyond prejudice تعصب سے بالاتر ہونا
- (C) The spirit of obedience اطاعت کا جذبہ
- (D) A sense of responsibility احساس ذمہ داری

(14) What is the name of tax imposed on non-muslims in the Islamic state? اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر عائد ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ (14)
- (A) Income tax انکم ٹیکس
- (B) Property tax پراپرٹی ٹیکس
- (C) Sales tax سیلز ٹیکس
- (D) Jaziya جزیہ

(15) An individual can not fulfil alone his: فرد تنہا اپنی ________ پوری نہیں کر سکتا۔ (15)
- (A) Books کتابیں
- (B) Wishes خواہشات
- (C) Needs ضروریات
- (D) Struggles کوششیں

61(Obj)(☆)-2022(A)-900 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1175

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____________

CIVICS سوکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) What is the authority of the President called: صدر کے اختیار کو کیا کہتے ہیں۔ (1)
(A) The right is obligatory حق لازمی (B) Secondary right حق ثانوی (C) Privilege حق استحقاق (D) Right of return حق استرداد

(2) "The wish and thinking of the dictator is law" who said? '' آمر جو کچھ سوچتا ہے اور چاہتا ہے وہی قانون ہے '' یہ قول کس مفکر کا ہے؟ (2)
(A) Allama Muhammad Iqbal علامہ محمد اقبالؒ (B) Austin آسٹن (C) Gettle گیٹل (D) Abraham Lincoln ابراہم لنکن

(3) Which quality has brought the nation at present stage that are most developed today? جو اقوام آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں ان کو کس صفت نے اس مقام تک پہنچایا ہے؟ (3)
(A) Social consciousness سماجی شعور (B) Beyond prejudice تعصب سے بالاتر ہونا
(C) The spirit of obedience اطاعت کا جذبہ (D) A sense of responsibility احساس ذمہ داری

(4) What is the name of tax imposed on non-muslims in the Islamic state? اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر عائد ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ (4)
(A) Income tax انکم ٹیکس (B) Property tax پراپرٹی ٹیکس (C) Sales tax سیلز ٹیکس (D) Jaziya جزیہ

(5) An individual can not fulfil alone his: فرد تنہا اپنی ______ پوری نہیں کرسکتا۔ (5)
(A) Books کتابیں (B) Wishes خواہشات (C) Needs ضروریات (D) Struggles کوششیں

(6) In democracies the ________ run the Government affairs? جمہوری ممالک میں حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں۔ (6)
(A) Legislative bodies قانون ساز ادارے (B) Citizens شہری
(C) Local Government Agencies مقامی حکومتی ادارے (D) Political leader سیاسی راہنما

(7) The whole nation is represented by: پوری قوم کی نمائندہ ہوتی ہے۔ (7)
(A) Administration انتظامیہ (B) Legislature مقننہ (C) Government حکومت (D) Judiciary عدلیہ

(8) Which famous economist has called economics knowledge of wealth and acquisition of wealth? کس مشہور ماہر اقتصادیات نے اقتصادیات کو '' دولت اور حصولِ دولت '' کا علم کہا ہے؟ (8)
(A) Adam Smith آدم سمتھ (B) Marshall مارشل (C) Recadrow ریکاڈرو (D) Robbins رابنز

(9) An individual can not fulfil his duties: فرد اپنے فرائض کو پوری طرح ادا نہیں کرسکتا۔ (9)
(A) Without education تعلیم کے بغیر (B) Without wealth دولت کے بغیر
(C) Without land زمین کے بغیر (D) Without health صحت کے بغیر

(10) The foundation of the Islamic Ummah is on: اُمت اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ (10)
(A) Common political goals مشترکہ سیاسی مقاصد (B) The highest human principle اعلیٰ ترین انسانی اصول
(C) Cultural values ثقافتی اقدار (D) Sciences and Arts علوم وفنون

(11) A group of individuals in which the spirit of nationalism is found is called: افراد کا ایسا گروہ جس میں جذبہ قومیت پایا جائے، کہلاتا ہے۔ (11)
(A) Nation قوم (B) Rural community دیہی کمیونٹی (C) Civic community شہری کمیونٹی (D) Tribe قبیلہ

(12) In which city did the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم establish the First Islamic state? رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی؟ (12)
(A) Jeddah جدہ (B) Makkah Mukarrama مکہ مکرمہ (C) Riyadh ریاض (D) Medina Munawwara مدینہ منورہ

(13) What is the total area of China? چین کا کل رقبہ کتنا ہے؟ (13)
(A) 17 Lakh square miles سترہ لاکھ مربع میل (B) 27 Lakh square miles ستائیس لاکھ مربع میل
(C) 37 Lakh square miles سینتیس لاکھ مربع میل (D) 47 Lakh square miles سنتالیس لاکھ مربع میل

(14) People of _______ lived in ancient Greece. قدیم یونان میں افراد رہتے تھے۔ (14)
(A) Two kinds دو طرح کے (B) Three kinds تین طرح کے (C) Four kinds چار طرح کے (D) Five kinds پانچ طرح کے

(15) Pakistan's Highest Court is: پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ (15)
(A) Services Tribunal سروسز ٹریبونل (B) High Court ہائی کورٹ (C) Supreme Court سپریم کورٹ (D) Session Court سیشن کورٹ

61(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-900 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1177

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____________

(191)

CIVICS

سوکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) What is the name of tax imposed on non-muslims in the Islamic state? — اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر عائد ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ (1)

(A) Income tax انکم ٹیکس (B) Property tax پراپرٹی ٹیکس (C) Sales tax سیلز ٹیکس (D) Jaziya جزیہ

(2) An individual can not fulfil alone his: — فرد تنہا اپنی ________ پوری نہیں کرسکتا۔ (2)

(A) Books کتابیں (B) Wishes خواہشات (C) Needs ضروریات (D) Struggles کوششیں

(3) In democracies the ________ run the Government affairs? — جمہوری ممالک میں حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں۔ (3)

(A) Legislative bodies قانون ساز ادارے (B) Citizens شہری
(C) Local Government Agencies مقامی حکومتی ادارے (D) Political leader سیاسی راہنما

(4) The whole nation is represented by: — پوری قوم کی نمائندہ ہوتی ہے۔ (4)

(A) Administration انتظامیہ (B) Legislature مقننہ (C) Government حکومت (D) Judiciary عدلیہ

(5) Which famous economist has called economics knowledge of wealth and acquisition of wealth? — کس مشہور ماہر اقتصادیات نے اقتصادیات کو '' دولت اور حصول دولت '' کا علم کہا ہے؟ (5)

(A) Adam Smith آدم سمتھ (B) Marshall مارشل (C) Recadrow ریکاڈرو (D) Robbins رابنز

(6) An individual can not fulfil his duties: — فرد اپنے فرائض کو پوری طرح ادا نہیں کرسکتا۔ (6)

(A) Without education تعلیم کے بغیر (B) Without wealth دولت کے بغیر
(C) Without land زمین کے بغیر (D) Without health صحت کے بغیر

(7) The foundation of the Islamic Ummah is on: — اُمت اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ (7)

(A) Common political goals مشترکہ سیاسی مقاصد (B) The highest human principle اعلیٰ ترین انسانی اصول
(C) Cultural values ثقافتی اقدار (D) Sciences and Arts علوم وفنون

(8) A group of individuals in which the spirit of nationalism is found is called: — افراد کا ایسا گروہ جس میں جذبہ قومیت پایا جائے، کہلاتا ہے۔ (8)

(A) Nation قوم (B) Rural community دیہی کمیونٹی (C) Civic community شہری کمیونٹی (D) Tribe قبیلہ

(9) In which city did the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم establish the First Islamic state? — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی؟ (9)

(A) Jeddah جدہ (B) Makkah Mukarrama مکہ مکرمہ (C) Riyadh ریاض (D) Medina Munawwara مدینہ منورہ

(10) What is the total area of China? — چین کا کل رقبہ کتنا ہے؟ (10)

(A) 17 Lakh square miles سترہ لاکھ مربع میل (B) 27 Lakh square miles ستائیس لاکھ مربع میل
(C) 37 Lakh square miles سینتیس لاکھ مربع میل (D) 47 Lakh square miles سنتالیس لاکھ مربع میل

(11) People of ______ lived in ancient Greece. — قدیم یونان میں افراد رہتے تھے۔ (11)

(A) Two kinds دو طرح کے (B) Three kinds تین طرح کے (C) Four kinds چار طرح کے (D) Five kinds پانچ طرح کے

(12) Pakistan's Highest Court is: — پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ (12)

(A) Services Tribunal سروسز ٹریبونل (B) High Court ہائی کورٹ (C) Supreme Court سپریم کورٹ (D) Session Court سیشن کورٹ

(13) What is the authority of the President called: — صدر کے اختیار کو کیا کہتے ہیں۔ (13)

(A) The right is obligatory حق لازمی (B) Secondary right حق ثانوی (C) Privilege حق استحقاق (D) Right of return حق استرداد

(14) "The wish and thinking of the dictator is law" who said? — '' آمر جو کچھ سوچتا ہے اور چاہتا ہے وہی قانون ہے '' یہ قول کس مفکر کا ہے؟ (14)

(A) Allama Muhammad Iqbal علامہ محمد اقبالؒ (B) Austin آسٹن (C) Gettle گیٹل (D) Abraham Lincoln ابراہم لنکن

(15) Which quality has brought the nation at present stage that are most developed today? — جو اقوام آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں ان کو کس صفت نے اس مقام تک پہنچایا ہے؟ (15)

(A) Social consciousness سماجی شعور (B) Beyond prejudice تعصب سے بالاتر ہونا
(C) The spirit of obedience اطاعت کا جذبہ (D) A sense of responsibility احساس ذمہ داری

61(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-900 **(MULTAN)**

notespk.com

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022

Name of Subject: [illegible] Session: ____

211 9th A/22

Q.Nos	Paper Code 1751	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	B			
2	D			
3	A			
4	C			
5	B			
6	D			
7	C			
8	A			
9	B			
10	B			
11	D			
12	C			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفیکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون [illegible] پرچہ _ 9th _ گروپ _________ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 01-6-22

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Asma Tabassum.	PEL-	G.G.M.H/S No I Nawa Sher	0347-6372344	[signature]
2					
3					
4					

رول نمبر ______ 213

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

CLOTHING AND TEXTILE
لباس اور پارچہ بافی

TIME ALLOWED: 1.45 Hours — وقت = 1.45 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 48 — کل نمبر = 48

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5
سوال نمبر2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define the Textile. — پارچہ بافی کی تعریف کیجیے۔

(ii) In how many kinds the Textile industry is divided according to preparation? Write names. — پارچہ بافی کی صنعت کو تیاری کے لحاظ سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ نام لکھیں۔

(iii) How many types of personality are there? Write names. — شخصیت کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔

(iv) What is the importance of clothing in our social life? — ہماری سماجی زندگی میں لباس کی کیا اہمیت ہے؟

(v) What is meant by pure fabrics and blended fabrics? — ایک ہی ریشے سے تیار کردہ اور مختلف ریشوں کے امتزاج سے تیار کردہ کپڑوں سے کیا مراد ہے؟

(vi) How many types of woolen fabrics are there? Write names. — اونی کپڑوں کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔

(vii) Write four qualities of cotton fabrics. — سوتی کپڑوں کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

(viii) Write the names of fibers getting by natural sources. — قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والے ریشوں کے نام تحریر کیجیے۔

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5
سوال نمبر3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Where are the Industries related to wool fibers are situated? — اونی ریشے سے وابستہ صنعتیں کہاں کہاں قائم ہیں؟

(ii) Which areas are famous in Pakistan for cultivation of cotton? — کپاس کی کاشت کے لیے پاکستان کے کون کون سے علاقے مشہور ہیں؟

(iii) Write about any four fiber's identification through microscope. — خوردبین کے ذریعے کوئی سے چار ریشوں کی پہچان تحریر کیجیے۔

(iv) How is the fibers identified through Acid's solution? — تیزاب کے محلول سے ریشوں کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟

(v) How many methods of machine knitting fabrics are there? Write their names. — مشین کے ذریعے کپڑے کی بنائی کے کتنے طریقے ہیں؟ ان کے نام تحریر کیجیے۔

(vi) When and where was the Hand Knitting started? — ہاتھ سے بنائی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟

(vii) Write the qualities of fabrics made by Twill Weave. — ٹویل بنت سے بنے ہوئے کپڑوں کی خصوصیات تحریر کیجیے۔

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5
سوال نمبر4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write about the identification of warm colours. — گرم رنگوں کی شناخت تحریر کیجیے۔

(ii) Define the Textile design. — ٹیکسٹائل ڈیزائن کی تعریف کیجیے۔

(iii) What is meant by natural design? — قدرتی ڈیزائن سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is the importance of Textile knowledge in the selection of clothing? — لباس کے انتخاب میں پارچہ بافی کے علم کی کیا اہمیت ہے؟

(v) Which factors are necessary to keep in mind while selecting clothing? — لباس کے انتخاب میں کن عوامل کو مدِنظر رکھنا ضروری ہے؟

(vi) What is meant by Informal Balance in the principles of design? — ڈیزائن کے اصولوں میں غیر رسمی توازن سے کیا مراد ہے؟

(vii) How does the income affect on shopping of clothes? — آمدنی کس طرح کپڑوں کی خریداری پر اثر انداز ہوتی ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 x 2
نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Write a complete note on Screen Printing. — 5۔ سکرین پرنٹنگ پر مکمل نوٹ تحریر کیجیے۔

6. Write a note on industrial centers of knitting and stitching. — 6۔ بنائی اور سلائی کے صنعتی مراکز پر نوٹ تحریر کیجیے۔

7. Write a note on current needs of studying Textile and Clothing. — 7۔ عہدِ حاضر میں پارچہ بافی اور لباس کے مطالعہ کی ضرورت پر نوٹ تحریر کیجیے۔

80-2022(A)-100 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1751

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 212

CLOTHING AND TEXTILE — لباس اور پارچہ بافی

TIME ALLOWED: 15 Minutes — وقت = 15 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 12 — کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The types of clothing according to the origin are: — ارتقا کے لحاظ سے لباس کی اقسام ہیں۔

(A) 2 دو (B) 3 تین (C) 5 پانچ (D) 7 سات

(2) Cotton fiber is got from the plants of: — سوتی ریشہ حاصل ہوتا ہے ______ کے پودوں سے۔

(A) Linen seed السی (B) Jute پٹ سن (C) Bamboo بانس (D) Cotton کپاس

(3) The sources of getting natural fibers are: — قدرتی ریشہ حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔

(A) 2 دو (B) 3 تین (C) 4 چار (D) 5 پانچ

(4) The history of cotton in Pakistan is old as: — پاکستان میں کپاس کی تاریخ پرانی ہے۔

(A) After the birth of Pakistan قیام پاکستان کے بعد کی
(B) The reign of Sikhs سکھوں کے دور کی
(C) 3000 years BC تین ہزار سال قبل از مسیح کی
(D) The reign of Mughals مغلیہ دور کی

(5) The woolen fiber burns: — اونی ریشہ جلتا ہے۔

(A) At high flame یکدم شعلے کے ساتھ
(B) Caught fire slowly آہستگی سے آگ پکڑتا ہے
(C) Melts with fire آگ سے پگھل جاتا ہے
(D) Burns not at all بالکل نہیں جلتا

(6) The methods of the identification of fibers are: — ریشوں کی شناخت کے طریقے ہیں۔

(A) 2 دو (B) 3 تین (C) 4 چار (D) 5 پانچ

(7) The art of Textile is: — پارچہ بافی کا ہنر ہے۔

(A) Difficult مشکل (B) Easy سہل (C) Very old نہایت قدیم (D) Modern جدید

(8) The method of screen printing is: — سکرین پرنٹنگ کا طریقہ ہے۔

(A) Modern جدید (B) Old پرانا (C) Speedy تیز رفتار (D) Easy آسان

(9) The basic colours are: — بنیادی رنگ ہیں۔

(A) 2 دو (B) 3 تین (C) 4 چار (D) 5 پانچ

(10) The label pasted on ready made dresses are: — ریڈی میڈ ملبوسات پر لگائے گئے لیبل ہوتے ہیں۔

(A) Useless بے کار (B) Useful مفید (C) Unsuitable نامناسب (D) Expensive مہنگے

(11) The dreseses made by knitting are: — بنائی سے تیار کردہ ملبوسات ہوتے ہیں۔

(A) Soft نرم (B) Hard سخت (C) Weighty وزنی (D) Flexible لچکدار

(12) The principle of design is: — ڈیزائن کا اصول ہے۔

(A) Colour رنگ (B) Surface سطح (D) Emphasis فوقیت/نمایاں کرنا (D) Glittering چمک

80(Obj)-2022(A)-100 **(MULTAN)**

(Course) 138 9th A/22

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Computer Science

Session:

Group: 1st

Q. Nos	Paper Code 1831	Paper Code 1833	Paper Code 1835	Paper Code 1837
1	A	A	B	D
2	B	D	B	C
3	D	C	A	B
4	C	B	D	B
5	B	A	C	A
6	B	B	B	D
7	A	D	A	C
8	D	C	B	B
9	C	B	D	A
10	B	B	C	B
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1832	Paper Code 1834	Paper Code 1836	Paper Code 1838
1	C	B	C	B
2	A	C	C	C
3	A	C	B	C
4	C	C	C	A
5	B	B	C	A
6	C	C	A	C
7	C	C	A	B
8	C	A	C	C
9	B	A	B	C
10	C	C	C	C
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

notespk.com

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون کمپیوٹر سائنس پرچہ پہلا گروپ I, II سکیم نیو میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 31/5/2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Asad Hussain	SST(IT)	Govt. Higher Sec. School Tibba Sultan Pur (Vehari)	0300-7315881	(signed)
2	Athar Pervaiz	SST(CS)	GHS Pipal Mirali (KWL)	0300-7658048	(signed)
3	Hafiz M. Farooq Abid	SST(CS)	GHS Feroze Pur, MTN.	0301-3477207	(signed)
4	Jamil Ullah	SST(CS)	Ghs Sumra Public Mtn	03346117905	(signed)
5	Syed Tabarak Ali	SST(CS)	GHSS Ailampur MTN	03007315536	(signed)

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) بمعہ معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Hafiz Muhammad Jibran	SST(IT)	GHSS Comprehensive Multan	03047272642	(signed)
2	Zahid Mahmood Shar	SST(IT)	GHS Model Shamsabad, Multan.	0312-6899307	(signed)
3					

تاریخ 01-06-2022

PAPER CODE NUMBER: 1831

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-I کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which word refers to something spontaneous and unplanned? کون سا لفظ غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے؟ (1)

(A) Candid solution کینڈڈ سلوشن (B) Act it out ایکٹ اِٹ آؤٹ (C) Prototype نمونہ (D) To guess اندازہ لگانا

(2) In a flowchart ▱ symbol represents: فلو چارٹ میں ▱ کی علامت ظاہر کرتی ہے۔ (2)

(A) Decision فیصلہ سازی (B) Input/out put ان پٹ/آؤٹ پٹ (C) Processing پروسیسنگ (D) Connector کنیکٹر

(3) The base of decimal number system is: اعشاری عددی نظام کی بیس ______ ہوتی ہے۔ (3)

(A) 2 (B) 8 (C) 16 (D) 10

(4) Expression (A + B) + C is equal to: ایکسپریشن (A + B) + C ______ کے برابر ہوتی ہے۔ (4)

(A) A + (B . C) (B) A . B + A . C (C) A + (B + C) (D) A . (B . C)

(5) Number "19" is equal to ______ in binary system. بائنری سسٹم میں نمبر "19" ______ کے برابر ہوتا ہے۔ (5)

(A) 10000 (B) 10011 (C) 101000 (D) 10110

(6) _____ allow users to communicate using e-mail, news groups. ______ کی مدد سے صارفین ای میل اور نیوز گروپس میں معلومات شیئر کرتے ہیں۔ (6)

(A) Client server کلائنٹ سرور (B) Mail server میل سرور (C) Data base server ڈیٹا بیس سرور (D) ISA server ISA سرور

(7) ______ is a way to protect an idea. ______ کسی آئیڈیا کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ (7)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Piracy پائریسی (C) Encryption خفیہ کاری (D) Soft lifting سافٹ لفٹنگ

(8) The fraudulent attempt by sending e-mails to obtain sensitive information such as user name, password and credit card detail is called: پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات جیسی حساس معلومات ای میل کے ذریعے حاصل کرنا ______ کہلاتا ہے۔ (8)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Sabotage تخریب کاری (C) DOS (D) Phishing فشنگ

(9) In HTML ______ tag is used to bold the word "STUDENT". HTML میں لفظ "STUDENT" کو بولڈ کرنے کے لیے ______ ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے۔ (9)

(A) <u> (B) <i> (C) <b> (D) <p>

(10) Which of the following protocol is used while browsing internet? انٹرنیٹ براؤزنگ کرتے وقت کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟ (10)

(A) FTP (B) HTTP (C) STP (D) SMTP

37(N)(Obj)(☆)-2022(A)-20000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1833

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-I | کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes | **OBJECTIVE** حصہ معروضی | وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 | کل نمبر = 10

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) ______ is a way to protect an idea. | ______ کسی آئیڈیا کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ (1)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Piracy پائریسی (C) Encryption خفیہ کاری (D) Soft lifting سافٹ لفٹنگ

(2) The fraudulent attempt by sending e-mails to obtain sensitive information such as user name, password and credit card detail is called: | پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات جیسی حساس معلومات ای۔میل کے ذریعے حاصل کرنا ______ کہلاتا ہے۔ (2)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Sabotage تخریب کاری (C) DOS (D) Phishing فشنگ

(3) In HTML ______ tag is used to bold the word "STUDENT". | HTML میں لفظ "STUDENT" کو بولڈ کرنے کے لیے ______ ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے۔ (3)

(A) < u > (B) < i > (C) < b > (D) < p >

(4) Which of the following protocol is used while browsing internet? | انٹرنیٹ براؤزنگ کرتے وقت کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟ (4)

(A) FTP (B) HTTP (C) STP (D) SMTP

(5) Which word refers to something spontaneous and unplanned? | کون سا لفظ غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے؟ (5)

(A) Candid solution کینڈڈ سلوشن (B) Act it out ایکٹ اِٹ آؤٹ (C) Prototype نمونہ (D) To guess اندازہ لگانا

(6) In a flowchart ▱ symbol represents: | فلو چارٹ میں ▱ کی علامت ظاہر کرتی ہے۔ (6)

(A) Decision فیصلہ سازی (B) Input/out put ان پٹ/آؤٹ پٹ (C) Processing پروسیسنگ (D) Connector کنیکٹر

(7) The base of decimal number system is: | اعشاری عددی نظام کی بیس ______ ہوتی ہے۔ (7)

(A) 2 (B) 8 (C) 16 (D) 10

(8) Expression (A + B) + C is equal to: | ایکسپریشن (A + B) + C ______ کے برابر ہوتی ہے۔ (8)

(A) A + (B . C) (B) A . B + A . C (C) A + (B + C) (D) A . (B . C)

(9) Number "19" is equal to ______ in binary system. | بائنری سسٹم میں نمبر "19" ______ کے برابر ہوتا ہے۔ (9)

(A) 10000 (B) 10011 (C) 101000 (D) 10110

(10) ______ allow users to communicate using e-mail, news groups. | ______ کی مدد سے صارفین ای میل اور نیوز گروپس میں معلومات شیئر کرتے ہیں۔ (10)

(A) Client server کلائنٹ سرور (B) Mail server میل سرور (C) Data base server ڈیٹا بیس سرور (D) ISA server ISA سرور

37(N)(Obj)(☆☆)-2022(A)-20000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1835

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________ 138

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-I کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Number "19" is equal to ______ in binary system. بائنری سسٹم میں نمبر "19" ______ کے برابر ہوتا ہے۔ (1)

(A) 10000 (B) 10011 (C) 101000 (D) 10110

(2) _____ allow users to communicate using e-mail, news groups. ______ کی مدد سے صارفین ای میل اور نیوز گروپس میں معلومات شیئر کرتے ہیں۔ (2)

(A) Client server کلائنٹ سرور (B) Mail server میل سرور (C) Data base server ڈیٹابیس سرور (D) ISA server ISA سرور

(3) ______ is a way to protect an idea. ______ کسی آئیڈیا کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ (3)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Piracy پائریسی (C) Encryption خفیہ کاری (D) Soft lifting سافٹ لفٹنگ

(4) The fraudulent attempt by sending e-mails to obtain sensitive information such as user name, password and credit card detail is called: پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات جیسی حساس معلومات ای۔میل کے ذریعے حاصل کرنا ______ کہلاتا ہے۔ (4)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Sabotage تخریب کاری (C) DOS (D) Phishing فشنگ

(5) In HTML ______ tag is used to bold the word "STUDENT". HTML میں لفظ "STUDENT" کو بولڈ کرنے کے لیے ______ ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے۔ (5)

(A) <u> (B) <i> (C) <b> (D) <p>

(6) Which of the following protocol is used while browsing internet? انٹرنیٹ براؤزنگ کرتے وقت کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟ (6)

(A) FTP (B) HTTP (C) STP (D) SMTP

(7) Which word refers to something spontaneous and unplanned? کون سا لفظ غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے؟ (7)

(A) Candid solution کینڈڈ سلوشن (B) Act it out ایکٹ اِٹ آؤٹ (C) Prototype نمونہ (D) To guess اندازہ لگانا

(8) In a flowchar ▱ symbol represents: فلو چارٹ میں ▱ کی علامت ظاہر کرتی ہے۔ (8)

(A) Decision فیصلہ سازی (B) Input/out put ان پٹ/آؤٹ پٹ (C) Processing پروسیسنگ (D) Connector کنیکٹر

(9) The base of decimal number system is: اعشاری عددی نظام کی بیس ______ ہوتی ہے۔ (9)

(A) 2 (B) 8 (C) 16 (D) 10

(10) Expression (A + B) + C is equal to: ایکسپریشن (A + B) + C ______ کے برابر ہوتی ہے۔ (10)

(A) A + (B . C) (B) A . B + A . C (C) A + (B + C) (D) A . (B . C)

37(N)(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-20000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1837	**2022 (A)** **SSC PART-I (9th CLASS)**	رول نمبر ______

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-I — کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The base of decimal number system is: — اعشاری عددی نظام کی بیس ______ ہوتی ہے۔ (1)

(A) 2 (B) 8 (C) 16 (D) 10

(2) Expression (A + B) + C is equal to: — ایکسپریشن (A + B) + C ______ کے برابر ہوتی ہے۔ (2)

(A) A + (B . C) (B) A . B + A . C (C) A + (B + C) (D) A . (B . C)

(3) Number "19" is equal to ______ in binary system. — بائنری سسٹم میں نمبر "19" ______ کے برابر ہوتا ہے۔ (3)

(A) 10000 (B) 10011 (C) 101000 (D) 10110

(4) _____ allow users to communicate using e-mail, news groups. — ______ کی مدد سے صارفین ای۔میل اور نیوز گروپس میں معلومات شیئر کرتے ہیں۔ (4)

(A) Client server کلائنٹ سرور (B) Mail server میل سرور (C) Data base server ڈیٹا بیس سرور (D) ISA server ISA سرور

(5) ______ is a way to protect an idea. — ______ کسی آئیڈیا کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ (5)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Piracy پائریسی (C) Encryption خفیہ کاری (D) Soft lifting سافٹ لفٹنگ

(6) The fraudulent attempt by sending e-mails to obtain sensitive information such as user name, password and credit card detail is called: — پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات جیسی حساس معلومات ای۔میل کے ذریعے حاصل کرنا ______ کہلاتا ہے۔ (6)

(A) Patent پیٹنٹ (B) Sabotage تخریب کاری (C) DOS (D) Phishing فشنگ

(7) In HTML ______ tag is used to bold the word "STUDENT". — HTML میں لفظ "STUDENT" کو بولڈ کرنے کے لیے ______ ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے۔ (7)

(A) < u > (B) < i > (C) < b > (D) < p >

(8) Which of the following protocol is used while browsing internet? — انٹرنیٹ براؤزنگ کرتے وقت کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟ (8)

(A) FTP (B) HTTP (C) STP (D) SMTP

(9) Which word refers to something spontaneous and unplanned? — کون سا لفظ غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے؟ (9)

(A) Candid solution کینڈڈ سلوشن (B) Act it out ایکٹ اِٹ آؤٹ (C) Prototype نمونہ (D) To guess اندازہ لگانا

(10) In a flowchart ▱ symbol represents: — فلو چارٹ میں ▱ کی علامت ظاہر کرتی ہے۔ (10)

(A) Decision فیصلہ سازی (B) Input/out put ان پٹ/آؤٹ پٹ (C) Processing پروسیسنگ (D) Connector کنیکٹر

37(N)(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-20000 **(MULTAN)**

رول نمبر

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-I کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.45 گھنٹے

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 40 کل نمبر = 40

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4 سوال نمبر 2۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by Act it Out? ایکٹ اِٹ آؤٹ سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is meant by selecting the best solution? بہترین حل کے انتخاب سے کیا مراد ہے؟

(iii) Draw symbol flow line and write its use. فلو چارٹ میں فلولائن کی علامت بنا کر اس کا استعمال لکھیں۔

(iv) What is the difference between verification and validation? ویری فیکشن اور ویلیڈیشن میں کیا فرق ہے؟

(v) Convert $(156)_{10}$ into binary system. $(156)_{10}$ کو ثنائی نظام میں تبدیل کریں۔

(vi) What is meant by volatile memory? ولا ٹائل میموری سے کیا مراد ہے؟

3. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4 سوال نمبر 3۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Give any two examples of Boolean Preposition. بولین پری پوزیشن کی کوئی دو مثالیں دیں۔

(ii) Draw truth table using NOT operator. NOT اوپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے ٹروتھ ٹیبل بنائیے۔

(iii) Write expressions of Associative Law using AND and OR operators. AND اور OR اوپریٹرز کو استعمال کرتے ہوئے قانون تلازم کے ایکسپریشن لکھیں۔

(iv) How does routing process work in networking? نیٹ ورک میں راؤٹنگ کا عمل کیسے کام کرتا ہے؟

(v) How does HTTP protocol work? ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول (HTTP) کس طرح کام کرتا ہے؟

(vi) Why is server more powerful than client? کلائنٹ کی نسبت سرور زیادہ طاقتور کیوں ہوتا ہے؟

4. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4 سوال نمبر 4۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write two types of software piracy. سافٹ ویئر پائریسی کی کوئی سی دو اقسام تحریر کریں۔

(ii) What is patent and why do we need to register it? پیٹنٹ کیا ہے اور ہمیں اسے رجسٹر کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟

(iii) What are paired tags in HTML? HTML میں پیئرڈ ٹیگز کیا ہوتے ہیں؟

(iv) Define anchor in HTML. HTML میں اینکر کی تعریف کریں۔

(v) What is the use of <TITLE> tag? <TITLE> ٹیگ کا کیا استعمال ہے؟

(vi) Write HTML code to italic the text "I Love Pakistan". متن "I Love Pakistan" کو اٹالک کرنے کے لیے HTML میں کوڈ تحریر کریں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 16 = 8 x 2 نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Write a note on the types of test data. 4 x 2 = 8 ٹیسٹ ڈیٹا کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے۔ ‎-5

6. Differentiate between Star topology and Ring topology. Also give two advantages of each topology. 4 + 2 + 2 سٹار ٹاپولوجی اور رنگ ٹاپولوجی میں فرق بیان کریں۔ نیز دونوں ٹاپولوجیز کے دو دو فائدے تحریر کریں۔ ‎-6

7. Describe DOS (Denial of Service) attack in detail. 8 DOS (Denial of Service) اٹیک تفصیل سے بیان کیجیے۔ ‎-7

37(N)-2022(A)-20000 **(MULTAN)**

رول نمبر

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-II — کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 1.45 Hours — وقت = 1.45 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 40 — کل نمبر = 40

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4 — سوال نمبر2۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is prototype? — نمونہ کیا ہے؟

(ii) What is meant by decision making? — فیصلہ سازی سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by GoTo notation in algorithm? — الگورتھم میں گوٹو نوٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Convert $(101111)_2$ into hexadecimal. — $(101111)_2$ کو ہیگزاڈیسمل میں تبدیل کریں۔

(v) Define memory. — میموری کی تعریف کریں۔

(vi) What is meant by base in number system? — عددی نظام میں بیس سے کیا مراد ہے؟

3. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4 — سوال نمبر3۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Prove by truth table that A.B = B.A — ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے ثابت کریں کہ A.B = B.A

(ii) What is preposition? — پری پوزیشن کسے کہتے ہیں؟

(iii) Write names of logical operators. — لاجیکل آپریٹرز کے نام تحریر کریں۔

(iv) Describe the working of web server. — ایک ویب سرور کیسے کام کرتا ہے؟

(v) Write the use of Simple Mail Transfer Protocol. — سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول (SMTP) کا استعمال لکھیں۔

(vi) URL stands for? — URL کس کا مخفف ہے؟

4. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4 — سوال نمبر4۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define hacking. — تخریب کاری کی تعریف کریں۔

(ii) Define Piracy. — پائریسی کی تعریف کریں۔

(iii) What is the use fo Anchor? — اینکر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟

(iv) What is the use of OL tag? — OL ٹیگ کا کیا استعمال ہے؟

(v) What do we come to know about any file extension? — کسی فائل کی ایکسٹینشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟

(vi) Write HTML code to set background color to green. — پیج کا بیک گراؤنڈ کا رنگ سبز کرنے کے لیے کوڈ لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 16 = 8 x 2 — نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. What is flowchart? Write a detailed note on determining requirements for a flowchart. 2 + 6 = 8 — 5۔ فلو چارٹ کیا ہے؟ فلو چارٹ کے لوازم کا تعین پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

6. Write note on any four layers of computer network models. 2 x 4 = 8 — 6۔ کمپیوٹر نیٹ ورک ماڈلز کی کوئی سی چار لیئرز پر نوٹ لکھیں۔

7. What is relation between cryptographic key and password. Write four characteristics of good password. 4 + 4 = 8 — 7۔ کرپٹوگرافک کی اور پاس ورڈ میں کیا تعلق ہے؟ اچھے پاس ورڈ کی چار خصوصیات تحریر کریں۔

39(N)-2022(A)-17000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1832

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 141

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-II کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) How many ws are identified in the understanding of a problem? ایک مسئلہ کی تقسیم میں ______ ws کی پہچان شامل ہوتی ہے۔ (1)

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

(2) ______ startegy divides a complex problem into smaller problems. ______ حکمت عملی پیچیدہ مسئلہ کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتی ہے۔ (2)

(A) Divide and conquer تقسیم کرو اور فتح کرو (B) Guess اندازہ (C) Act it Out ایکٹ اِٹ آؤٹ (D) Prototype نمونہ

(3) At least ______ byte/bytes are required to store any information in a computer memory. کسی بھی انفارمیشن کو محفوظ کرنے کے لیے کم سے کم ______ بائٹ/بائٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ (3)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(4) In hexadecimal number system the binary value of "A" is: ہیگزاڈیسمل نمبر سسٹم میں "A" کی ثنائی قیمت ______ ہے۔ (4)

(A) 0011 (B) 0110 (C) 1010 (D) 0010

(5) The binary value of $(13)_{10}$ is: $(13)_{10}$ کی بائنری ویلیو ______ ہے۔ (5)

(A) 1001 (B) 1101 (C) 1011 (D) 1000

(6) IPv4 Address is divided into ______ parts. IPv4 ایڈریس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ (6)

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2

(7) The symbol of copyright is: کاپی رائٹ کی علامت ہے۔ (7)

(A) Ⓡ (B) $ (C) © (D) &

(8) In Caeser Cipher method the plain text "ELSE" whold be encrypted into the Cipher text. سیزر سائیفر طریقے کے تین ہندسے دائیں متبادل کے تحت سادہ عبارت "ELSE" خفیہ کاری کی صورت میں ______ میں تبدیل ہو جائے گا۔ (8)

(A) HVOH (B) HHVO (C) HOVH (D) VOHH

(9) The ______ element is a container for meta data (Data about data). اپنے اندر میٹا ڈیٹا رکھتا ہے۔ (9)

(A) <body> (B) <Head> (C) <title> (D) <html>

(10) The html code "< u > school < /u >" output is: "< u > school < /u >" html کوڈ کی آؤٹ پٹ ہے۔ (10)

(A) School (B) $\overline{\text{School}}$ (C) School (D) ~~School~~

39(N)(Obj)(☆)-2022(A)-17000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1834

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-II کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The binary value of $(13)_{10}$ is: $(13)_{10}$ کی بائنری ویلیو ______ ہے۔ (1)

(A) 1001 (B) 1101 (C) 1011 (D) 1000

(2) IPv4 Address is divided into ______ parts. IPv4 ایڈریس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ (2)

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2

(3) The symbol of copyright is: کاپی رائٹ کی علامت ہے۔ (3)

(A) Ⓡ (B) $ (C) Ⓒ (D) &

(4) In Caeser Cipher method the plain text "ELSE" whold be encrypted into the Cipher text. سیزر سائیفر طریقے کے تین ہندسے دائیں متبادل کے تحت سادہ عبارت "ELSE" خفیہ کاری کی صورت میں ______ میں تبدیل ہو جائے گا۔ (4)

(A) HVOH (B) HHVO (C) HOVH (D) VOHH

(5) The ______ element is a container for meta data (Data about data). اپنے اندر میٹا ڈیٹا رکھتا ہے۔ (5)

(A) <body> (B) <Head> (C) <title> (D) <html>

(6) The html code "< u > school < /u >" output is: "< u > school < /u >" html کوڈ کی آؤٹ پٹ ہے۔ (6)

(A) School (B) School (C) School (D) ~~School~~

(7) How many ws are identified in the understanding of a problem? ایک مسئلہ کی تقسیم میں ______ ws کی پہچان شامل ہوتی ہے۔ (7)

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

(8) ______ startegy divides a complex problem into smaller problems. ______ حکمت عملی پیچیدہ مسئلہ کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتی ہے۔ (8)

(A) Divide and conquer تقسیم کرو اور فتح کرو (B) Guess اندازہ (C) Act it Out ایکٹ اِٹ آؤٹ (D) Prototype نمونہ

(9) At least ______ byte/bytes are required to store any information in a computer memory. کسی بھی انفارمیشن کو محفوظ کرنے کے لیے کم سے کم ______ بائٹ/بائٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ (9)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(10) In hexadecimal number system the binary value of "A" is: ہیگزاڈیسیمل نمبر سسٹم میں "A" کی ثنائی قیمت ______ ہے۔ (10)

(A) 0011 (B) 0110 (C) 1010 (D) 0010

39(N)(Obj)(☆☆)-2022(A)-17000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1836

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-II کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The symbol of copyright is: کاپی رائٹ کی علامت ہے۔ (1)

(A) Ⓡ (B) $ (C) © (D) &

(2) In Caeser Cipher method the plain text "ELSE" whold be encrypted into the Cipher text. سیزر سائیفر طریقے کے تین ہندسے دائیں متبادل کے تحت سادہ عبارت "ELSE" خفیہ کاری کی صورت میں ______ میں تبدیل ہو جائے گا۔ (2)

(A) HVOH (B) HHVO (C) HOVH (D) VOHH

(3) The ______ element is a container for meta data (Data about data). ______ اپنے اندر میٹا ڈیٹا رکھتا ہے۔ (3)

(A) <body> (B) <Head> (C) <title> (D) <html>

(4) The html code "< u > school < /u >" output is: "< u > school < /u >" html کوڈ کی آؤٹ پٹ ہے۔ (4)

(A) School (B) $\overline{\text{School}}$ (C) $\underline{\text{School}}$ (D) ~~School~~

(5) How many ws are identified in the understanding of a problem? ایک مسئلہ کی تفہیم میں ______ ws کی پہچان شامل ہوتی ہے۔ (5)

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

(6) ______ startegy divides a complex problem into smaller problems. ______ حکمت عملی پیچیدہ مسئلہ کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتی ہے۔ (6)

(A) Divide and conquer تقسیم کرو اور فتح کرو (B) Guess اندازہ (C) Act it Out ایکٹ اِٹ آؤٹ (D) Prototype نمونہ

(7) At least ______ byte/bytes are required to store any information in a computer memory. کسی بھی انفارمیشن کو محفوظ کرنے کے لیے کم سے کم ______ بائٹ/بائٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ (7)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(8) In hexadecimal number system the binary value of "A" is: ہیگزاڈیسمل نمبر سسٹم میں "A" کی ثنائی قیمت ______ ہے۔ (8)

(A) 0011 (B) 0110 (C) 1010 (D) 0010

(9) The binary value of $(13)_{10}$ is: $(13)_{10}$ کی بائنری ویلیو ______ ہے۔ (9)

(A) 1001 (B) 1101 (C) 1011 (D) 1000

(10) IPv4 Address is divided into ______ parts. IPv4 ایڈریس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ (10)

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2

39(N)(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-17000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1838

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

COMPUTER SCIENCE (NEW COURSE) GROUP-II کمپیوٹر سائنس (نیا نصاب) گروپ - دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The _______ element is a container for meta data (Data about data). اپنے اندر میٹا ڈیٹا رکھتا ہے۔ (1)

(A) <body> (B) <Head> (C) <title> (D) <html>

(2) The html code "< u > school < /u >" output is: "< u > school < /u >" html کوڈ کی آؤٹ پٹ ہے۔ (2)

(A) School (B) School (C) School (D) ~~School~~

(3) How many ws are identified in the understanding of a problem? ایک مسئلہ کی تقسیم میں ______ ws کی پہچان شامل ہوتی ہے۔ (3)

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

(4) ______ startegy divides a complex problem into smaller problems. ______ حکمت عملی پیچیدہ مسئلہ کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتی ہے۔ (4)

(A) Divide and conquer تقسیم کرو اور فتح کرو (B) Guess اندازہ (C) Act it Out ایکٹ اِٹ آؤٹ (D) Prototype نمونہ

(5) At least ______ byte/bytes are required to store any information in a computer memory. کسی بھی انفارمیشن کو محفوظ کرنے کے لیے کم سے کم ______ بائٹ/بائٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ (5)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(6) In hexadecimal number system the binary value of "A" is: ہیگزاڈیسیمل نمبر سسٹم میں "A" کی ثنائی قیمت ______ ہے۔ (6)

(A) 0011 (B) 0110 (C) 1010 (D) 0010

(7) The binary value of $(13)_{10}$ is: $(13)_{10}$ کی بائنری ویلیو ______ ہے۔ (7)

(A) 1001 (B) 1101 (C) 1011 (D) 1000

(8) IPv4 Address is divided into _______ parts. IPv4 ایڈریس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ (8)

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2

(9) The symbol of copyright is: کاپی رائٹ کی علامت ہے۔ (9)

(A) Ⓡ (B) $ (C) Ⓒ (D) &

(10) In Caeser Cipher method the plain text "ELSE" whold be encrypted into the Cipher text. سیزر سائیفر طریقے کے تین ہندسے دائیں متبادل کے تحت سادہ عبارت "ELSE" خفیہ کاری کی صورت میں ______ میں تبدیل ہو جائے گا۔ (10)

(A) HVOH (B) HHVO (C) HOVH (D) VOHH

39(N)(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-17000 **(MULTAN)**

200

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: D.M&F.D Session: 2021 – 22.

Q.Nos	Paper Code 1281	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	B			
2	C			
3	A			
4	C			
5	B			
6	A			
7	B			
8	A			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون D.M&F. Designing پرچہ D.M&F.D گروپ فرسٹ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated: 28-05-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Nabila Kouser	SST	Govt Girls Junior Model	03006681448	[signature]
2	Rashida Tahir	SST	Govt Girls Junior Model		
3	Naseem malik	SST	Govt Girls Junior Model		
4			high school.	03077435618	Naseem Akhtar Malik

2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

رول نمبر ____

DRESS MAKING AND FASHION DESIGNING

ڈریس میکنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ

TIME ALLOWED: 1.20 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.20 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 32 کل نمبر = 32

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What role does clothing play in our social life? — لباس ہماری سماجی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟

(ii) Today's era is about what? — آج کا دور کس چیز کا دور ہے؟

(iii) What steps are taken after putting oil in the machine? — مشین میں تیل ڈالنے کے بعد کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟

(iv) Describe the measurement of a sewing machine's outpost. — سلائی کی چوکی کی پیمائش بیان کریں۔

(v) Define contrast complementary. — "مقابل کا امتزاج" کی تعریف کریں۔

(vi) What two colors are used to make secondary colors? — ثانوی رنگ کن دو رنگوں کی آمیزش سے بنتے ہیں؟

(vii) How is the measurements taken from neck to waist? — گدی سے کمر تک کا ناپ کیسے لیا جاتا ہے؟

(viii) What is the use of foot lifts? — پیر اٹھانے والے پرزے سے کیا کام لیا جاتا ہے؟

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What to do if you do not understand the fault of the sewing machine? — اگر سلائی مشین کا نقص سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟

(ii) Write the names of the parts of sewing machine. — سلائی مشین کے پرزوں کے نام لکھیں۔

(iii) What is meant by Texture? — ٹیکسچر سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is the method of making tertiary color? — دہرے ثانوی رنگ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟

(v) What is meant by Standard measure? — معیاری ناپ سے کیا مراد ہے؟

(vi) The outline of the basic pattern consists of how many parts and what is it called? — بنیادی پیٹرن کا خاکہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کیا کہلاتا ہے؟

(vii) What are the primary colors and how many are there? — بنیادی رنگ کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں؟

(viii) What is considered when planning a dress? — لباس کی منصوبہ بندی کے وقت کس چیز کو مدنظر رکھا جاتا ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 12 = 6 x 2

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Describe the basic design features. — بنیادی ڈیزائن کی خصوصیات بیان کریں۔

5. How many types of personalities are there? What kind of person do you think you are? — شخصیات کی کتنی اقسام ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کون سی شخصیت سمجھتے ہیں؟

6. If the machine does not need to be used for a long time, how to save it? — اگر مشین کو زیادہ عرصہ استعمال نہ کرنا ہو تو اس کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

101-2022(A)-40 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1281	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر 707

DRESS MAKING AND FASHION DESIGNING ڈریس میکنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ

TIME ALLOWED: 10 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 10 منٹ

MAXIMUM MARKS: 08 کل نمبر = 08

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Clothing and fashion designing is a _______ subject. لباس اور فیشن ڈیزائننگ ایک _______ مضمون ہے۔ (1)

(A) Public عوامی (B) Technical تکنیکی (C) Principles اصولی (D) Contact رابطی

(2) Exercising one's creativity keeps _______ a person satisfied: اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال انسان کو _______ طور پر مطمئن رکھتا ہے۔ (2)

(A) Physically and emotionally جسمانی اور جذباتی (B) Only emotionally صرف جذباتی

(C) Psychologically and Mentally نفسیاتی اور ذہنی (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(3) If no ______ is given, the machine starts to run heavy. ______ نہ دینے کی صورت میں مشین بھاری چلنے لگتی ہے۔ (3)

(A) Oil تیل (B) Grease گریس (C) Diesel ڈیزل (D) All of these یہ تمام

(4) Colors are the reflection of our __________ . رنگ ہمارے _______ کے عکاس ہوتے ہیں۔ (4)

(A) Emotions جذبات (B) Thinking خیالات (C) Anger غصّے (D) Dominance رعب

(5) ______ is needed from repairing of clothes to making of garments. ______ کی کپڑوں کی مرمت سے لے کر لباس کی تیاری تک ضرورت پڑتی ہے۔ (5)

(A) Measuring tape فیتے (B) Sewing machine سلائی مشین (C) Pincushion پن کشن (D) Pattern پیٹرن

(6) The diagonal neck bandage should be _____ wide. گلے کی ترچھی پٹی کی چوڑائی _______ سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ (6)

(A) 2.5 cm (B) 3.5 cm (C) 4.5 cm (D) 5.5 cm

(7) Primary colors are: بنیادی رنگ _______ ہوتے ہیں۔ (7)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(8) The teeth that come out of the holes under the needle are called: سوئی کے نیچے سوراخوں سے نکلے دندانوں کو _______ کہتے ہیں۔ (8)

(A) Feed Dog فیڈ ڈاگ (B) Feed Cat فیڈ کیٹ (C) Pressure Foot پریشرفٹ (D) Bobbin بابن

101(Obj)-2022(A)-40 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

184

9th A/22

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: Economics Session: 2020-2022

notespk.com

Q.Nos	Paper Code 1111	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	A			
2	C			
3	B			
4	C			
5	A			
6	C			
7	A			
8	C			
9	B			
10	C			
11	B			
12	C			
13	B			
14	C			
15	C			
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون معاشیات پرچہ I گروپ ---- میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینر ز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 04-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	AURANG ZAIB	SS	GHSS Kot Mela Ram MTN	03006329203	[signature]
2					
3					
4					

2022 (A) رول نمبر ________

SSC PART-I (9th CLASS)

ECONOMICS معاشیات

TIME ALLOWED: 2.10 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the definition of Economics by Robbins? رابنز نے معاشیات کی کیا تعریف کی ہے؟

(ii) What is meant by Macro Economics? کلیاتی معاشیات سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by accessories of material prosperity? مادی خوشحالی کے لوازمات سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is meant by Consumption of Wealth? صَرف دولت سے کیا مراد ہے؟

(v) Write two characteristics of Wants. حاجات کی دو خصوصیات بیان کریں۔

(vi) What is meant by Non-Economic Wants? غیر معاشی حاجات سے کیا مراد ہے؟

(vii) Describe the kinds of Struggle. جدوجہد کی اقسام بیان کریں۔

(viii) What is meant by Services? خدمات سے کیا مراد ہے؟

(ix) What is meant by Marginal Utility? مختتم افادہ سے کیا مراد ہے؟

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two conditions of Demand. طلب کی دو شرائط بیان کریں۔

(ii) What is meant by Elasticity of Demand? طلب کی لچک سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by Giffen Goods? گفن اشیا سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is meant by Expectations? توقعات سے کیا مراد ہے؟

(v) Define the definition of Law of Supply. قانون رسد کی تعریف بیان کریں۔

(vi) Write down two assumptions of the Law of Supply. قانون رسد کے دو مفروضات بیان کریں۔

(vii) What is meant by Means of Transportation? ذرائع نقل و حمل سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is meant by Economic Equilibrium? معاشی توازن سے کیا مراد ہے؟

(ix) How is price and quantity determined in Market? منڈی میں قیمت اور مقدار کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by Perfect Market? مکمل منڈی سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is meant by Daily Market? یومیہ منڈی سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by Capital? سرمائے سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is meant by Perfect Knowledge about Market? منڈی کے حالات سے مکمل آگاہی سے کیا مراد ہے؟

(v) What is meant by large number of buyers and sellers? خریداروں اور فروختکاروں کی کثرت سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write down two causes of Poverty in Pakistan. پاکستان میں غربت کی دو وجوہات بیان کریں۔

(vii) What is meant by Low Per Capita Income? کم فی کس آمدنی سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is meant by Agricultural Backwardness? زرعی پسماندگی سے کیا مراد ہے؟

(ix) What is meant by Industrial Backwardness? صنعتی پسماندگی سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3 نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Describe the characteristics of Utility. افادہ کی خصوصیات بیان کریں۔

6. What are factors that affect the supply other than price? قیمت کے علاوہ اور کون سے عوامل رسد کو تبدیل کرتے ہیں؟

7. What is meant by Market? Write in detail on the kinds of Market. منڈی سے کیا مراد ہے؟ منڈی کی اقسام تفصیلاً بیان کیجیے۔

8. Explain Assumption of the Law of Demand. قانون طلب کے مفروضات کی وضاحت کیجیے۔

9. What is meant by Illiteracy? Write down the remedial measures of Illiteracy in Pakistan. ناخواندگی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں ناخواندگی کی اصلاح کے طریقے بیان کیجیے۔

67-2022(A)-500 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1111	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ________

185

ECONOMICS **OBJECTIVE** حصہ معروضی **معاشیات**

TIME ALLOWED: 20 Minutes وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چارممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 **سوال نمبر 1۔**

(1) Alfred Marshall wrote a book "Principles of Economics" in: الفرڈ مارشل نے " معاشیات کے اصول " کی کتاب لکھی۔
(A) 1890 AD ء میں (B) 1895 AD ء میں (C) 1898 AD ء میں (D) 1899 AD ء میں

(2) The basis of Economic problem of human beings is: انسان کے معاشی مسئلہ کی بنیاد ہے۔
(A) Needs ضروریات (B) Multiple ends بے شمار خواہشات (C) Multiple ends and scarce resources لاتعداد خواہشات اور محدود ذرائع (D) Home گھر

(3) Kinds of struggle are: جدوجہد کی اقسام ہیں۔
(A) Three تین (B) Two دو (C) Four چار (D) Five پانچ

(4) Economics goods are: معاشی اشیا ہوتی ہیں۔
(A) Free goods جو مفت مل جائیں (B) Scarce goods جو کم یاب ہو (C) Which have price جن کی قیمت ہو (D) Abundant in quantity جو زیادہ مقدار میں ہو

(5) When price of good falls then demand: جب شے کی قیمت گر جائے تو اس کی طلب:۔
(A) increases زیادہ ہوجاتی ہے (B) Decreases کم ہوتی ہے (C) Remains same یکساں رہتی ہے (D) Does not matter کچھ بھی نہیں ہوتا

(6) ________ is not an assumption of the Law of Demand. ________ قانون طلب کا مفروضہ نہیں۔
(A) Quantity of money زر کی مقدار (B) Future expectations مستقبل کی توقعات (C) Price of purchased good شے کی اپنی قیمت (D) Taste and fashion پسند اور فیشن

(7) If price of a good increases then supply: اگر شے کی قیمت بڑھتی ہے تو رسد:۔
(A) Increases زیادہ ہوتی ہے (B) Decreases کم ہوتی ہے (C) Remains same یکساں رہتی ہے (D) Becomes zero صفر ہوجاتی ہے

(8) _______ is not true. _______ درست نہیں ہے۔
(A) Supply is a part of stock رسد ذخیرہ کا حصہ ہوتی ہے (B) Supply curve has a positive slope خط رسد کا رجحان مثبت ہوتا ہے (C) Supply is a function of demand رسد طلب کا تفاعل ہے (D) Supply is a function of price رسد قیمت کا تفاعل ہے

(9) In market price and quantity is determined by: منڈی میں قیمت اور مقدار کا تعین ہوتا ہے۔
(A) Poverty غربت سے (B) Supply and demand طلب اور رسد سے (C) Unemployment بے روزگاری سے (D) Health صحت سے

(10) The intersection of demand and supply curve show: طلب اور رسد کے خطوط کا باہمی اشتراک بناتا ہے۔
(A) Equilibrium price شے کی توازنی قیمت (B) Equilibrium quantity شے کی توازنی مقدار (C) Market equilibrium منڈی میں توازن (D) All of these یہ تمام

(11) _______ is not a characteristic of a perfect market. مکمل منڈی کی خصوصیت نہیں ہے۔
(A) Large number of buyers and sellers خریداروں اور فروخت کاروں کی کثیر تعداد (B) Single seller واحد فروخت کار (C) Homogeneity of product شے کی یکسانیت (D) Free entry and exist آزادانہ داخلہ اور اخراج

(12) Supply curve in daily market is: یومیہ منڈی میں خط رسد ہوتا ہے۔
(A) More elastic زیادہ لچکدار (B) Less elastic کم لچکدار (C) Non elastic غیر لچکدار (D) Equal elastic برابر لچکدار

(13) The major Economic problem in Pakistan is: پاکستان میں سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہے۔
(A) Education تعلیم (B) Poverty غربت (C) Health صحت (D) Illiteracy ناخواندگی

(14) The Economist ______ gave three characteristics of land. ماہر معاشیات ______ نے زمین کی تین خصوصیات بتائیں۔
(A) Adam Smith ایڈم سمتھ (B) Marshall مارشل (C) David Ricardo ڈیوڈ ریکارڈو (D) Robins رابنز

(15) According to UNESCO, Education budget should be ______ percent of GNP. یونیسکو کے مطابق تعلیمی بجٹ GNP کا _______ فیصد ہونا چاہیے۔
(A) 02 (B) 05 (C) 04 (D) 10

67(Obj)-2022(A)-500 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

9th
A/22
217

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: Education Session: 9th

Q.Nos	Paper Code 1431	Paper Code 1433	Paper Code 1435	Paper Code 1437
1	A	B	C	B
2	B	B	B	C
3	C	D	D	B
4	B	C	A	D
5	D	A	B	A
6	A	C	B	B
7	B	D	D	B
8	B	C	C	D
9	D	D	A	C
10	C	A	C	A
11	A	B	D	C
12	C	C	C	D
13	D	B	D	C
14	C	D	A	D
15	D	A	B	A
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون __Education__ پرچہ __9th__ گروپ __NIL__ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated:__________

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Farhat Abbas	Sr.S.S(Edu)	QABD/GHSSS Rangeelpur Multan	0300 6324130	[signature]
2	ISRAR HUSSAIN	S.S. Edu	G.H.S.S. 105/15-L Vanyar	0304 9771919	[signature]
3					
4					

2022 (A)

رول نمبر ____________

SSC PART-I (9th CLASS)

218

EDUCATION — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — ایجوکیشن

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by In-Formal Education? — غیر رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is the general concept of Education? — تعلیم کا عمومی تصور کیا ہے؟

(iii) How are the Educational Objectives determined? — مقاصد تعلیم کیسے طے پاتے ہیں؟

(iv) What did Imam Ghazali(R.A) say about getting knowledge? — امام غزالیؒ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟

(v) What is materialistic view about the world? — دنیا کے بارے میں مادہ پرست نظریہ کیا ہے؟

(vi) What is the relation between Culture and Education of a country? — تعلیم کا ملک کی ثقافت سے کیا تعلق ہے؟

(vii) What are the Functions of Education? — تعلیم کے وظائف کون سے ہیں؟

(viii) What is Art? — آرٹ کیا ہے؟

(ix) What did John Devi say about social life? — جان ڈیوی نے معاشرتی زندگی کے بارے میں کیا کہا تھا؟

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How did man educate his new generation in early ages of mankind? — انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں انسان اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کیسے کرتا تھا؟

(ii) How is the knowledge of Education beneficial for a teacher? — علم التعلیم ایک استاد کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے؟

(iii) What is meant by early childhood? — طفولیت سے کیا مراد ہے؟

(iv) Write down two characteristics of linguistic development during adolescence. — بلوغت کے دوران لسانی نشوونما کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(v) Define Growth. — بالیدگی کی تعریف کریں۔

(vi) When does childhood period start and end? — بچپن کا دور کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟

(vii) Briefly describe Emotional Development in Infancy. — شیر خوارگی میں جذباتی نشوونما مختصراً بیان کیجیے۔

(viii) Describe effect of Emotions on learning. — جذبات کا تعلم پر اثر بیان کیجیے۔

(ix) What is meant by Individual differences? — انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے؟

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down three stages of Intelligence. — ذہانت کے تین درجات کے نام لکھیں۔

(ii) Write down two types of Social differences. — معاشرتی اختلافات کی دو اقسام لکھیں۔

(iii) What is the responsibility of Text Book Board? — ٹیکسٹ بک بورڈ کی کیا ذمہ داری ہے؟

(iv) Write the names of four individual differences of children. — بچوں کے چار انفرادی اختلافات کے نام لکھیں۔

(v) What is the function of Higher Education Commission? — ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا کیا کام ہے؟

(vi) Define Community. — کمیونٹی کی تعریف کریں۔

(vii) How can community help a family to improve its financial conditions? — کمیونٹی خاندان کے مالی حالات کو بہتر کرنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟

(viii) Describe the meaning of Learning. — تعلم کا مفہوم بیان کریں۔

(ix) Define Psychology. — نفسیات کی تعریف کریں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. What is meant by Formal, Non-Formal and In-Formal Education? Explain them. — 5۔ رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ان کی وضاحت کریں۔

6. "Education reconstructs culture". Explain it. — 6۔ ''تعلیم ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے'' وضاحت کریں۔

7. What is meant by development? Describe its different stages. — 7۔ نشوونما سے کیا مراد ہے؟ اس کے مختلف مدارج بیان کریں۔

8. State characteristics of Learning Process. Give an example of each characteristic. — 8۔ تعلم کے عمل کی خصوصیات بیان کیجیے۔ ہر خصوصیت کی ایک مثال دیں۔

9. What steps should be taken to improve relationship between school and community. — 9۔ سکول اور کمیونٹی کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہییں؟

55-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1431

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

219

EDUCATION — ایجوکیشن

OBJECTIVE حصہ معروضی

TIME ALLOWED: 20 Minutes — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The first center of education for a child is: — بچے کی تعلیم کا اولین مرکز:۔ (1)
(A) Home گھر (B) School سکول (C) Muhallah محلّہ (D) Masjid مسجد

(2) The main aim of education is: — تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ (2)
(A) Getting information معلومات کا حصول (B) Training of students طلبہ کی تربیت
(C) Getting a job ملازمت کا حصول (D) Personal satisfaction ذاتی تسکین

(3) Child tries to make his talk more reasonable: — بچہ اپنی باتوں کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ (3)
(A) In childhood لڑکپن میں (B) In adolescence بلوغت میں
(C) In early childhood بچپن میں (D) All development stages نشوونما کے تمام ادوار میں

(4) As a result of learning process in an individual develop: — تعلیم کے عمل کے نتیجے میں فرد میں:۔ (4)
(A) Many habits بہت سی عادات پیدا ہو جاتی ہیں (B) Characteristics changes کرداری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں
(C) Many emotions بہت سے جذبات رونما ہوتے ہیں (D) Ability to play economic role معاشی کردار ادا کرنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہے

(5) Home and school train a child: — گھر اور سکول بچے کی ______ تربیت کرتے ہیں۔ (5)
(A) Mentally ذہنی (B) Morally اخلاقی (C) Physically جسمانی (D) In all three ways تینوں طرح کی

(6) Before coming to earth Hazrat Adam(A.S) had got the: — حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے حاصل کر چکے تھے۔ (6)
(A) Knowledge علم (B) Religious knowledge دینی علم (C) Economic knowledge معاشی علم (D) Social knowledge معاشرتی علم

(7) A collection of human being is known as: — انسانوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ (7)
(A) Family خاندان (B) Society معاشرہ (C) State ریاست (D) Community کمیونٹی

(8) In ______ the pulse rate of the child becomes slow. — ______ میں بچے کی نبض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ (8)
(A) Adolescence بلوغت (B) Early childhood طفولیت (C) Childhood بچپن (D) Infancy شیرخوارگی

(9) Stages of intellectual differences are: — ذہانت کے اختلافات کے درجے ہیں۔ (9)
(A) Two دو (B) Five پانچ (C) Four چار (D) Three تین

(10) Punjab Education Foundation issues: — پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اجرا کرتی ہے۔ (10)
(A) Degrees اسناد (B) Books کتب (C) Scholarships وظائف (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(11) Education with determined aim in education institution is called: — طے شدہ تعلیمی مقاصد کے تحت تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا کہلاتا ہے۔ (11)
(A) Formal Education رسمی تعلیم (B) Non-Formal Education نیم رسمی تعلیم
(C) In-Formal Education غیررسمی تعلیم (D) Higher Education اعلیٰ تعلیم

(12) The subject of Education is taught at the level of: — علم التعلیم کا مضمون ______ سطح تک پڑھایا جاتا ہے۔ (12)
(A) B.A بی۔اے (B) M.A ایم۔اے (C) Ph.D پی ایچ ڈی (D) M.Phil ایم۔فل

(13) In early childhood _____ of the brain of child is completed. — طفولیت میں بچے کے دماغ کا ______ حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ (13)
(A) 60% (B) 70% (C) 80% (D) 90%

(14) MOASHARA is a word of: — معاشرہ " لفظ " ہے۔ (14)
(A) Urdu اُردو کا (B) Persian فارسی کا (C) Arabic عربی کا (D) Hindi ہندی کا

(15) Every child has _______ rate of development. — ہر بچے میں نشوونما کی رفتار ______ ہوتی ہے۔ (15)
(A) Same یکساں (B) Fast تیز (C) Slow سُست (D) Different مختلف

55(Obj)(☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1433 — 2022 (A) — رول نمبر ________

SSC PART-I (9th CLASS)

EDUCATION — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — ایجوکیشن

TIME ALLOWED: 20 Minutes — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) A collection of human being is known as: — انسانوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

(A) Family خاندان (B) Society معاشرہ (C) State ریاست (D) Community کمیونٹی

(2) In ______ the pulse rate of the child becomes slow. — ______ میں بچے کی نبض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔

(A) Adolescence بلوغت (B) Early childhood طفولیت (C) Childhood بچپن (D) Infancy شیر خوارگی

(3) Stages of intellectual differences are: — ذہانت کے اختلافات کے درجے ہیں۔

(A) Two دو (B) Five پانچ (C) Four چار (D) Three تین

(4) Punjab Education Foundation issues: — پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اجرا کرتی ہے۔

(A) Degrees اسناد (B) Books کتب (C) Scholarships وظائف (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(5) Education with determined aim in education institution is called: — طے شدہ تعلیمی مقاصد کے تحت تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا کہلاتا ہے۔

(A) Formal Education رسمی تعلیم (B) Non-Formal Education نیم رسمی تعلیم

(C) In-Formal Education غیر رسمی تعلیم (D) Higher Education اعلیٰ تعلیم

(6) The subject of Education is taught at the level of: — علم التعلیم کا مضمون ______ سطح تک پڑھایا جاتا ہے۔

(A) B.A بی۔اے (B) M.A ایم۔اے (C) Ph.D پی ایچ ڈی (D) M.Phil ایم۔فل

(7) In early childhood ______ of the brain of child is completed. — طفولیت میں بچے کے دماغ کا ______ حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔

(A) 60% (B) 70% (C) 80% (D) 90%

(8) MOASHARA is a word of: — معاشرہ " لفظ " ہے۔

(A) Urdu اُردو کا (B) Persian فارسی کا (C) Arabic عربی کا (D) Hindi ہندی کا

(9) Every child has ______ rate of development. — ہر بچے میں نشوونما کی رفتار ______ ہوتی ہے۔

(A) Same یکساں (B) Fast تیز (C) Slow سُست (D) Different مختلف

(10) The first center of education for a child is: — بچے کی تعلیم کا اولین مرکز:۔

(A) Home گھر (B) School سکول (C) Muhallah محلّہ (D) Masjid مسجد

(11) The main aim of education is: — تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔

(A) Getting information معلومات کا حصول (B) Training of students طلبہ کی تربیت

(C) Getting a job ملازمت کا حصول (D) Personal satisfaction ذاتی تسکین

(12) Child tries to make his talk more reasonable: — بچہ اپنی باتوں کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔

(A) In childhood لڑکپن میں (B) In adolescence بلوغت میں

(C) In early childhood بچپن میں (D) All development stages نشوونما کے تمام ادوار میں

(13) As a result of learning process in an individual develop: — تعلیم کے عمل کے نتیجے میں فرد میں:۔

(A) Many habits بہت سی عادات پیدا ہو جاتی ہیں (B) Characteristics changes کرداری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں

(C) Many emotions بہت سے جذبات رونما ہوتے ہیں (D) Ability to play economic role معاشی کردار ادا کرنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہے

(14) Home and school train a child: — گھر اور سکول بچے کی ______ تربیت کرتے ہیں۔

(A) Mentally ذہنی (B) Morally اخلاقی (C) Physically جسمانی (D) In all three ways تینوں طرح کی

(15) Before coming to earth Hazrat Adam(A.S) had got the: — حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے حاصل کر چکے تھے۔

(A) Knowledge علم (B) Religious knowledge دینی علم (C) Economic knowledge معاشی علم (D) Social knowledge معاشرتی علم

55(Obj)(☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1435

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

221

EDUCATION **OBJECTIVE** حصہ معروضی ایجوکیشن

TIME ALLOWED: 20 Minutes وقت = 20 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D ،C ،B ،A دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 **سوال نمبر 1۔**

(1) Child tries to make his talk more reasonable: بچہ اپنی باتوں کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ (1)

(A) In childhood لڑکپن میں (B) In adolescence بلوغت میں
(C) In early childhood بچپن میں (D) All development stages نشوونما کے تمام ادوار میں

(2) As a result of learning process in an individual develop: تعلیم کے عمل کے نتیجے میں فرد میں:۔ (2)

(A) Many habits بہت سی عادات پیدا ہو جاتی ہیں (B) Characteristics changes کرداری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں
(C) Many emotions بہت سے جذبات رونما ہوتے ہیں (D) Ability to play economic role معاشی کردار ادا کرنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہے

(3) Home and school train a child: گھر اور سکول بچے کی ______ تربیت کرتے ہیں۔ (3)

(A) Mentally ذہنی (B) Morally اخلاقی (C) Physically جسمانی (D) In all three ways تینوں طرح کی

(4) Before coming to earth Hazrat Adam(A.S) had got the: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے حاصل کر چکے تھے۔ (4)

(A) Knowledge علم (B) Religious knowledge دینی علم (C) Economic knowledge معاشی علم (D) Social knowledge معاشرتی علم

(5) A collection of human being is known as: انسانوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ (5)

(A) Family خاندان (B) Society معاشرہ (C) State ریاست (D) Community کمیونٹی

(6) In ______ the pulse rate of the child becomes slow. ______ میں بچے کی نبض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ (6)

(A) Adolescence بلوغت (B) Early childhood طفولیت (C) Childhood بچپن (D) Infancy شیرخوارگی

(7) Stages of intellectual differences are: ذہانت کے اختلافات کے درجے ہیں۔ (7)

(A) Two دو (B) Five پانچ (C) Four چار (D) Three تین

(8) Punjab Education Foundation issues: پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اجرا کرتی ہے۔ (8)

(A) Degrees اسناد (B) Books کتب (C) Scholarships وظائف (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(9) Education with determined aim in education institution is called: طے شدہ تعلیمی مقاصد کے تحت تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا کہلاتا ہے۔ (9)

(A) Formal Education رسمی تعلیم (B) Non-Formal Education نیم رسمی تعلیم
(C) In-Formal Education غیر رسمی تعلیم (D) Higher Education اعلیٰ تعلیم

(10) The subject of Education is taught at the level of: علم التعلیم کا مضمون ______ سطح تک پڑھایا جاتا ہے۔ (10)

(A) B.A بی۔اے (B) M.A ایم۔اے (C) Ph.D پی ایچ ڈی (D) M.Phil ایم۔فل

(11) In early childhood _____ of the brain of child is completed. طفولیت میں بچے کے دماغ کا ______ حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ (11)

(A) 60% (B) 70% (C) 80% (D) 90%

(12) MOASHARA is a word of: معاشرہ '' لفظ '' ہے۔ (12)

(A) Urdu اُردو کا (B) Persian فارسی کا (C) Arabic عربی کا (D) Hindi ہندی کا

(13) Every child has _______ rate of development. ہر بچے میں نشوونما کی رفتار ______ ہوتی ہے۔ (13)

(A) Same یکساں (B) Fast تیز (C) Slow سُست (D) Different مختلف

(14) The first center of education for a child is: بچے کی تعلیم کا اولین مرکز:۔ (14)

(A) Home گھر (B) School سکول (C) Muhallah محلّہ (D) Masjid مسجد

(15) The main aim of education is: تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ (15)

(A) Getting information معلومات کا حصول (B) Training of students طلبہ کی تربیت
(C) Getting a job ملازمت کا حصول (D) Personal satisfaction ذاتی تسکین

55(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1437

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر __________

EDUCATION | **OBJECTIVE** حصہ معروضی | ایجوکیشن

TIME ALLOWED: 20 Minutes — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The main aim of education is: — تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔
- (A) Getting information معلومات کا حصول
- (B) Training of students طلبہ کی تربیت
- (C) Getting a job ملازمت کا حصول
- (D) Personal satisfaction ذاتی تسکین

(2) Child tries to make his talk more reasonable: — بچہ اپنی باتوں کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔
- (A) In childhood لڑکپن میں
- (B) In adolescence بلوغت میں
- (C) In early childhood بچپن میں
- (D) All development stages نشوونما کے تمام ادوار میں

(3) As a result of learning process in an individual develop: — تعلیم کے عمل کے نتیجے میں فرد میں:۔
- (A) Many habits بہت سی عادات پیدا ہو جاتی ہیں
- (B) Characteristics changes کرداری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں
- (C) Many emotions بہت سے جذبات رونما ہوتے ہیں
- (D) Ability to play economic role معاشی کردار ادا کرنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہے

(4) Home and school train a child: — گھر اور سکول بچے کی ______ تربیت کرتے ہیں۔
- (A) Mentally ذہنی
- (B) Morally اخلاقی
- (C) Physically جسمانی
- (D) In all three ways تینوں طرح کی

(5) Before coming to earth Hazrat Adam(A.S) had got the: — حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے حاصل کر چکے تھے۔
- (A) Knowledge علم
- (B) Religious knowledge دینی علم
- (C) Economic knowledge معاشی علم
- (D) Social knowledge معاشرتی علم

(6) A collection of human being is known as: — انسانوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔
- (A) Family خاندان
- (B) Society معاشرہ
- (C) State ریاست
- (D) Community کمیونٹی

(7) In ______ the pulse rate of the child becomes slow. — ______ میں بچے کی نبض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔
- (A) Adolescence بلوغت
- (B) Early childhood طفولیت
- (C) Childhood بچپن
- (D) Infancy شیر خوارگی

(8) Stages of intellectual differences are: — ذہانت کے اختلافات کے درجے ہیں۔
- (A) Two دو
- (B) Five پانچ
- (C) Four چار
- (D) Three تین

(9) Punjab Education Foundation issues: — پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اجرا کرتی ہے۔
- (A) Degrees اسناد
- (B) Books کتب
- (C) Scholarships وظائف
- (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(10) Education with determined aim in education institution is called: — طے شدہ تعلیمی مقاصد کے تحت تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا کہلاتا ہے۔
- (A) Formal Education رسمی تعلیم
- (B) Non-Formal Education نیم رسمی تعلیم
- (C) In-Formal Education غیر رسمی تعلیم
- (D) Higher Education اعلیٰ تعلیم

(11) The subject of Education is taught at the level of: — علم التعلیم کا مضمون ______ سطح تک پڑھایا جاتا ہے۔
- (A) B.A بی۔اے
- (B) M.A ایم۔اے
- (C) Ph.D پی ایچ ڈی
- (D) M.Phil ایم۔فل

(12) In early childhood _____ of the brain of child is completed. — طفولیت میں بچے کے دماغ کا ______ حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔
- (A) 60%
- (B) 70%
- (C) 80%
- (D) 90%

(13) MOASHARA is a word of: — معاشرہ " لفظ " ہے۔
- (A) Urdu اُردو کا
- (B) Persian فارسی کا
- (C) Arabic عربی کا
- (D) Hindi ہندی کا

(14) Every child has _______ rate of development. — ہر بچے میں نشوونما کی رفتار ______ ہوتی ہے۔
- (A) Same یکساں
- (B) Fast تیز
- (C) Slow سُست
- (D) Different مختلف

(15) The first center of education for a child is: — بچے کی تعلیم کا اولین مرکز:۔
- (A) Home گھر
- (B) School سکول
- (C) Muhallah محلّہ
- (D) Masjid مسجد

55(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: Electrical Wiring Session:

Q.Nos	Paper Code 1301	Paper Code 1303	Paper Code 1305	Paper Code 1307
1	B	A	B	B
2	D	B	B	B
3	B	B	B	D
4	C	B	D	B
5	A, B	D	B	C
6	A	B	C	A, B
7	B	C	A, B	A
8	B	A, B	A	B
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون الیکٹریکل وائرنگ ---------پرچہ معروضی---------گروپ --------- میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 28-05-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	محمد حنیف اقبال	ایس ایس ٹی	G. Pilot Sec School Multan	0305-8174298	[signature]
2	محمد یوسف	S.S.T	Govt. Jame-ul-Aloom H/S Multan New	0304-7305036	[signature]
3					
4					

2022 (A)

رول نمبر ________ 193

SSC PART-I (9th CLASS)

ELECTRICAL WIRING — الیکٹریکل وائرنگ

TIME ALLOWED: 1.20 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 1.20 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 32 — کل نمبر = 32

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 — سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write the methods to produce Electricity. — بجلی پیدا کرنے کے طریقے تحریر کریں۔

(ii) What is meant by Ion? — آئن سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by Alternating Current? — اے سی برقی رو سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define Flux Density. — کثافت نفاذ کی تعریف کریں۔

(v) Define Electromagnet. — برقی مقناطیس کی تعریف کریں۔

(vi) Define Compound Circuit. — کمپاؤنڈ سرکٹ کی تعریف کریں۔

(vii) Define mass and write its notation. — کمیت کی تعریف کریں اور اس کی علامت لکھیں۔

(viii) Define Watt. — واٹ کی تعریف کریں۔

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 — سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is Cell? — سیل کیا ہے؟

(ii) Define Secondary Cell. — سیکنڈری سیل کی تعریف کریں۔

(iii) What is the benefit of Moving Coil System? — موونگ کوائل سسٹم کا فائدہ تحریر کریں۔

(iv) Define Intermediate Switch. — انٹرمیڈیٹ سوئچ کی تعریف کریں۔

(v) Write the uses of Fuse. — فیوز کے استعمالات تحریر کریں۔

(vi) On which principle does an Electric lamp work? — برقی لیمپ کس اصول پر کام کرتا ہے؟

(vii) What is the use of Electric Drill? — برقی برما مشین کس کام آتی ہے؟

(viii) Write about use of Electric soldering iron. — برقی کاویہ کے استعمال کے متعلق لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 12 = 6 x 2 — نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Define Parallel Circuit and also explain its characteristics. — ۔4 متوازی سرکٹ کی تعریف کریں اور اس کی خصوصیات بیان کریں۔

5. Write a note on charging and discharging of lead acid battery. — ۔5 لیڈ ایسڈ بیٹری کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ پر نوٹ لکھیں۔

6. Write the names of types of wiring and write a note on conduit wiring. — ۔6 وائرنگ کی اقسام کے نام لکھیں اور کنڈیوٹ وائرنگ پر نوٹ لکھیں۔

59-2022(A)-1000 **(MULTAN)**

Page 93 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

PAPER CODE NUMBER: **1301**	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ______

ELECTRICAL WIRING الیکٹریکل وائرنگ

TIME ALLOWED: 10 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 10 منٹ

MAXIMUM MARKS: 8 کل نمبر = 8

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Example of insulator is: انسولیٹر کی مثال ہے۔ (1)

(A) Aluminium ایلومینیم (B) Mica پورسلین (C) Copper تانبا (D) Gold سونا

(2) The unit of resistance is: مزاحمت کی اکائی ہے۔ (2)

(A) Volt وولٹ (B) Watt واٹ (C) Joule جول (D) Ohm اوہم

(3) The number of properties of series circuit is: سیریز سرکٹ کی خصوصیات کی تعداد ہے۔ (3)

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 3

(4) The rate of work in Electrical circuit is: الیکٹریکل سرکٹ میں کام کرنے کی شرح کو کہتے ہیں۔ (4)

(A) Power طاقت (B) Energy توانائی (C) Electrical power برقی طاقت (D) Force قوت

(5) In secondary cell, the electrolyte is: سیکنڈری سیل میں الیکٹرولائٹ ہوتا ہے۔ (5)

(A) Open کھلا (B) Sealed مہربند (C) Stored ذخیرہ (D) Lead acid لیڈ ایسڈ

(6) The number of major types of measuring system are: پیمائشی آلات کی بڑی قسموں کی تعداد ہے۔ (6)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(7) Plug is also named: پلگ کو پکارا جاسکتا ہے۔ (7)

(A) Circuit سرکٹ (B) Shoe شو (C) Switch سوئچ (D) Fuse فیوز

(8) Switch and fuse are always plugged with: سوئچ اور فیوز ہمیشہ لگائے جاتے ہیں۔ (8)

(A) Negative wire منفی تار سے (B) Positive wrie مثبت تار سے

(C) Neutral wire نیوٹرل تار سے (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

59(Obj)(☆)-2022(A)-1000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1307	2022 (A) **SSC PART-I (9th CLASS)**	رول نمبر ____________

ELECTRICAL WIRING — الیکٹریکل وائرنگ

TIME ALLOWED: 10 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 10 منٹ

MAXIMUM MARKS: 8 — کل نمبر = 8

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Switch and fuse are always plugged with: — سوئچ اور فیوز ہمیشہ لگائے جاتے ہیں۔ (1)

(A) Negative wire منفی تار سے (B) Positive wrie مثبت تار سے

(C) Neutral wire نیوٹرل تار سے (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(2) Example of insulator is: — انسولیٹر کی مثال ہے۔ (2)

(A) Aluminium ایلومینیم (B) Mica پورسلین (C) Copper تانبا (D) Gold سونا

(3) The unit of resistance is: — مزاحمت کی اکائی ہے۔ (3)

(A) Volt وولٹ (B) Watt واٹ (C) Joule جول (D) Ohm اوہم

(4) The number of properties of series circuit is: — سیریز سرکٹ کی خصوصیات کی تعداد ہے۔ (4)

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 3

(5) The rate of work in Electrical circuit is: — الیکٹریکل سرکٹ میں کام کرنے کی شرح کو کہتے ہیں۔ (5)

(A) Power طاقت (B) Energy توانائی (C) Electrical power برقی طاقت (D) Force قوت

(6) In secondary cell, the electrolyte is: — سیکنڈری سیل میں الیکٹرولائٹ ہوتا ہے۔ (6)

(A) Open کھلا (B) Sealed مہربند (C) Stored ذخیرہ (D) Lead acid لیڈ ایسڈ

(7) The number of major types of measuring system are: — پیمائشی آلات کی بڑی قسموں کی تعداد ہے۔ (7)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(8) Plug is also named: — پلگ کو پکارا جاسکتا ہے۔ (8)

(A) Circuit سرکٹ (B) Shoe شو (C) Switch سوئچ (D) Fuse فیوز

59(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-1000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1303

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______ 196

ELECTRICAL WIRING الیکٹریکل وائرنگ

notespk.com

TIME ALLOWED: 10 Minutes — وقت = 10 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 8 — کل نمبر = 8

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The number of major types of measuring system are: — پیمائشی آلات کی بڑی قسموں کی تعداد ہے۔ (1)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(2) Plug is also named: — پلگ کو پکارا جا سکتا ہے۔ (2)

(A) Circuit سرکٹ (B) Shoe شو (C) Switch سوئچ (D) Fuse فیوز

(3) Switch and fuse are always plugged with: — سوئچ اور فیوز ہمیشہ لگائے جاتے ہیں۔ (3)

(A) Negative wire منفی تار سے (B) Positive wrie مثبت تار سے

(C) Neutral wire نیوٹرل تار سے (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(4) Example of insulator is: — انسولیٹر کی مثال ہے۔ (4)

(A) Aluminium ایلومینیم (B) Mica پورسلین (C) Copper تانبا (D) Gold سونا

(5) The unit of resistance is: — مزاحمت کی اکائی ہے۔ (5)

(A) Volt وولٹ (B) Watt واٹ (C) Joule جول (D) Ohm اوہم

(6) The number of properties of series circuit is: — سیریز سرکٹ کی خصوصیات کی تعداد ہے۔ (6)

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 3

(7) The rate of work in Electrical circuit is: — الیکٹریکل سرکٹ میں کام کرنے کی شرح کو کہتے ہیں۔ (7)

(A) Power طاقت (B) Energy توانائی (C) Electrical power برقی طاقت (D) Force قوت

(8) In secondary cell, the electrolyte is: — سیکنڈری سیل میں الیکٹرولائٹ ہوتا ہے۔ (8)

(A) Open کھلا (B) Sealed مہربند (C) Stored ذخیرہ (D) Lead acid لیڈ ایسڈ

59(Obj)(☆☆)-2022(A)-1000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION MULTAN

203

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION 2022.

Name of Subject: HCO Session: 9th A/22

Q.Nos	Paper Code 1211	Paper Code 1213	Paper Code 1215	Paper Code 1217
1	B	C	B	C
2	A	D	D	A
3	A	C	B	C
4	C	D	D	B
5	A	B	A	D
6	C	A	C	B
7	B	A	D	D
8	D	C	C	A
9	B	A	D	C
10	D	C	B	D
11	A	B	A	C
12	C	D	A	D
13	D	B	C	B
14	C	D	A	A
15	D	A	C	A
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون ہوم اکنامکس پرچہ 9th گروپ ـــــ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 30.5.22

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Uzma Khalid	H.M.	G.G.H/S Binda Sandela	03321759995	[signature]
2	R Batool	SST	G.G H/S No2 ShamsAbad	0301-7524232	[signature]
3					
4					

notespk.com

رول نمبر ______________

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

ELEMENTS OF HOME ECONOMICS
مبادیات ہوم اکنامکس

TIME ALLOWED: 2.10 Hours | **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ | وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 | کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**
سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write the scope of Home Economics. — ہوم اکنامکس کا دائرہ کار بیان کریں۔

(ii) Write down the mutual relationship between Home Economics and Biology. — ہوم اکنامکس اور حیاتیات کا باہمی تعلق بیان کریں۔

(iii) Write names of any two nutrients. — کوئی سے دو غذائی اجزا کے نام لکھیں۔

(iv) Define Under-nutrition. — ناکافی غذائیت کی تعریف کریں۔

(v) What is meant by environmental education? — ماحولیاتی تعلیم سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write any two names of fatty acids. — کوئی سے دو چکنے ترشوں کے نام لکھیں۔

(vii) What is meant by essential and non-essential Amino acids? — ضروری اور غیر ضروری امینو ایسڈز سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write down names of any two important vitamins. — کوئی سے دو اہم وٹامنز کے نام لکھیں۔

(ix) What are the vegetable sources of Protein? — پروٹین کے نباتاتی ذرائع کون سے ہیں؟

3. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**
سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Food Pyramid. — فوڈ پیرامڈ کی تعریف کریں۔

(ii) What is meant by Social Growth? — معاشرتی نشوونما سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write the importance of cereal and pulses group according to food pyramid. — فوڈ پیرامڈ کے مطابق اناج اور دالوں کے گروہ کی اہمیت بیان کریں۔

(iv) Describe any two important goals for cooking meal. — کھانا پکانے کے کوئی سے دو اہم مقاصد تحریر کریں۔

(v) What is meant by word Vitamin? — وٹامن کے لفظی معنی کیا ہیں؟

(vi) Why are the feelings of jealousy produced in child? — بچے میں حسد کے جذبات کیونکر پیدا ہوتے ہیں؟

(vii) Describe the importance of water. — پانی کی اہمیت بیان کیجیے۔

(viii) Write down the two methods to maintain the nutritional value of eggs during cooking. — پکانے کے دوران انڈوں کی غذائیت برقرار رکھنے کے دو طریقے لکھیں۔

(ix) What is nutritional standard? — غذائی معیار کسے کہتے ہیں؟

4. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**
سوال نمبر4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Give examples of junk food. — جنک فوڈ کی مثالیں دیں۔

(ii) How is the habit of quarrelling developed in the children? — بچوں میں لڑائی جھگڑے کی عادت کیسے پیدا ہوتی ہے؟

(iii) Define cognitive growth. — ذہنی نشوونما کی تعریف کریں۔

(iv) What is meant by heredity? — وراثت سے کیا مراد ہے؟

(v) What is meant by "to be role model" for children? — بچوں کے سامنے مثالی کردار بننے سے کیا مراد ہے؟

(vi) Define the period of infancy. — شیر خوارگی کے دور کی تعریف کریں۔

(vii) Describe the practice of leadership abilities and role of Home Economics. — قائدانہ صفات کی مشق اور ہوم اکنامکس کا کردار بیان کریں۔

(viii) Write down any two duties of guardian to look after the old aged people. — معمر افراد کی دیکھ بھال کے لیے نگران کے کوئی سے دو فرائض لکھیں۔

(ix) What are the effects of careless parents on the personality of children? — غفلت شعار والدین کے بچوں کی شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. **24 = 8 x 3**
نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Describe the functions and deficiency effects of carbohydrates in body. — 5۔ کاربوہائیڈریٹس کے جسم میں کام اور کمی کے اثرات واضح کریں۔

6. Write down note on cognitive, emotional and social growth in middle childhood. — 6۔ درمیانی بچپن میں ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشوونما پر نوٹ تحریر کریں۔

7. Write in detail the impacts of teacher as caretaker on children. — 7۔ استاد کے بطور نگران بچوں پر اثرات تفصیلاً لکھیں۔

8. Write note on the following: — 8۔ مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔

(i) Authoritarian parents تحکمانہ والدین (ii) Democratic parents جمہوری والدین

9. Write down the detailed note on identification of food groups as sources of Nutrients. — 9۔ غذائی گروہوں کے ذرائع کی غذائیت کی شناخت پر مکمل نوٹ تحریر کریں۔

49-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1217

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____________

ELEMENTS OF HOME ECONOMICS

مبادیات ہوم اکنامکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The children learn first of all in awakening to: — بچے سب سے پہلے جاگتے میں ______ سیکھتے ہیں۔ (1)

(A) Suck the thumb انگو٠ھا چوسنا (B) Chewing the nails ناخن چبانا
(C) Control over urine پیشاب پر کنٹرول کرنا (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(2) The size of napkin is usually of how much square inches? — نیپکن کا سائز عموماً کتنے مربع انچ ہوتا ہے؟ (2)

(A) 18" (B) 16" (C) 12" (D) 22"

(3) Which type of cloth should be used as meal serving cloth? — دسترخواں کے لیے کس قسم کا کپڑا استعمال کرنا چاہیے؟ (3)

(A) Dark colour گہرے رنگ کا (B) Thin باریک (C) Cotton سوتی (D) Silk ریشمی

(4) Home Management subject has got ______ over all other subject. — گھریلو انتظام کے مضمون کو دوسرے تمام مضامین پر ______ حاصل ہوتی ہے۔ (4)

(A) Inferiority کمتری (B) Superiority برتری (C) Importance اہمیت (D) Limitation محدودیت

(5) Cooking in ________ is a new scientific method. — ______ میں پکانا ایک جدید سائنسی طریقہ ہے۔ (5)

(A) Water پانی (B) Oven اوون (C) Steam بھاپ (D) Microwave مائیکروویو

(6) Which English alphabets shapes are used to arrange the kitchen? — باورچی خانے کی ترتیب کن انگریزی حروف کی شکل میں کی جاتی ہے؟ (6)

(A) L, I (B) U, L (C) T, U (D) Z, U

(7) The temperature of freezer varies in between _______. — فریزر کا درجہ حرارت ______ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ (7)

(A) $-2^{o}C$ to $10^{o}C$ (B) $1^{o}C$ to $10^{o}C$ (C) $0^{o}C$ to $10^{o}C$ (D) $0^{o}C$ to $-10^{o}C$

(8) The field of Home Economics "Food and Nutrients" is related to: — ہوم اکنامکس کا شعبہ "غذا اور غذائیت" ______ سے متعلق ہے۔ (8)

(A) Chemistry کیمسٹری (B) Biology حیاتیات (C) Physics طبیعیات (D) Physical Education جسمانی تعلیم

(9) ______ parents are responsible and sensitive. — ______ والدین ذمہ دار اور حساس ہوتے ہیں۔ (9)

(A) Authoritative تحکمانہ (B) Critical تنقیدی (C) Democratic جمہوری (D) Consistent مستقل مزاج

(10) Which factors affect the growth of human? — کون سے عوامل انسانی نشوونما پر اثرانداز ہوتے ہیں؟ (10)

(A) Individual انفرادی (B) Social معاشرتی (C) Organic عضویاتی (D) All of these یہ تمام

(11) Home Economics is a subject that is ________ . — ہوم اکنامکس ایسا مضمون ہے جو ______ رکھتا ہے۔ (11)

(A) Boredom بوریت (B) Interest دلچسپی (C) Vast وسعت (D) Limited محدودیت

(12) There are _____ methods to reinforce positive behaviour in children. — بچوں میں مثبت رویے پیدا کرنے کے ______ طریقے ہیں۔ (12)

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 7

(13) Junk foods are enriched with which thing? — جنک فوڈز کس چیز سے بھرپور ہوتی ہیں؟ (13)

(A) Nutritive value غذائی قدر (B) Fats چکنائی (C) Food nutrients غذائی اجزا (D) Minerals نمکیات

(14) Moist heat cooking method includes: — تر پکانے کے طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ (14)

(A) Boiling ابالنا (B) Baking بیک کرنا (C) Grilling سینکنا (D) Roasting بھوننا

(15) According to which psychologist, parents make child ill-mannered and quarrelling? — کس ماہر نفسیات کے مطابق سخت گیر والدین بچوں کو بدمزاج اور جھگڑالو بنا دیتے ہیں؟ (15)

(A) Flugel فلوجیل (B) Frued فرویڈ (C) Ericson ایرکسن (D) Alfred Adelor الفریڈ ایڈلر

49(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-5000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1215	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ______

ELEMENTS OF HOME ECONOMICS — مبادیات ہوم اکنامکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Home Management subject has got ______ over all other subject. — گھریلو انتظام کے مضمون کو دوسرے تمام مضامین پر ______ حاصل ہوتی ہے۔ (1)
(A) Inferiority کمتری (B) Superiority برتری (C) Importance اہمیت (D) Limitation محدودیت

(2) Cooking in ________ is a new scientific method. — ______ میں پکانا ایک جدید سائنسی طریقہ ہے۔ (2)
(A) Water پانی (B) Oven اوون (C) Steam بھاپ (D) Microwave مائیکروویو

(3) Which English alphabets shapes are used to arrange the kitchen? — باورچی خانے کی ترتیب کن انگریزی حروف کی شکل میں کی جاتی ہے؟ (3)
(A) L, I (B) U, L (C) T, U (D) Z, U

(4) The temperature of freezer varies in between ________. — فریزر کا درجہ حرارت ______ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ (4)
(A) $-2^{o}C$ to $10^{o}C$ (B) $1^{o}C$ to $10^{o}C$ (C) $0^{o}C$ to $10^{o}C$ (D) $0^{o}C$ to $-10^{o}C$

(5) The field of Home Economics "Food and Nutrients" is related to: — ہوم اکنامکس کا شعبہ ''غذا اور غذائیت'' ______ سے متعلق ہے۔ (5)
(A) Chemistry کیمسٹری (B) Biology حیاتیات (C) Physics طبیعیات (D) Physical Education جسمانی تعلیم

(6) ______ parents are responsible and sensitive. — ______ والدین ذمہ دار اور حساس ہوتے ہیں۔ (6)
(A) Authoritative تحکمانہ (B) Critical تنقیدی (C) Democratic جمہوری (D) Consistent مستقل مزاج

(7) Which factors affect the growth of human? — کون سے عوامل انسانی نشوونما پر اثرانداز ہوتے ہیں؟ (7)
(A) Individual انفرادی (B) Social معاشرتی (C) Organic عضویاتی (D) All of these یہ تمام

(8) Home Economics is a subject that is ________. — ہوم اکنامکس ایسا مضمون ہے جو ______ رکھتا ہے۔ (8)
(A) Boredom بوریت (B) Interest دلچسپی (C) Vast وسعت (D) Limited محدودیت

(9) There are _____ methods to reinforce positive behaviour in children. — بچوں میں مثبت رویے پیدا کرنے کے ______ طریقے ہیں۔ (9)
(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 7

(10) Junk foods are enriched with which thing? — جنک فوڈز کس چیز سے بھرپور ہوتی ہیں؟ (10)
(A) Nutritive value غذائی قدر (B) Fats چکنائی (C) Food nutrients غذائی اجزا (D) Minerals نمکیات

(11) Moist heat cooking method includes: — تر پکانے کے طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ (11)
(A) Boiling ابالنا (B) Baking بیک کرنا (C) Grilling سینکنا (D) Roasting بھوننا

(12) According to which psychologist, parents make child ill-mannered and quarrelling? — کس ماہر نفسیات کے مطابق سخت گیر والدین بچوں کو بدمزاج اور جھگڑالو بنا دیتے ہیں؟ (12)
(A) Flugel فلوجیل (B) Frued فرویڈ (C) Ericson ایرکسن (D) Alfred Adelor الفریڈ ایڈلر

(13) The children learn first of all in awakening to: — بچے سب سے پہلے جاگتے میں ______ سیکھتے ہیں۔ (13)
(A) Suck the thumb انگوٹھا چوسنا (B) Chewing the nails ناخن چبانا
(C) Control over urine پیشاب پر کنٹرول کرنا (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(14) The size of napkin is usually of how much square inches? — نیپکن کا سائز عموماً کتنے مربع انچ ہوتا ہے؟ (14)
(A) 18" (B) 16" (C) 12" (D) 22"

(15) Which type of cloth should be used as meal serving cloth? — دسترخوان کے لیے کس قسم کا کپڑا استعمال کرنا چاہیے؟ (15)
(A) Dark colour گہرے رنگ کا (B) Thin باریک (C) Cotton سوتی (D) Silk ریشمی

49(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-5000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1213

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

207

ELEMENTS OF HOME ECONOMICS

مبادیات ہوم اکنامکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) _______ parents are responsible and sensitive. _______ والدین ذمہ دار اور حساس ہوتے ہیں۔ (1)

(A) Authoritative تحکمانہ (B) Critical تنقیدی (C) Democratic جمہوری (D) Consistent مستقل مزاج

(2) Which factors affect the growth of human? کون سے عوامل انسانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ (2)

(A) Individual انفرادی (B) Social معاشرتی (C) Organic عضویاتی (D) All of these یہ تمام

(3) Home Economics is a subject that is _________ . ہوم اکنامکس ایسا مضمون ہے جو _______ رکھتا ہے۔ (3)

(A) Boredom بوریت (B) Interest دلچسپی (C) Vast وسعت (D) Limited محدودیت

(4) There are ______ methods to reinforce positive behaviour in children. بچوں میں مثبت رویے پیدا کرنے کے _______ طریقے ہیں۔ (4)

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 7

(5) Junk foods are enriched with which thing? جنک فوڈز کس چیز سے بھرپور ہوتی ہیں؟ (5)

(A) Nutritive value غذائی قدر (B) Fats چکنائی (C) Food nutrients غذائی اجزا (D) Minerals نمکیات

(6) Moist heat cooking method includes: تر پکانے کے طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ (6)

(A) Boiling ابالنا (B) Baking بیک کرنا (C) Grilling سینکنا (D) Roasting بھوننا

(7) According to which psychologist, parents make child ill-mannered and quarrelling? کس ماہر نفسیات کے مطابق سخت گیر والدین بچوں کو بدمزاج اور جھگڑالو بنا دیتے ہیں؟ (7)

(A) Flugel فلوجیل (B) Frued فرویڈ (C) Ericson ایرکسن (D) Alfred Adelor الفریڈ ایڈلر

(8) The children learn first of all in awakening to: بچے سب سے پہلے جاگتے میں _______ سیکھتے ہیں۔ (8)

(A) Suck the thumb انگوٹھا چوسنا (B) Chewing the nails ناخن چبانا

(C) Control over urine پیشاب پر کنٹرول کرنا (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(9) The size of napkin is usually of how much square inches? نیپکن کا سائز عموماً کتنے مربع انچ ہوتا ہے؟ (9)

(A) 18" (B) 16" (C) 12" (D) 22"

(10) Which type of cloth should be used as meal serving cloth? دسترخوان کے لیے کس قسم کا کپڑا استعمال کرنا چاہیے؟ (10)

(A) Dark colour گہرے رنگ کا (B) Thin باریک (C) Cotton سوتی (D) Silk ریشمی

(11) Home Management subject has got _______ over all other subject. گھریلو انتظام کے مضمون کو دوسرے تمام مضامین پر _______ حاصل ہوتی ہے۔ (11)

(A) Inferiority کمتری (B) Superiority برتری (C) Importance اہمیت (D) Limitation محدودیت

(12) Cooking in _________ is a new scientific method. _______ میں پکانا ایک جدید سائنسی طریقہ ہے۔ (12)

(A) Water پانی (B) Oven اوون (C) Steam بھاپ (D) Microwave مائیکروویو

(13) Which English alphabets shapes are used to arrange the kitchen? باورچی خانے کی ترتیب کن انگریزی حروف کی شکل میں کی جاتی ہے؟ (13)

(A) L, I (B) U, L (C) T, U (D) Z, U

(14) The temperature of freezer varies in between ________. فریزر کا درجہ حرارت _______ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ (14)

(A) -2^oC to 10^oC (B) 1^oC to 10^oC (C) 0^oC to 10^oC (D) 0^oC to -10^oC

(15) The field of Home Economics "Food and Nutrients" is related to: ہوم اکنامکس کا شعبہ " غذا اور غذائیت " _______ سے متعلق ہے۔ (15)

(A) Chemistry کیمسٹری (B) Biology حیاتیات (C) Physics طبیعیات (D) Physical Education جسمانی تعلیم

49(Obj)(☆☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1211

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

206

ELEMENTS OF HOME ECONOMICS

مبادیات ہوم اکنامکس

TIME ALLOWED: 20 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Junk foods are enriched with which thing? — جنک فوڈز کس چیز سے بھرپور ہوتی ہیں؟

(A) Nutritive value غذائی قدر (B) Fats چکنائی (C) Food nutrients غذائی اجزا (D) Minerals نمکیات

(2) Moist heat cooking method includes: — تر پکانے کے طریقے میں شامل ہوتا ہے۔

(A) Boiling ابالنا (B) Baking بیک کرنا (C) Grilling سینکنا (D) Roasting بھوننا

(3) According to which psychologist, parents make child ill-mannered and quarrelling? — کس ماہر نفسیات کے مطابق سخت گیر والدین بچوں کو بدمزاج اور جھگڑالو بنا دیتے ہیں؟

(A) Flugel فلوجیل (B) Frued فرویڈ (C) Ericson ایرکسن (D) Alfred Adelor الفریڈ ایڈلر

(4) The children learn first of all in awakening to: — بچے سب سے پہلے جاگتے میں ______ سیکھتے ہیں۔

(A) Suck the thumb انگوٹھا چوسنا (B) Chewing the nails ناخن چبانا

(C) Control over urine پیشاب پر کنٹرول کرنا (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(5) The size of napkin is usually of how much square inches? — نیپکن کا سائز عموماً کتنے مربع انچ ہوتا ہے؟

(A) 18" (B) 16" (C) 12" (D) 22"

(6) Which type of cloth should be used as meal serving cloth? — دسترخوان کے لیے کس قسم کا کپڑا استعمال کرنا چاہیے؟

(A) Dark colour گہرے رنگ کا (B) Thin باریک (C) Cotton سوتی (D) Silk ریشمی

(7) Home Management subject has got _______ over all other subject. — گھریلو انتظام کے مضمون کو دوسرے تمام مضامین پر ______ حاصل ہوتی ہے۔

(A) Inferiority کمتری (B) Superiority برتری (C) Importance اہمیت (D) Limitation محدودیت

(8) Cooking in _________ is a new scientific method. — ______ میں پکانا ایک جدید سائنسی طریقہ ہے۔

(A) Water پانی (B) Oven اوون (C) Steam بھاپ (D) Microwave مائیکروویو

(9) Which English alphabets shapes are used to arrange the kitchen? — باورچی خانے کی ترتیب کن انگریزی حروف کی شکل میں کی جاتی ہے؟

(A) L, I (B) U, L (C) T, U (D) Z, U

(10) The temperature of freezer varies in between ________. — فریزر کا درجہ حرارت ______ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔

(A) $-2^{o}C$ to $10^{o}C$ (B) $1^{o}C$ to $10^{o}C$ (C) $0^{o}C$ to $10^{o}C$ (D) $0^{o}C$ to $-10^{o}C$

(11) The field of Home Economics "Food and Nutrients" is related to: — ہوم اکنامکس کا شعبہ "غذا اور غذائیت" ______ سے متعلق ہے۔

(A) Chemistry کیمسٹری (B) Biology حیاتیات (C) Physics طبیعیات (D) Physical Education جسمانی تعلیم

(12) _______ parents are responsible and sensitive. — ______ والدین ذمہ دار اور حساس ہوتے ہیں۔

(A) Authoritative تحکمانہ (B) Critical تنقیدی (C) Democratic جمہوری (D) Consistent مستقل مزاج

(13) Which factors affect the growth of human? — کون سے عوامل انسانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں؟

(A) Individual انفرادی (B) Social معاشرتی (C) Organic عضویاتی (D) All of these یہ تمام

(14) Home Economics is a subject that is _________. — ہوم اکنامکس ایسا مضمون ہے جو ______ رکھتا ہے۔

(A) Boredom بوریت (B) Interest دلچسپی (C) Vast وسعت (D) Limited محدودیت

(15) There are ______ methods to reinforce positive behaviour in children. — بچوں میں مثبت رویے پیدا کرنے کے ______ طریقے ہیں۔

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 7

49(Obj)(☆)-2022(A)-5000 (MULTAN)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: English 9th   Session: ____________

Group : 1st   Group: 2nd

notespk.com

Q. Nos	Paper Code 1011	Paper Code 1013	Paper Code 1015	Paper Code 1017
1	A	D	C	A
2	A	B	D	C
3	C	A	B	D
4	D	A	A	B
5	B	C	A	A
6	A	A	C	C
7	C	A	C	C
8	C	C	A	A
9	A	C	C	A
10	D	B	A	B
11	B	D	A	A
12	A	B	B	A
13	A	A	D	B
14	B	A	B	D
15	C	C	A	C
16	C	B	C	A
17	A	C	B	C
18	C	C	C	B
19	B	A	A	C
20	—	—	—	—

Q. Nos	Paper Code 1012	Paper Code 1014	Paper Code 1016	Paper Code 1018
1	B	B	D	A
2	A	C	B	D
3	D	B	C	B
4	B	A	B	C
5	C	D	A	B
6	D	D	B	C
7	C	D	D	B
8	B	C	D	D
9	D	B	C	D
10	A	C	B	B
11	B	A	C	B
12	B	B	C	C
13	C	B	A	C
14	C	C	B	A
15	D	A	C	A
16	A	D	C	C
17	C	A	A	C
18	C	C	D	A
19	A	C	A	D
20	—	—	—	—

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون ___انگلش___ پرچہ ___I/نہم___ گروپ 1st، 2nd ___ سکیم ________ میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا
سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ
پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ
کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات
وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated: 30-05-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Rabia Basri	HM	GGHS Loother-Multan	03360444412	Rabia
2	NAZIR ALI	SS Eng	G.Comp. H/S/S MTN	0300 4982051	[signature]
3	Zia-ur-Rehman	SST	G.Comp H/S/S MTN	03007196743	[signature]
4					
4	Masood Muzaffar	SST.	Govt. Model H/S Shamsabad Multan	03017414808	Masood

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالے سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Tasneem Kausar	Principal	GGHSS Qadirpur Ran	03067553515	[signature]
2	Haroon Khalid	"	GHS, Aam Khas Bagh	03008633796	[signature]
3					

2022 (A) Roll No. ____13____

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-I

TIME ALLOWED: 2.10 Hours **SUBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 56

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

notespk.com

SECTION-I

2. Answer any five of the following questions. **10**

(i) What are the harmful effects of noise pollution on human health?
(ii) What is the most important function that media performs?
(iii) What was the condition of mankind before the Rasool خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم?
(iv) What was the first revelation?
(v) Where is the royal room situated in Sultan Ahmad Masjid?
(vi) Why does the speaker stop on 'the darkest evening of the year'?
(vii) Why did the nurse say: "Where there is a will there is a way"?
(viii) What are the causes of drug addiction?

SECTION-II

3. Translate any two of the following paragraphs into Urdu: **4 + 4**

(a) The entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it.

(b) Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہا was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom.

(c) Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers.

Alternative question for Foreign/English medium candidates.

Re-write any two of the above paragraphs in simple English.

4. Write down the summary of the poem "Daffodils" by William Wordsworth. **5**

OR

Explain the following stanza with reference to the context.

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

5. Use any Five of the following words/phrases/idioms in your own sentences: **5**

(i) Delegation (ii) Sacrifice (iii) Global village (iv) Mad with anger
(v) Bits and pieces (vi) Panorama (vii) Influence (viii) Companion

6. Write a letter to your brother advising him to take steps to improve his health. OR **8**
Write a story with the moral "The grapes are sour" OR
Write a dialogue between a tailor and a customer.

7. Read the following passage carefully and answer the questions given at the end: **10**

A man is known by the company he keeps. A good student should avoid the company of those who keep playing all the time. Many students miss their classes and seldom do their homework because some other fellow students do the same. There are hardworking students also who work while others play. They know when to study and when to play. They play when it is time to play. They enjoy the games of their choice because they know that playing games is essential for health. A sick student is not so quick in learning his lesson as a healthy one.

Questions: (i) What kind of company should a good student keep?
(ii) Why do some students miss their classes? (iii) Why do good students enjoy good health?
(iv) Why are games necessary for students? (v) Where does the success of a student lie?

8. Translate any five of the following sentences into English. **5**

(i) بوندا باندی ہو رہی ہے۔ (ii) دانا آدمی ایسی غلطی نہیں کرتا ہے۔ (iii) ہم نے ان کا انتظار نہیں کیا ہے۔ (iv) یہاں آپ چار گھنٹے سے کیا کر رہے ہیں؟
(v) نانی اماں نے ہمیں دلچسپ کہانی سنائی۔ (vi) سورج غروب ہونے تک اس نے کام کیوں ختم نہ کیا؟ (vii) میرے گھر آنے سے پہلے مہمان واپس جا چکے تھے۔ (viii) مجھے چکر آ رہے تھے۔

(Alternative question for Foreign/English Medium candidates only)

Write ten sentences about "Pakistani Women"

9. Change the voice of the following sentences: **5**

(i) Khurshid helps Naushaba. (ii) The mother loves the children. (iii) Students were being taught by her.
(iv) He took away my books. (v) She likes apples.

5-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number: 1011

2022 (A)

Roll No: 114

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-I

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

notespk.com

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) He ______________ keep me waiting.

(A) does not (B) do not (C) is not (D) was not

(2) She ___________ to school an hour ago.

(A) went (B) gone (C) was went (D) go

(3) They ___________ their meal before the guests arrived.

(A) has taken (B) was taken (C) had taken (D) had taking

(4) I __________ him next Monday.

(A) am see (B) was see (C) have see (D) shall see

(5) They ___________ Pakistan before the end of the year.

(A) have left (B) will have left (C) has left (D) are left

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Happiness (B) Heppiness (C) Hapiness (D) Hapines

(7) (A) Overwhelmd (B) Overwhalmd (C) Overwhelmed (D) Ovarwheilmed

(8) (A) Flamboyent (B) Flemboyont (C) Flamboyant (D) Flemboyant

(9) (A) Patrolling (B) Petrolling (C) Potrolling (D) Patroling

Choose the correct option for the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) Their eloquence and memory found expression in their poetry. The underlined word means:

(A) Weak (B) Strong (C) Healthy (D) Fluency

(11) The floors are covered with carpets. The underlined word is an antonym of:

(A) Spread (B) Exposed (C) Stretched (D) Enclosed

(12) The little birds are piping yet. The underlined word is synonym of:

(A) Twittering (B) Crying (C) Weeping (D) Yelling

(13) The students are all geared up. The underlined phrase means:

(A) Ready (B) Silent (C) Demotivated (D) Keen

(14) Antonym of honour is:

(A) Belief (B) Dishonour (C) Loyal (D) Confidence

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:

(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

(16) Away from is an example of:

(A) Simple Preposition (B) Double Preposition (C) Compound Preposition (D) Participle Preposition

(17) Most of us take life for granted. The underlined sentence is an example of:

(A) Simple sentence (B) Compound sentence (C) Complex sentence (D) None of these

(18) He spoke very loud. The underlined word is an adverb of:

(A) Place (B) Frequency (C) Degree (D) Time

(19) She has resolute faith __________ Allah.

(A) at (B) in (C) with (D) of

5(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number: 1013

2022 (A)

Roll No: 15

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-I

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) I ___________ him next Monday.
(A) am see (B) was see (C) have see (D) shall see

(2) They ____________ Pakistan before the end of the year.
(A) have left (B) will have left (C) has left (D) are left

(3) He _______________ keep me waiting.
(A) does not (B) do not (C) is not (D) was not

(4) She ____________ to school an hour ago.
(A) went (B) gone (C) was went (D) go

(5) They ____________ their meal before the guests arrived.
(A) has taken (B) was taken (C) had taken (D) had taking

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Patrolling (B) Petrolling (C) Potrolling (D) Patroling

(7) (A) Happiness (B) Heppiness (C) Hapiness (D) Hapines

(8) (A) Overwhelmd (B) Overwhalmd (C) Overwhelmed (D) Ovarwheilmed

(9) (A) Flamboyent (B) Flemboyont (C) Flamboyant (D) Flemboyant

Choose the correct option for the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) Antonym of honour is:
(A) Belief (B) Dishonour (C) Loyal (D) Confidence

(11) Their eloquence and memory found expression in their poetry. The underlined word means:
(A) Weak (B) Strong (C) Healthy (D) Fluency

(12) The floors are covered with carpets. The underlined word is an antonym of:
(A) Spread (B) Exposed (C) Stretched (D) Enclosed

(13) The little birds are piping yet. The underlined word is synonym of:
(A) Twittering (B) Crying (C) Weeping (D) Yelling

(14) The students are all geared up. The underlined phrase means:
(A) Ready (B) Silent (C) Demotivated (D) Keen

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) He spoke very loud. The underlined word is an adverb of:
(A) Place (B) Frequency (C) Degree (D) Time

(16) She has resolute faith ___________ Allah.
(A) at (B) in (C) with (D) of

(17) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:
(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

(18) Away from is an example of:
(A) Simple Preposition (B) Double Preposition (C) Compound Preposition (D) Participle Preposition

(19) Most of us take life for granted. The underlined sentence is an example of:
(A) Simple sentence (B) Compound sentence (C) Complex sentence (D) None of these

5(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number:	1015

2022 (A)

Roll No 16

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-I

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) They ____________ their meal before the guests arrived.

(A) has taken (B) was taken (C) had taken (D) had taking

(2) I ___________ him next Monday.

(A) am see (B) was see (C) have see (D) shall see

(3) They ____________ Pakistan before the end of the year.

(A) have left (B) will have left (C) has left (D) are left

(4) He _______________ keep me waiting.

(A) does not (B) do not (C) is not (D) was not

(5) She ____________ to school an hour ago.

(A) went (B) gone (C) was went (D) go

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Flamboyent (B) Flemboyont (C) Flamboyant (D) Flemboyant

(7) (A) Patrolling (B) Petrolling (C) Potrolling (D) Patroling

(8) (A) Happiness (B) Heppiness (C) Hapiness (D) Hapines

(9) (A) Overwhelmd (B) Overwhalmd (C) Overwhelmed (D) Ovarwheilmed

Choose the correct option for the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) The little birds are piping yet. The underlined word is synonym of:

(A) Twittering (B) Crying (C) Weeping (D) Yelling

(11) The students are all geared up. The underlined phrase means:

(A) Ready (B) Silent (C) Demotivated (D) Keen

(12) Antonym of honour is:

(A) Belief (B) Dishonour (C) Loyal (D) Confidence

(13) Their eloquence and memory found expression in their poetry. The underlined word means:

(A) Weak (B) Strong (C) Healthy (D) Fluency

(14) The floors are covered with carpets. The underlined word is an antonym of:

(A) Spread (B) Exposed (C) Stretched (D) Enclosed

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) Most of us take life for granted. The underlined sentence is an example of:

(A) Simple sentence (B) Compound sentence (C) Complex sentence (D) None of these

(16) He spoke very loud. The underlined word is an adverb of:

(A) Place (B) Frequency (C) Degree (D) Time

(17) She has resolute faith ___________ Allah.

(A) at (B) in (C) with (D) of

(18) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:

(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

(19) Away from is an example of:

(A) Simple Preposition (B) Double Preposition (C) Compound Preposition (D) Participle Preposition

5(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number:	1017

2022 (A)

Roll No: ______

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-I

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

notespk.com

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) She ____________ to school an hour ago.
(A) went (B) gone (C) was went (D) go

(2) They ____________ their meal before the guests arrived.
(A) has taken (B) was taken (C) had taken (D) had taking

(3) I ___________ him next Monday.
(A) am see (B) was see (C) have see (D) shall see

(4) They ____________ Pakistan before the end of the year.
(A) have left (B) will have left (C) has left (D) are left

(5) He _______________ keep me waiting.
(A) does not (B) do not (C) is not (D) was not

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Overwhelmd (B) Overwhalmd (C) Overwhelmed (D) Ovarwheilmed

(7) (A) Flamboyent (B) Flemboyont (C) Flamboyant (D) Flemboyant

(8) (A) Patrolling (B) Petrolling (C) Potrolling (D) Patroling

(9) (A) Happiness (B) Heppiness (C) Hapiness (D) Hapines

Choose the correct option for the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) The floors are covered with carpets. The underlined word is an antonym of:
(A) Spread (B) Exposed (C) Stretched (D) Enclosed

(11) The little birds are piping yet. The underlined word is synonym of:
(A) Twittering (B) Crying (C) Weeping (D) Yelling

(12) The students are all geared up. The underlined phrase means:
(A) Ready (B) Silent (C) Demotivated (D) Keen

(13) Antonym of honour is:
(A) Belief (B) Dishonour (C) Loyal (D) Confidence

(14) Their eloquence and memory found expression in their poetry. The underlined word means:
(A) Weak (B) Strong (C) Healthy (D) Fluency

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) Away from is an example of:
(A) Simple Preposition (B) Double Preposition (C) Compound Preposition (D) Participle Preposition

(16) Most of us take life for granted. The underlined sentence is an example of:
(A) Simple sentence (B) Compound sentence (C) Complex sentence (D) None of these

(17) He spoke very loud. The underlined word is an adverb of:
(A) Place (B) Frequency (C) Degree (D) Time

(18) She has resolute faith ___________ Allah.
(A) at (B) in (C) with (D) of

(19) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:
(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

5(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

2022 (A) Roll No. 18

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-II

TIME ALLOWED: 2.10 Hours **SUBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 56

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

notespk.com

SECTION-I

2. Answer any five of the following questions. **10**

(i) What are the causes of drug addiction?
(ii) How do you define noise pollution?
(iii) Describe two qualities of the personality of the nurse in the story "All is not Lost."
(iv) What was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court? (Sultan Ahmad Masjid)
(v) What was the ideology of Pakistan in view of Quaid-e-Azam?
(vi) What happens when media is allowed to play its role unchecked?
(vii) Which incident in the story showed Hazrat Asma's رضی اللہ تعالیٰ عنہا love and respect for the Rasool خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم?
(viii) How does media provide entertainment?

SECTION-II

3. Translate any two of the following paragraphs into Urdu: **4 + 4**

(a) The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat.

(b) We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following the Quaid's golden motto, "Faith, Unity and Discipline."

(c) I turned around to see a young woman, smiling at me. "Are you looking for your patient?" She said and gave me a big hug. "Thank you for everything you did! I know you did not allow them to make me lead a crippled life."

Alternative question for Foreign/English medium candidates.

Re-write any two of the above paragraphs in simple English.

4. Write down the summary of the poem "Daffodils" by William Wordsworth. **5**

OR

Explain the following stanza with reference to the context.

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

5. Use any Five of the following words/phrases/idioms in your own sentences: **5**

(i) Prosperity (ii) Fit of fury (iii) Spacious (iv) Delegation
(v) Bits and pieces (vi) Pass through (vii) Companion (viii) Urge

6. Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for the payment of hostel dues. **8**

OR

Write a story with the moral "Greed is a Curse" OR

Write a dialogue between a teacher and a student.

7. Read the following passage carefully and answer the questions given at the end: **10**

A tailor ran a shop in a bazaar. An elephant used to go to the river through that bazaar. The tailor gave him a bun every day. One day the tailor pricked a needle into the trunk of the elephant. The elephant became angry but went away. On return, he filled his trunk with muddy water. On reaching the shop of the tailor, he put his trunk into it and squirted the dirty water into the shop of the tailor. All the fine and new dresses of his customers were spoiled. He was very sorry for annoying the elephant but it was no use crying over spilt milk.

Questions: (i) Where did the elephant go every day? (ii) What did the tailor give him?
(iii) What mistake did the tailor make one day? (iv) What did the elephant do after drinking water?
(v) What is the moral of the story?

8. Translate any five of the following sentences into English. **5**

(i) کتا رات کو بھونک رہا تھا۔ (ii) آپ کے بارے میں کون پوچھ رہا تھا؟ (iii) لڑکوں نے شور مچایا۔ (iv) مجھے جرمنی نہیں بھیجا جا رہا ہے۔
(v) مور جنگل میں نہیں ناچا ہے۔ (vi) اس نے اپنی کتاب دینے سے انکار کر دیا۔ (vii) امجد انعام حاصل کر چکا ہے۔ (viii) عام آدمی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔

(Alternative question for Foreign/English Medium candidates only)

Write ten sentences about "Pakistani Women"

9. Change the voice of the following sentences: **5**

(i) They caught the thief. (ii) He will give you a box of chocolates.
(iii) She was teaching the students. (iv) Nothing had been gained by them.
(v) The Board has given me a gold medal.

7-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number: 1012

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

Roll No: 

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-II

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

notespk.com

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) She ____________ English now.
(A) spoke (B) is speaking (C) was speaking (D) speak

(2) I _________ two books.
(A) have read (B) reading (C) reads (D) has reading

(3) It ___________ at present.
(A) rain (B) rained (C) raining (D) is raining

(4) I ____________ him next Monday.
(A) see (B) shall see (C) saw (D) seen

(5) He ___________ here since 1970.
(A) is coming (B) was come (C) had been coming (D) come

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Magezin (B) Mageazinee (C) Maggazin (D) Magazine

(7) (A) Cramble (B) Cramblle (C) Crumble (D) Crembul

(8) (A) Iptitude (B) Aptitude (C) Apptitude (D) Eptitude

(9) (A) Embodimant (B) Ambodiment (C) Embodymennt (D) Embodiment

Choose the correct meaning of the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) Supreme means:
(A) Highest (B) Loyalty (C) Worthless (D) Quality

(11) The word astonish means:
(A) Supreme (B) Surprise (C) Mix (D) Happy

(12) Do not be afraid of death.
(A) Attended to (B) Scared (C) Squared up (D) Fed up

(13) It was so delicate situation.
(A) Easy (B) Difficult (C) Fragile (D) Supreme

(14) She did not reveal the secret.
(A) Firm (B) Ready to face (C) Show (D) Surprised with

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) He was a ___________ writer.
(A) well framed (B) famously (C) famed (D) famous

(16) The dog sat __________ his master.
(A) beside (B) along (C) across (D) over

(17) Value is a/an __________ noun.
(A) material (B) countable (C) abstract (D) proper

(18) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:
(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

(19) Saqib is leaving __________ Friday.
(A) on (B) at (C) by (D) from

7(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number: 1014

2022 (A)

Roll No: 50

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-II

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

notespk.com

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) I ______________ him next Monday.
(A) see (B) shall see (C) saw (D) seen

(2) He ____________ here since 1970.
(A) is coming (B) was come (C) had been coming (D) come

(3) She ______________ English now.
(A) spoke (B) is speaking (C) was speaking (D) speak

(4) I __________ two books.
(A) have read (B) reading (C) reads (D) has reading

(5) It _____________ at present.
(A) rain (B) rained (C) raining (D) is raining

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Embodimant (B) Ambodiment (C) Embodymennt (D) Embodiment

(7) (A) Magezin (B) Mageazinee (C) Maggazin (D) Magazine

(8) (A) Cramble (B) Cramblle (C) Crumble (D) Crembul

(9) (A) Iptitude (B) Aptitude (C) Apptitude (D) Eptitude

Choose the correct meaning of the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) She did not reveal the secret.
(A) Firm (B) Ready to face (C) Show (D) Surprised with

(11) Supreme means:
(A) Highest (B) Loyalty (C) Worthless (D) Quality

(12) The word astonish means:
(A) Supreme (B) Surprise (C) Mix (D) Happy

(13) Do not be afraid of death.
(A) Attended to (B) Scared (C) Squared up (D) Fed up

(14) It was so delicate situation.
(A) Easy (B) Difficult (C) Fragile (D) Supreme

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) Saqib is leaving ____________ Friday.
(A) on (B) at (C) by (D) from

(16) He was a ______________ writer.
(A) well framed (B) famously (C) famed (D) famous

(17) The dog sat ____________ his master.
(A) beside (B) along (C) across (D) over

(18) Value is a/an ____________ noun.
(A) material (B) countable (C) abstract (D) proper

(19) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:
(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

7(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number: 1016

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

Roll No: 21

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-II

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

notespk.com

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) It ____________ at present.
(A) rain (B) rained (C) raining (D) is raining

(2) I ____________ him next Monday.
(A) see (B) shall see (C) saw (D) seen

(3) He ____________ here since 1970.
(A) is coming (B) was come (C) had been coming (D) come

(4) She ____________ English now.
(A) spoke (B) is speaking (C) was speaking (D) speak

(5) I __________ two books.
(A) have read (B) reading (C) reads (D) has reading

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Iptitude (B) Aptitude (C) Apptitude (D) Eptitude

(7) (A) Embodimant (B) Ambodiment (C) Embodymennt (D) Embodiment

(8) (A) Magezin (B) Mageazinee (C) Maggazin (D) Magazine

(9) (A) Cramble (B) Cramblle (C) Crumble (D) Crembul

Choose the correct meaning of the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) Do not be afraid of death.
(A) Attended to (B) Scared (C) Squared up (D) Fed up

(11) It was so delicate situation.
(A) Easy (B) Difficult (C) Fragile (D) Supreme

(12) She did not reveal the secret.
(A) Firm (B) Ready to face (C) Show (D) Surprised with

(13) Supreme means:
(A) Highest (B) Loyalty (C) Worthless (D) Quality

(14) The word astonish means:
(A) Supreme (B) Surprise (C) Mix (D) Happy

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) Value is a/an ____________ noun.
(A) material (B) countable (C) abstract (D) proper

(16) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:
(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

(17) Saqib is leaving ____________ Friday.
(A) on (B) at (C) by (D) from

(18) He was a ____________ writer.
(A) well framed (B) famously (C) famed (D) famous

(19) The dog sat ____________ his master.
(A) beside (B) along (C) across (D) over

7(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Paper Code Number: 1018

2022 (A)

Roll No: ______

SSC PART-I (9th CLASS)

ENGLISH (COMPULSORY) GROUP-II

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** MAXIMUM MARKS: 19

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet.

(1) I __________ two books.
(A) have read (B) reading (C) reads (D) has reading

(2) It ____________ at present.
(A) rain (B) rained (C) raining (D) is raining

(3) I _____________ him next Monday.
(A) see (B) shall see (C) saw (D) seen

(4) He ___________ here since 1970.
(A) is coming (B) was come (C) had been coming (D) come

(5) She _____________ English now.
(A) spoke (B) is speaking (C) was speaking (D) speak

Choose the word with correct spellings from the given options and fill up the bubbles sheet.

(6) (A) Cramble (B) Cramblle (C) Crumble (D) Crembul

(7) (A) Iptitude (B) Aptitude (C) Apptitude (D) Eptitude

(8) (A) Embodimant (B) Ambodiment (C) Embodymennt (D) Embodiment

(9) (A) Magezin (B) Mageazinee (C) Maggazin (D) Magazine

Choose the correct meaning of the underlined words from the given options and fill up the bubbles sheet.

(10) The word astonish means:
(A) Supreme (B) Surprise (C) Mix (D) Happy

(11) Do not be afraid of death.
(A) Attended to (B) Scared (C) Squared up (D) Fed up

(12) It was so delicate situation.
(A) Easy (B) Difficult (C) Fragile (D) Supreme

(13) She did not reveal the secret.
(A) Firm (B) Ready to face (C) Show (D) Surprised with

(14) Supreme means:
(A) Highest (B) Loyalty (C) Worthless (D) Quality

Choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles sheet.

(15) The dog sat ___________ his master.
(A) beside (B) along (C) across (D) over

(16) Value is a/an ___________ noun.
(A) material (B) countable (C) abstract (D) proper

(17) The police dispersed the crowd. The underlined word is a/an:
(A) Countable Noun (B) Material Noun (C) Collective Noun (D) Abstract Noun

(18) Saqib is leaving ___________ Friday.
(A) on (B) at (C) by (D) from

(19) He was a ____________ writer.
(A) well framed (B) famously (C) famed (D) famous

7(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

(171)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: اخلاقیات (نہم) Session: 2022

Q.Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	B			
2	C			
3	C			
4	A			
5	D			
6	A			
7	C			
8	B			
9	A			
10	D			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون __اخلاقیات__ پرچہ __پہلا (نہم)__ گروپ ________ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 8/6/2022

S.#	Name	Designation	Institution Multan	Mobile No	Signature
1	Muhammad Ashfaq	S.S.T	G.H.S Gulzarpur	0306-7425417	[signature]
2	Hafiz Khalid Mahmood	S.S.T	GHS Talkot Shujabad	0301-7530075	[signature]
3					
4					

2022 (A)

رول نمبر ______

SSC PART-I (9th CLASS)

اخلاقیات [غیر مسلم طلباء کے لئے، اسلامیات (لازمی) کے بجائے]

ETHICS [For Non-Muslims in lieu of ISLAMIAT (Compulsory)]

notespk.com

TIME ALLOWED: 1.45 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 40 — کل نمبر = 40

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4

سوال نمبر2۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Which religions have the concept of God as the creator of Universe? Write names of any four.
کون سے مذاہب میں خدا کے خالقِ کائنات ہونے کا تصوّر موجود ہے؟ کوئی چار کے نام تحریر کیجیے۔

(ii) What deeds are considered as sin by religion?
مذہب کن افعال کو گناہ قرار دیتا ہے؟

(iii) What is the aim of morality according to Aristotle and Plato?
ارسطو اور افلاطون کے مطابق اخلاقیات کا مقصد کیا ہے؟

(iv) Write the names of three major ancient religions of India.
ہندوستان کے تین بڑے قدیم مذاہب کے نام تحریر کیجیے۔

(v) Jainism asserts on what for freedom of soul?
جین مت روح کی نجات کے لیے کس بات پر زور دیتا ہے؟

(vi) In which regions Degameer(Degambara) preached Jainism?
دگامیر نے کن علاقوں میں جین مت کی اشاعت کی؟

3. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4

سوال نمبر3۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Which are Sami Religions? Name these.
سامی مذاہب کون کون سے ہیں؟ نام تحریر کیجیے۔

(ii) What is the concept of God in non-revealed religions?
غیر الہامی مذاہب میں خدا کا تصوّر کیا ہے؟

(iii) Name two sacred places of Hindus at the bank of Ganga.
گنگا کے کنارے واقع ہندوؤں کے دو مقدس مقامات کے نام تحریر کیجیے۔

(iv) How is Zakat the solution of economical problems?
زکوٰۃ کس طرح معاشی مسائل کا حل ہے؟

(v) What has to be done to become Bhukshu in Buddhism?
بدھ مت میں بھکشو بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟

(vi) How do Christians praise and worship?
مسیحی حمد خوانی کیسے کرتے ہیں؟

4. Attempt any four parts. 8 = 2 x 4

سوال نمبر4۔ کوئی سے چار اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two manners of Vihara.
وہارہ کے دو آداب تحریر کیجیے۔

(ii) Write down two benefits of Bank.
بنک کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

(iii) Write down two benefits of the manners of life.
آدابِ زندگی کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

(iv) Why is family of Imam Ghazali(R.A) called Ghazali?
امام غزالیؒ کا خاندان غزالی کیوں کہلاتا ہے؟

(v) What type of temperament had Florence Nightingale?
فلورنس نائٹ انگیل کا مزاج کیسا تھا؟

(vi) Write the names of two books of Florence Nightingale.
فلورنس نائٹ انگیل کی دو کتابوں کے نام تحریر کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 16 = 8 x 2

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. What do you know about Jainism? Write in detail.
5۔ جین مت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔

6. Write a note on the existence and greatness of God and prove the existence of God with arguments.
6۔ خدا کی ہستی اور عظمت پر نوٹ تحریر کیجیے نیز خدا کے وجود کو دلائل سے ثابت کیجیے۔

7. Mention regards that are common for all worship places and the worship places of all religion are respectable. Discuss.
7۔ ایسے آداب بتائیے جو سب عبادت گاہوں کے لیے مشترک ہیں۔ نیز تمام مذاہب کی عبادت گاہیں قابلِ احترام ہیں۔ بحث کیجیے۔

51-2022(A)-500 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1041

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

اخلاقیات [غیر مسلم طلبا کے لئے، اسلامیات (لازمی) کے بجائے]

ETHICS [For Non-Muslims in lieu of ISLAMIAT (Compulsory)]

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

OBJECTIVE حصہ معروضی

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Religion emphasize _______ important aspects of human character. — مذہب نے انسانی نفس کے اعمال ظاہر کیے ہیں۔ (1)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(2) Teachings of religions are _______ human nature. — مذاہب کی تعلیمات انسانی فطرت کے ہوتی ہیں۔ (2)

(A) According to مطابق (B) Opposite to مخالف (C) Near to قریب (D) Far to بعید

(3) In seven ideologies of Jainism their complete __________ is accumulated. — جین مت کے سات نظریوں میں اُن کا سارا _____ سمٹ آیا ہے۔ (3)

(A) Religion مذہب (B) Philosophy فلسفہ (C) Religious philosophy مذہبی فلسفہ (D) Knowledge heritage علمی ورثہ

(4) Pershunath was _____ Teer Thinker. — پرشوناتھ تیر تھنکر تھے۔ (4)

(A) 23rd تیئیسویں (B) 24th چوبیسویں (C) 25th پچیسویں (D) 26th چھبیسویں

(5) ______ is included in Divine religions. — الہامی مذاہب میں شامل ہے۔ (5)

(A) Hinduism ہندومت (B) Jainism جین مت (C) Budhism بدھ مت (D) Judaism یہودیت

(6) First Church was built in: — پہلا گرجا گھر تعمیر ہوا۔ (6)

(A) Jerusalem یروشلم میں (B) Damascus دمشق میں (C) Istanbul استنبول میں (D) Rome روم میں

(7) Regards are _______. — آداب ہوتے ہیں۔ (7)

(A) Beauty of life حسن زندگی (B) Civilization factors تہذیبی عناصر

(C) Informal laws غیر رسمی قوانین (D) Etiquettes of life زندگی کے سلیقے

(8) Receive the visitors coming into office: — دفتر میں آنے والوں کا استقبال کریں۔ (8)

(A) To stand up اٹھ کر (B) With a smile مسکرا کر

(C) To say welcome خوش آمدید کہہ کر (D) To hand shake مصافحہ کر کے

(9) Imam Ghazali(R.A) got his early education in: — امام غزالیؒ نے ابتدائی تعلیم ______ میں حاصل کی۔ (9)

(A) Tus طوس (B) Jurjan جرجان (C) Baghdad بغداد (D) Nishapur نیشاپور

(10) Florence Nightingale established training centre for nurses in: — فلورنس نائٹ انگیل نے نرسوں کی تربیت گاہ قائم کی۔ (10)

(A) Florence فلورنس میں (B) Paris پیرس میں (C) Rome روم میں (D) London لندن میں

51(Obj)-2022(A)-500 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

208

9th A/22

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Food and Nutrition Session: 2022(A)

notespk.com

Q.Nos	Paper Code 1771	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	B			
2	C			
3	B			
4	A			
5	D			
6	C			
7	B			
8	A			
9	C			
10	D ~~B~~ ~~A~~			
11	B ~~D~~ ~~A~~			
12	D			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون ___غذا و غذائیت___ پرچہ ___نہم___ گروپ ___/___ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینر ز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 01 - 06 - 2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Dilshad Begum	SSS (Rtd)	G.G.H.S.S. Suraj Miani. Multan	03008630336	[signature]
2	Rukhsana Asad	S.S.T	G.G. H/School No2 Shujabad	03038245660	[signature]
3					
4					

PAPER CODE NUMBER: 1771

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______ 209

FOOD AND NUTRITION غذا اور غذائیت

TIME ALLOWED: 15 Minutes وقت = 15 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چارممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) What do healthy food provide to body? قوت بخش غذائیں جسم کو کیا فراہم کرتی ہیں؟ (1)

(A) Growth نشوونما (B) Energy حرارت وتوانائی (C) Food ingredients غذائی اجزا (D) Disease بیماری

(2) How does the colour of skin become due to lack of red cells of blood? خون کے سرخ ذرات نہ بننے سے رنگت کیسی ہو جاتی ہے؟ (2)

(A) White سفید (B) Blue نیلی (C) Yellow پیلی (D) Red سرخ

(3) Which type of qualities are contained by minerals? معدنی نمکیات کیسی خاصیت رکھتے ہیں؟ (3)

(A) Organic نامیاتی (B) Inorganic غیرنامیاتی (C) Chemical کیمیائی (D) Skeletal استخوانی

(4) Which type of food ingredients are not available in milk? دودھ میں کون سے غذائی اجزا موجود نہیں ہوتے؟ (4)

(A) Iron, vitamin C آئرن، وٹامن سی (B) Calcium and phosphorus کیلشیم اور فاسفورس (C) Protein and vitamin پروٹین اور وٹامن (D) Fats and starchy فیٹس اور سٹارچی

(5) Food are divided into _______ groups in food pyramid. فوڈ پرامڈ میں غذاؤں کو _______ گروہوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ (5)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(6) For which organ system, vegetables are beneficial? سبزیاں ہمارے کس نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہے؟ (6)

(A) Blood circulation دورانِ خون (B) Nervous system عصبی نظام (C) Stomach system معدے کا نظام (D) Respiratory system نظامِ تنفس

(7) 100 grams meat provides _____ grams protein. 100 گرام گوشت سے تقریباً _______ گرام پروٹین ملتی ہے۔ (7)

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

(8) How should we store the food which can spoil early? فوری خراب ہونے والی غذاؤں کو کیسے سٹور کرنا چاہیے؟ (8)

(A) In cold ٹھنڈک میں (B) Pack in boxes بند ڈبوں میں (C) In sun دھوپ میں (D) In air ہوا میں

(9) Protein is compound of: پروٹین کن کا مرکب ہے؟ (9)

(A) Foods کھانوں کا (B) Hydrogen and Oxygen ہائیڈروجن اور آکسیجن کا (C) Amino acids امینوایسڈز کا (D) Sugar and water چینی اور پانی کا

(10) In cold weather ______ do not spoil for long time. ٹھنڈے موسم میں _______ کئی روز تک خراب نہیں ہوتیں۔ (10)

(A) Milk دودھ (B) Tea چائے (C) Water پانی (D) Things اشیا

(11) In which food vitamin E is contained? وٹامن ای کن غذاؤں میں پایا جاتا ہے؟ (11)

(A) Animal source حیوانی ذرائع (B) Plant sources نباتاتی ذرائع (C) Fats روغنی (D) Protein پروٹین

(12) Protective foods provide _______ to health. حفاظتی غذائیں جسم کو _______ فراہم کرتی ہیں۔ (12)

(A) Heat and energy حرارت وتوانائی (B) Growth نشوونما (C) Nutrients غذائی اجزا (D) Protection from disease بیماریوں سے تحفظ

75(Obj)-2022(A)-400 **(MULTAN)**

رول نمبر

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

FOOD AND NUTRITION غذا اور غذائیت

TIME ALLOWED: 1.45 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 1.45 گھنٹے

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 48 — کل نمبر = 48

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5** سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write a brief note on Glucose. — گلوکوز پر مختصر نوٹ لکھیں۔

(ii) What is meant by Scurvy? — سکروی سے کیا مراد ہے؟

(iii) When does the satiety value occur? — شکم سیری کب ہوتی ہے؟

(iv) What happens due to antibodies in our body? — ضد اجسام سے کیا ہوتا ہے؟

(v) What are food nutrients? — غذائی اجزا کیا ہوتے ہیں؟

(vi) Describe the food sources. — غذائی ذرائع بیان کریں۔

(vii) What are the inorganic materials? — غیر نامیاتی مادے کیا ہوتے ہیں؟

(viii) Describe the effects of weight loss on health. — وزن کی کمی سے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟

3. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5** سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write note on Vitamin E. — وٹامن ای پر نوٹ لکھیں۔

(ii) Describe the importance of glycerol. — گلیسرول کی اہمیت بیان کریں۔

(iii) Which are the starchy foods? — نشاستہ دار غذائیں کون سی ہوتی ہیں؟

(iv) Which is called complete protein food? — مکمل پروٹین والی غذائیں کسے کہتے ہیں؟

(v) Describe the sources of Vitamin A and Vitamin D. — وٹامن اے اور وٹامن ڈی کے ذرائع بیان کریں۔

(vi) What are fresh food vitamin? — فریش فوڈ وٹامن کیا ہوتے ہیں؟

(vii) What is meant by 3G's? — 3G's سے کیا مراد ہے؟

(viii) Describe the chemical composition of protein. — پروٹین کی کیمیائی ساخت بیان کریں۔

4. Attempt any five parts. **10 = 2 x 5** سوال نمبر 4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Balanced diet. — متوازن غذا کی تعریف کریں۔

(ii) Write the reasons of rickets disease. — رکٹس کی وجوہات تحریر کریں۔

(iii) Explain interpretation food labels. — غذائی لیبل کی وضاحت کیجیے۔

(iv) What is meant by undernutrition? — غذا کی کمی سے کیا مراد ہے؟

(v) What are the signs of fresh fish? — مچھلی کے تازہ ہونے کی کیا علامات ہیں؟

(vi) Write the principles of purchase. — خریداری کے اصول تحریر کیجیے۔

(vii) Write two sources of Fats. — چکنائی کے دو ذرائع لکھیں۔

(viii) Why is iodine essential for human body? — آیوڈین جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. **18 = 6 x 3** نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Write the importance of balanced diet. Differentiate between balanced and unbalanced diet. 2 + 2 + 2 — متوازن غذا کی اہمیت تحریر کریں۔ نیز متوازن اور غیر متوازن غذا میں تفریق کریں۔ ۔5

6. Write the criteria for purchasing vegetables and fruits. — سبزیوں اور پھلوں کی خریداری کا طریقہ کار قلمبند کیجیے۔ ۔6

7. Write the important Minerals' functions in body and their deficiency effects. — اہم معدنی نمکیات کے جسم میں کام اور ان کی کمی کے اثرات تحریر کریں۔ ۔7

8. Why food nutrition effects on physical health and mental health? 3 + 3 — غذا جسمانی اور ذہنی صحت پر کیونکر اثر انداز ہوتی ہے؟ ۔8

9. Why foods must be properly stored? — غذاؤں کو صحیح طریقہ سے سٹور کرنا کیوں ضروری ہے؟ ۔9

75-2022(A)-400 (MULTAN)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: G. Maths. Session: 2020 – 2022

Group: 1st Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1261	Paper Code 1263	Paper Code 1265	Paper Code 1267
1	B	C	A	D
2	B	A	B	A
3	A	D	A	A
4	D	C	D	B
5	C	B	A	B
6	A	A	A	A
7	D	B	B	D
8	C	A	B	C
9	B	D	A	A
10	A	A	D	D
11	B	A	C	C
12	A	B	A	B
13	D	B	D	A
14	A	A	C	B
15	A	D	B	A
16				
17				
18				
19				
20				

Q. Nos	Paper Code 1262	Paper Code 1264	Paper Code 1266	Paper Code 1268
1	D	B	C	B
2	D	C	A	A
3	B	C	B	D
4	A	A	A	D
5	B	C	D	B
6	C	D	D	A
7	C	D	B	B
8	A	C	A	C
9	C	A	B	C
10	D	B	C	A
11	D	A	C	C
12	C	D	A	D
13	A	D	C	D
14	B	B	D	C
15	A	A	D	A
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون جنرل ریاضی پرچہ ______ گروپ I, II سکیم ______ میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated: ____________

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Shagufta Naz	SS	GGHSS Chah Bohar Wala	03065736500	
2	G. Murtaza Shakir	SSS	GHSS Bagar Sargana	03017200302	
3	Muhammad Abuzar	SST(SC)	Govt. M.A. Jinnah HS	0306-7336640	
4	Rana M. Akram	H.M	Govt. H/S Kotli Nijabat	03007318050	
5					

7/6/22

Re-Checked By ہم نے درج بالاسوالیہ پرچہ(انشائیہ+معروضی)،معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Muhammad Khan	SST(SC)	Govt. Comprehensive H.S.S. Multan	0302-9076472	
2	Naveed Akhter	SST(SC)	Govt Model H/S Shamsabad Multan	03006303672	
3					

8/6/22

تاریخ ______

PAPER CODE NUMBER: 1264	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر 112

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II
جنرل ریاضی گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Profit is earned when: نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر:۔ (1)

(A) SP = CP قیمت خرید = قیمت فروخت (B) SP > CP قیمت خرید > قیمت فروخت
(C) SP < CP قیمت خرید < قیمت فروخت (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(2) The company undertaking the act of insurance is called: کمپنی جو انشورنس کے عمل کو آگے بڑھاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ (2)

(A) Insurance انشورنس (B) Insured انشورڈ (C) Insurer انشورر (D) Insurance policy انشورنس پالیسی

(3) The extra amount earned by the bank on loan is named as: قرض دینے پر جو زائد رقم بنک واپس حاصل کرتا ہے اسے کہتے ہیں۔ (3)

(A) Bonus بونس (B) Premium پریمیم (C) Mark up مارک اپ (D) Profit منافع

(4) Taxes of the form of duties, motor vehicle taxes are called: ڈیوٹیز، موٹر وہیکل ٹیکس کی شکل میں ٹیکس کو کہتے ہیں۔ (4)

(A) Indirect tax بالواسطہ ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (C) Property tax جائیداد ٹیکس (D) Income tax انکم ٹیکس

(5) In a^n, 'n' is called: a^n میں 'n' کہلاتا ہے۔ (5)

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Exponent قوت نما (D) Base اساس

(6) $\sqrt{\sqrt{2}} = ?$ (6)

(A) 2^2 (B) 2 (C) $2^{\frac{1}{2}}$ (D) $2^{\frac{1}{4}}$

(7) A.M between $3\sqrt{3}$ and $\sqrt{3}$ is: $3\sqrt{3}$ اور $\sqrt{3}$ کا جمعی وسط ہے۔ (7)

(A) $4\sqrt{3}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $9\sqrt{3}$ (D) $2\sqrt{3}$

(8) If $R = \{(4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 4)\}$ then domain of R is: اگر $R = \{(4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 4)\}$ ہو تو ڈومین $(R) = ?$ (8)

(A) $\{4, 6\}$ (B) $\{4, 5\}$ (C) $\{4, 5, 6\}$ (D) $\{5, 6\}$

(9) If $U = \{1, 2, 3, 4\}$ and $A = \{4\}$ then $A^C = ?$ اگر $U = \{1, 2, 3, 4\}$ اور $A = \{4\}$ ہو تو $A^C = ?$ (9)

(A) $\{1, 2, 3\}$ (B) ϕ (C) $\{1\}$ (D) $\{1, 2, 3, 4\}$

(10) Graph of the equation in the form $y = c$ has y co-ordinate. مساوات $y = c$ کی شکل میں گراف پر y محدد کیا ہوتا ہے؟ (10)

(A) 1 (B) C (C) 0 (D) -1

(11) $\Sigma(x_i - \bar{X}) = 0$ is one of the properties of: $\Sigma(x_i - \bar{X}) = 0$ کو ______ کی خاصیت کہا جاتا ہے۔ (11)

(A) Arithmetic mean حسابی اوسط (B) Geometric mean ضربی اوسط (C) Harmonic mean ہارمونک اوسط (D) Mode عادہ

(12) $\frac{1}{3}$ in terms of percentage is: $\frac{1}{3}$ فی صد کی شکل میں ہے۔ (12)

(A) 3% (B) 1% (C) 33% (D) $33\frac{1}{3}\%$

(13) In a ratio $a : b$, "b" is called: $a : b$ کی نسبت میں "b" کہلاتا ہے۔ (13)

(A) Extreme انتہائی (B) Antecedent اینٹی سی ڈینٹ (C) Mean درمیان (D) Consequent کانسی کوئنٹ

(14) The share of a widow (in presence of children) in inherited property is: بیوہ کا وراثتی جائیداد میں حصہ (اولاد کی موجودگی میں) کتنا ہوگا؟ (14)

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

(15) Zakat on an amount of Rs.100,000 is: 100,000 روپے پر زکوٰۃ کی کٹوتی کیا ہے؟ (15)

(A) 2500 (B) 25000 (C) 2000 (D) 15000

35(Obj)(☆☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1266

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 113

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) If $R = \{(4,5),(5,4),(5,6),(6,4)\}$ then domain of R is: اگر $R = \{(4,5),(5,4),(5,6),(6,4)\}$ ہو تو $(R) = ?$ ڈومین (1)

(A) $\{4, 6\}$ (B) $\{4, 5\}$ (C) $\{4, 5, 6\}$ (D) $\{5, 6\}$

(2) If $U = \{1, 2, 3, 4\}$ and $A = \{4\}$ then $A^C = ?$ اگر $U = \{1, 2, 3, 4\}$ اور $A = \{4\}$ ہو تو $A^C = ?$ (2)

(A) $\{1, 2, 3\}$ (B) ϕ (C) $\{1\}$ (D) $\{1, 2, 3, 4\}$

(3) Graph of the equation in the form $y = c$ has y co-ordinate. مساوات $y = c$ کی شکل میں گراف پر y محدد کیا ہوتا ہے؟ (3)

(A) 1 (B) C (C) 0 (D) -1

(4) $\Sigma(x_i - \bar{X}) = 0$ is one of the properties of: $\Sigma(x_i - \bar{X}) = 0$ کو ______ کی خاصیت کہا جاتا ہے۔ (4)

(A) Arithmetic mean حسابی اوسط (B) Geometric mean ضربی اوسط (C) Harmonic mean ہارمونک اوسط (D) Mode عادہ

(5) $\frac{1}{3}$ in terms of percentage is: $\frac{1}{3}$ فی صد کی شکل میں ہے۔ (5)

(A) 3% (B) 1% (C) 33% (D) $33\frac{1}{3}\%$

(6) In a ratio $a : b$, "b" is called: $a : b$ کی نسبت میں "b" کہلاتا ہے۔ (6)

(A) Extreme انتہائی (B) Antecedent اینٹی سی ڈینٹ (C) Mean درمیان (D) Consequent کانسی کوئنٹ

(7) The share of a widow (in presence of children) in inherited property is: بیوہ کا وراثتی جائیداد میں حصہ (اولاد کی موجودگی میں) کتنا ہوگا؟ (7)

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

(8) Zakat on an amount of Rs.100,000 is: 100,000 روپے پر زکوٰۃ کی کٹوتی کیا ہے؟ (8)

(A) 2500 (B) 25000 (C) 2000 (D) 15000

(9) Profit is earned when: نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر: (9)

(A) SP = CP قیمت خرید = قیمت فروخت
(B) SP > CP قیمت خرید < قیمت فروخت
(C) SP < CP قیمت خرید > قیمت فروخت
(D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(10) The company undertaking the act of insurance is called: کمپنی جو انشورنس کے عمل کو آگے بڑھاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ (10)

(A) Insurance انشورنس (B) Insured انشورڈ (C) Insurer انشورر (D) Insurance policy انشورنس پالیسی

(11) The extra amount earned by the bank on loan is named as: قرض دینے پر جو زائد رقم بنک واپس حاصل کرتا ہے اسے کہتے ہیں۔ (11)

(A) Bonus بونس (B) Premium پریمیم (C) Mark up مارک اپ (D) Profit منافع

(12) Taxes of the form of duties, motor vehicle taxes are called: ڈیوٹیز، موٹر وہیکل ٹیکس کی شکل میں ٹیکس کو کہتے ہیں۔ (12)

(A) Indirect tax بالواسطہ ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (C) Property tax جائیداد ٹیکس (D) Income tax انکم ٹیکس

(13) In a^n, 'n' is called: a^n میں 'n' کہلاتا ہے۔ (13)

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Exponent قوت نما (D) Base اساس

(14) $\sqrt{\sqrt{2}} = ?$ $\sqrt{\sqrt{2}} = ?$ (14)

(A) 2^2 (B) 2 (C) $2^{\frac{1}{2}}$ (D) $2^{\frac{1}{4}}$

(15) A.M between $3\sqrt{3}$ and $\sqrt{3}$ is: $3\sqrt{3}$ اور $\sqrt{3}$ کا جمعی وسط ہے۔ (15)

(A) $4\sqrt{3}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $9\sqrt{3}$ (D) $2\sqrt{3}$

35(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: **1268**

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Graph of the equation in the form $y = c$ has y co-ordinate. مساوات $y = c$ کی شکل میں گراف پر y محدد کیا ہوتا ہے؟ (1)

(A) 1 (B) C (C) 0 (D) -1

(2) $\Sigma(x_i - \overline{X}) = 0$ is one of the properties of: $\Sigma(x_i - \overline{X}) = 0$ کو ______ کی خاصیت کہا جاتا ہے۔ (2)

(A) Arithmetic mean حسابی اوسط (B) Geometric mean ضربی اوسط (C) Harmonic mean ہارمونک اوسط (D) Mode عادہ

(3) $\frac{1}{3}$ in terms of percentage is: $\frac{1}{3}$ فی صدی شکل میں ہے۔ (3)

(A) 3% (B) 1% (C) 33% (D) $33\frac{1}{3}\%$

(4) In a ratio $a : b$, "b" is called: $a : b$ کی نسبت میں "b" کہلاتا ہے۔ (4)

(A) Extreme انتہائی (B) Antecedent اینٹی سی ڈینٹ (C) Mean درمیان (D) Consequent کانسی کوئنٹ

(5) The share of a widow (in presence of children) in inherited property is: بیوہ کا وراثتی جائیداد میں حصہ (اولاد کی موجودگی میں) کتنا ہوگا؟ (5)

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

(6) Zakat on an amount of Rs.100,000 is: 100,000 روپے پر زکوٰۃ کی کٹوتی کیا ہے؟ (6)

(A) 2500 (B) 25000 (C) 2000 (D) 15000

(7) Profit is earned when: نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر:۔ (7)

(A) SP = CP قیمت فروخت = قیمت خرید
(B) SP > CP قیمت فروخت > قیمت خرید
(C) SP < CP قیمت فروخت < قیمت خرید
(D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(8) The company undertaking the act of insurance is called: کمپنی جو انشورنس کے عمل کو آگے بڑھاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ (8)

(A) Insurance انشورنس (B) Insured انشورڈ (C) Insurer انشورر (D) Insurance policy انشورنس پالیسی

(9) The extra amount earned by the bank on loan is named as: قرض دینے پر جو زائد رقم بنک واپس حاصل کرتا ہے اسے کہتے ہیں۔ (9)

(A) Bonus بونس (B) Premium پریمیم (C) Mark up مارک اپ (D) Profit منافع

(10) Taxes of the form of duties, motor vehicle taxes are called: ڈیوٹیز، موٹر وہیکل ٹیکس کی شکل میں ٹیکس کو کہتے ہیں۔ (10)

(A) Indirect tax بالواسطہ ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (C) Property tax جائیداد ٹیکس (D) Income tax انکم ٹیکس

(11) In a^n, 'n' is called: a^n میں 'n' کہلاتا ہے۔ (11)

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Exponent قوت نما (D) Base اساس

(12) $\sqrt{\sqrt{2}} = ?$ $\sqrt{\sqrt{2}} = ?$ (12)

(A) 2^2 (B) 2 (C) $2^{\frac{1}{2}}$ (D) $2^{\frac{1}{4}}$

(13) A.M between $3\sqrt{3}$ and $\sqrt{3}$ is: $3\sqrt{3}$ اور $\sqrt{3}$ کا جمعی وسط ہے۔ (13)

(A) $4\sqrt{3}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $9\sqrt{3}$ (D) $2\sqrt{3}$

(14) If $R = \{ (4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 4) \}$ then domain of R is: اگر $R = \{ (4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 4) \}$ ہو تو $(R) = ?$ ڈومین (14)

(A) $\{4, 6\}$ (B) $\{4, 5\}$ (C) $\{4, 5, 6\}$ (D) $\{5, 6\}$

(15) If $U = \{1, 2, 3, 4\}$ and $A = \{4\}$ then $A^C = ?$ اگر $U = \{1, 2, 3, 4\}$ اور $A = \{4\}$ ہو تو $A^C = ?$ (15)

(A) $\{ 1, 2, 3 \}$ (B) ϕ (C) $\{ 1 \}$ (D) $\{ 1, 2, 3, 4 \}$

35(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1262

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) $\frac{1}{3}$ in terms of percentage is: — $\frac{1}{3}$ فی صدی شکل میں ہے۔

(A) 3% (B) 1% (C) 33% (D) $33\frac{1}{3}\%$

(2) In a ratio $a:b$, "b" is called: — $a:b$ کی نسبت میں "b" کہلاتا ہے۔

(A) Extreme انتہائی (B) Antecedent اینٹی سی ڈینٹ (C) Mean درمیان (D) Consequent کانسی کوئنٹ

(3) The share of a widow (in presence of children) in inherited property is: — بیوہ کا وراثتی جائیداد میں حصہ (اولاد کی موجودگی میں) کتنا ہوگا؟

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

(4) Zakat on an amount of Rs.100,000 is: — 100,000 روپے پر زکوٰۃ کی کٹوتی کیا ہے؟

(A) 2500 (B) 25000 (C) 2000 (D) 15000

(5) Profit is earned when: — نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر:۔

(A) SP = CP قیمت خرید = قیمت فروخت (B) SP > CP قیمت خرید > قیمت فروخت

(C) SP < CP قیمت خرید < قیمت فروخت (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(6) The company undertaking the act of insurance is called: — کمپنی جو انشورنس کے عمل کو آگے بڑھاتی ہے اسے کہتے ہیں۔

(A) Insurance انشورنس (B) Insured انشورڈ (C) Insurer انشورر (D) Insurance policy انشورنس پالیسی

(7) The extra amount earned by the bank on loan is named as: — قرض دینے پر جو زائد رقم بنک واپس حاصل کرتا ہے اسے کہتے ہیں۔

(A) Bonus بونس (B) Premium پریمیم (C) Mark up مارک اپ (D) Profit منافع

(8) Taxes of the form of duties, motor vehicle taxes are called: — ڈیوٹیز، موٹر وہیکل ٹیکس کی شکل میں ٹیکس کو کہتے ہیں۔

(A) Indirect tax بالواسطہ ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (C) Property tax جائیداد ٹیکس (D) Income tax انکم ٹیکس

(9) In a^n, 'n' is called: — a^n میں 'n' کہلاتا ہے۔

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Exponent قوت نما (D) Base اساس

(10) $\sqrt{\sqrt{2}} = ?$ — $\sqrt{\sqrt{2}} = ?$

(A) 2^2 (B) 2 (C) $2^{\frac{1}{2}}$ (D) $2^{\frac{1}{4}}$

(11) A.M between $3\sqrt{3}$ and $\sqrt{3}$ is: — $3\sqrt{3}$ اور $\sqrt{3}$ کا حسابی وسط ہے۔

(A) $4\sqrt{3}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $9\sqrt{3}$ (D) $2\sqrt{3}$

(12) If $R = \{(4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 4)\}$ then domain of R is: — اگر $R = \{(4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 4)\}$ ہو تو ڈومین $(R) = ?$

(A) $\{4, 6\}$ (B) $\{4, 5\}$ (C) $\{4, 5, 6\}$ (D) $\{5, 6\}$

(13) If $U = \{1, 2, 3, 4\}$ and $A = \{4\}$ then $A^C = ?$ — اگر $U = \{1, 2, 3, 4\}$ اور $A = \{4\}$ ہو تو $A^C = ?$

(A) $\{1, 2, 3\}$ (B) ϕ (C) $\{1\}$ (D) $\{1, 2, 3, 4\}$

(14) Graph of the equation in the form $y = c$ has y co-ordinate. — مساوات $y = c$ کی شکل میں گراف پر y محدد کیا ہوتا ہے؟

(A) 1 (B) C (C) 0 (D) -1

(15) $\sum(x_i - \overline{X}) = 0$ is one of the properties of : — $\sum(x_i - \overline{X}) = 0$ کو ______ کی خاصیت کہا جاتا ہے۔

(A) Arithmetic mean حسابی اوسط (B) Geometric mean ضربی اوسط (C) Harmonic mean ہارمونک اوسط (D) Mode عادہ

35(Obj)(☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1261

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes | **OBJECTIVE** حصہ معروضی | وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 | کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) 20% of 600 is — 600 کا 20% = ؟

(A) 12 (B) 120 (C) 20 (D) 200

(2) Fraction form of 70% is: — 70% کی کسری شکل ہے۔

(A) 7 (B) $\frac{7}{10}$ (C) $\frac{10}{7}$ (D) $\frac{7}{100}$

(3) Zakat is deducted at a rate of: — زکوٰۃ کی کٹوتی کس شرح سے ہوتی ہے؟

(A) 2.5% (B) 3.5% (C) 4.5% (D) 5.5%

(4) On a crop produced on natural resources, Ushr is deducted at a rate of: — قدرتی ذرائع سے کاشت کی گئی فصل پر عشر کی کٹوتی کی شرح کیا ہے؟

(A) 2.5% (B) 5% (C) 20% (D) 10%

(5) Profit is earned when: — نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر:۔

(A) SP = CP قیمت فروخت = قیمت خرید (B) SP < CP قیمت فروخت < قیمت خرید

(C) SP > CP قیمت فروخت > قیمت خرید (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(6) An instrument for payment order issued by a bank on the request of its customer is called: — چیک کی طرح کا انسٹرومنٹ جسے بینک نے گاہک کی درخواست پر جاری کیا ہو، اسے کہتے ہیں۔

(A) Pay order پے آرڈر (B) Cheque چیک (C) Bank draft بینک ڈرافٹ (D) Bill of exchange ایکسچینج کا بل

(7) The person or entity whose insurance is being done is called the: — وہ شخص یا چیز جس کی انشورنس کی جاتی ہو، اسے کہتے ہیں۔

(A) Insurer انشورر (B) Drawer ڈرار (C) Lesse لیزی (D) Insured انشورڈ

(8) The tax charged on all the taxable income is called: — وہ ٹیکس جو تمام قابل ٹیکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے، کہلاتا ہے۔

(A) Sales tax سیلز ٹیکس (B) Direct tax براہِ راست ٹیکس (C) Income tax انکم ٹیکس (D) Excise duty ایکسائز ڈیوٹی

(9) $\sqrt{3}$ is number: — $\sqrt{3}$ کیسا عدد ہے؟

(A) Rational ناطق (B) Irrational غیر ناطق (C) Natural قدرتی (D) An integer صحیح عدد

(10) $\sqrt[3]{7}$ is called: — $\sqrt[3]{7}$ کو کیا کہتے ہیں؟

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Rational number ناطق عدد (D) Integer صحیح عدد

(11) Fourth term of $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ is: — $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ کی چوتھی رقم کیا ہے؟

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{49}$ (C) $\frac{1}{81}$ (D) 0

(12) For 2, 6, 11, 17, --------, a_5 is: — 2, 6, 11, 17, -------- میں a_5 کی قیمت کیا ہے؟

(A) 24 (B) 30 (C) 21 (D) 22

(13) If A and B are two non-empty sets then $A \cup B = ?$ — اگر A اور B دو غیر خالی سیٹ ہوں تو $A \cup B = ?$

(A) ϕ (B) $A \cap B$ (C) $B \cap A$ (D) $B \cup A$

(14) The coordinates of origin are: — مبداء کے محددات کیا ہوتے ہیں؟

(A) (0, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (1, 0)

(15) If all numbers in a set are added together and the total is divided by the number of scores in the set is called: — اگر کسی مواد کی قیمتوں کو جمع کر کے مجموعہ کو ان کی کل تعداد پر تقسیم کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے۔

(A) Mean اوسط (B) Mode عادہ (C) Median وسطانیہ (D) Weighted mean اوزانی اوسط

33(Obj)(☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1263

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Profit is earned when: نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر:۔ (1)

(A) SP = CP قیمت خرید = قیمت فروخت (B) SP < CP قیمت خرید > قیمت فروخت
(C) SP > CP قیمت خرید < قیمت فروخت (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(2) An instrument for payment order issued by a bank on the request of its customer is called: چیک کی طرح کا انسٹرومنٹ جسے بینک نے گاہک کی درخواست پر جاری کیا ہو، اسے کہتے ہیں۔ (2)

(A) Pay order پے آرڈر (B) Cheque چیک (C) Bank draft بینک ڈرافٹ (D) Bill of exchange ایکسچینج کا بل

(3) The person or entity whose insurance is being done is called the: وہ شخص یا چیز جس کی انشورنس کی جاتی ہو، اسے کہتے ہیں۔ (3)

(A) Insurer انشورر (B) Drawer ڈرار (C) Lesse لیزی (D) Insured انشورڈ

(4) The tax charged on all the taxable income is called: وہ ٹیکس جو تمام قابل ٹیکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے، کہلاتا ہے۔ (4)

(A) Sales tax سیلز ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (C) Income tax انکم ٹیکس (D) Excise duty ایکسائز ڈیوٹی

(5) $\sqrt{3}$ is number: $\sqrt{3}$ کیسا عدد ہے؟ (5)

(A) Rational ناطق (B) Irrational غیر ناطق (C) Natural قدرتی (D) An integer صحیح عدد

(6) $\sqrt[3]{7}$ is called: $\sqrt[3]{7}$ کو کیا کہتے ہیں؟ (6)

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Rational number ناطق عدد (D) Integer صحیح عدد

(7) Fourth term of $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ is: $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ کی چوتھی رقم کیا ہے؟ (7)

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{49}$ (C) $\frac{1}{81}$ (D) 0

(8) For 2, 6, 11, 17, --------, a_5 is: 2, 6, 11, 17, -------- میں a_5 کی قیمت کیا ہے؟ (8)

(A) 24 (B) 30 (C) 21 (D) 22

(9) If A and B are two non-empty sets then $A \cup B = ?$ اگر A اور B دو غیر خالی سیٹ ہوں تو $A \cup B = ?$ (9)

(A) ϕ (B) $A \cap B$ (C) $B \cap A$ (D) $B \cup A$

(10) The coordinates of origin are: مبداء کے محددات کیا ہوتے ہیں؟ (10)

(A) (0, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (1, 0)

(11) If all numbers in a set are added together and the total is divided by the number of scores in the set is called: اگر کسی مواد کی قیمتوں کو جمع کر کے مجموعہ کو ان کی کل تعداد پر تقسیم کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے۔ (11)

(A) Mean اوسط (B) Mode عادہ (C) Median وسطانیہ (D) Weighted mean اوزانی اوسط

(12) 20% of 600 is 600 کا 20% = ؟ (12)

(A) 12 (B) 120 (C) 20 (D) 200

(13) Fraction form of 70% is: 70% کی کسری شکل ہے۔ (13)

(A) 7 (B) $\frac{7}{10}$ (C) $\frac{10}{7}$ (D) $\frac{7}{100}$

(14) Zakat is deducted at a rate of: زکوٰۃ کی کٹوتی کس شرح سے ہوتی ہے؟ (14)

(A) 2.5% (B) 3.5% (C) 4.5% (D) 5.5%

(15) On a crop produced on natural resources, Ushr is deducted at a rate of: قدرتی ذرائع سے کاشت کی گئی فصل پر عشر کی کٹوتی کی شرح کیا ہے؟ (15)

(A) 2.5% (B) 5% (C) 20% (D) 10%

33(Obj)(☆☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1265

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

118 رول نمبر

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) $\sqrt[3]{7}$ is called: — $\sqrt[3]{7}$ کو کیا کہتے ہیں؟ (1)

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Rational number ناطق عدد (D) Integer صحیح عدد

(2) Fourth term of $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ is: — $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ کی چوتھی رقم کیا ہے؟ (2)

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{49}$ (C) $\frac{1}{81}$ (D) 0

(3) For 2, 6, 11, 17, --------, a_5 is: — 2, 6, 11, 17, -------- میں a_5 کی قیمت کیا ہے؟ (3)

(A) 24 (B) 30 (C) 21 (D) 22

(4) If A and B are two non-empty sets then $A \cup B = ?$ — اگر A اور B دو غیر خالی سیٹ ہوں تو $A \cup B = ?$ (4)

(A) ϕ (B) $A \cap B$ (C) $B \cap A$ (D) $B \cup A$

(5) The coordinates of origin are: — مبداء کے محددات کیا ہوتے ہیں؟ (5)

(A) (0, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (1, 0)

(6) If all numbers in a set are added together and the total is divided by the number of scores in the set is called: — اگر کسی مواد کی قیمتوں کو جمع کر کے مجموعہ کو ان کی کل تعداد پر تقسیم کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے۔ (6)

(A) Mean اوسط (B) Mode عادہ (C) Median وسطانیہ (D) Weighted mean اوزانی اوسط

(7) 20% of 600 is — 600 کا 20% = ? (7)

(A) 12 (B) 120 (C) 20 (D) 200

(8) Fraction form of 70% is: — 70% کی کسری شکل ہے۔ (8)

(A) 7 (B) $\frac{7}{10}$ (C) $\frac{10}{7}$ (D) $\frac{7}{100}$

(9) Zakat is deducted at a rate of: — زکوۃ کی کٹوتی کس شرح سے ہوتی ہے؟ (9)

(A) 2.5% (B) 3.5% (C) 4.5% (D) 5.5%

(10) On a crop produced on natural resources, Ushr is deducted at a rate of: — قدرتی ذرائع سے کاشت کی گئی فصل پر عشر کی کٹوتی کی شرح کیا ہے؟ (10)

(A) 2.5% (B) 5% (C) 20% (D) 10%

(11) Profit is earned when: — نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر:۔ (11)

(A) SP = CP قیمت فروخت = قیمت خرید (B) SP < CP قیمت فروخت < قیمت خرید

(C) SP > CP قیمت فروخت > قیمت خرید (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(12) An instrument for payment order issued by a bank on the request of its customer is called: — چیک کی طرح کا انسٹرومنٹ جسے بینک نے گاہک کی درخواست پر جاری کیا ہو، اسے کہتے ہیں۔ (12)

(A) Pay order پے آرڈر (B) Cheque چیک (C) Bank draft بینک ڈرافٹ (D) Bill of exchange ایکسچینج کا بل

(13) The person or entity whose insurance is being done is called the: — وہ شخص یا چیز جس کی انشورنس کی جاتی ہو، اسے کہتے ہیں۔ (13)

(A) Insurer انشورر (B) Drawer ڈرار (C) Lesse لیزی (D) Insured انشورڈ

(14) The tax charged on all the taxable income is called: — وہ ٹیکس جو تمام قابل ٹیکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے، کہلاتا ہے۔ (14)

(A) Sales tax سیلز ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (C) Income tax انکم ٹیکس (D) Excise duty ایکسائز ڈیوٹی

(15) $\sqrt{3}$ is number: — $\sqrt{3}$ کیسا عدد ہے؟ (15)

(A) Rational ناطق (B) Irrational غیر ناطق (C) Natural قدرتی (D) An integer صحیح عدد

33(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1267

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 119

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) If A and B are two non-empty sets then $A \cup B = ?$ — اگر A اور B دوغیر خالی سیٹ ہوں تو $A \cup B = ?$

(A) ϕ (B) $A \cap B$ (C) $B \cap A$ (D) $B \cup A$

(2) The coordinates of origin are: — مبداء کے محددات کیا ہوتے ہیں؟

(A) (0, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (1, 0)

(3) If all numbers in a set are added together and the total is divided by the number of scores in the set is called: — اگر کسی مواد کی قیمتوں کو جمع کر کے مجموعہ کو ان کی کل تعداد پر تقسیم کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے۔

(A) Mean اوسط (B) Mode عادہ (C) Median وسطانیہ (D) Weighted mean اوزانی اوسط

(4) 20% of 600 is — 600 کا 20% = ؟

(A) 12 (B) 120 (C) 20 (D) 200

(5) Fraction form of 70% is: — 70% کی کسری شکل ہے۔

(A) 7 (B) $\frac{7}{10}$ (C) $\frac{10}{7}$ (D) $\frac{7}{100}$

(6) Zakat is deducted at a rate of: — زکوۃ کی کٹوتی کس شرح سے ہوتی ہے؟

(A) 2.5% (B) 3.5% (C) 4.5% (D) 5.5%

(7) On a crop produced on natural resources, Ushr is deducted at a rate of: — قدرتی ذرائع سے کاشت کی گئی فصل پر عشر کی کٹوتی کی شرح کیا ہے؟

(A) 2.5% (B) 5% (C) 20% (D) 10%

(8) Profit is earned when: — نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر:۔

(A) SP = CP قیمت فروخت = قیمت خرید (B) SP < CP قیمت فروخت > قیمت خرید

(C) SP > CP قیمت فروخت < قیمت خرید (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

(9) An instrument for payment order issued by a bank on the request of its customer is called: — چیک کی طرح کا انسٹرومنٹ جسے بینک نے گاہک کی درخواست پر جاری کیا ہو، اسے کہتے ہیں۔

(A) Pay order پے آرڈر (B) Cheque چیک (C) Bank draft بینک ڈرافٹ (D) Bill of exchange ایکسچینج کا بل

(10) The person or entity whose insurance is being done is called the: — وہ شخص یا چیز جس کی انشورنس کی جاتی ہو، اسے کہتے ہیں۔

(A) Insurer انشورر (B) Drawer ڈرار (C) Lesse لیزی (D) Insured انشورڈ

(11) The tax charged on all the taxable income is called: — وہ ٹیکس جو تمام قابل ٹیکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے، کہلاتا ہے۔

(A) Sales tax سیلز ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (C) Income tax انکم ٹیکس (D) Excise duty ایکسائز ڈیوٹی

(12) $\sqrt{3}$ is number: — $\sqrt{3}$ کیسا عدد ہے؟

(A) Rational ناطق (B) Irrational غیر ناطق (C) Natural قدرتی (D) An integer صحیح عدد

(13) $\sqrt[3]{7}$ is called: — $\sqrt[3]{7}$ کو کیا کہتے ہیں؟

(A) Radical جذر (B) Radicand مجذور (C) Rational number ناطق عدد (D) Integer صحیح عدد

(14) Fourth term of $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ is: — $a_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$ کی چوتھی رقم کیا ہے؟

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{49}$ (C) $\frac{1}{81}$ (D) 0

(15) For 2, 6, 11, 17, --------, a_5 is: — 2, 6, 11, 17, ------- میں a_5 کی قیمت کیا ہے؟

(A) 24 (B) 30 (C) 21 (D) 22

33(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 120

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 کل نمبر = 60

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

notespk.com

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Express 95% as fractions in their simplest form. 95% کو کسروں کی آسان شکل میں لکھیں۔ (i)

(ii) If 45% of the students in a school are girls, what is the percentage of boys? اگر ایک اسکول کے طلبہ میں سے 45% لڑکیاں ہوں تو لڑکوں کی تعداد فی صد کیا ہوگی؟ (ii)

(iii) Express the $\frac{5}{6}:\frac{7}{10}$ in its simplest form. $\frac{5}{6}:\frac{7}{10}$ کو آسان شکل میں لکھیں۔ (iii)

(iv) Find the Zakat on gold amounting to Rs.1110000. اگر سونے کی مالیت 1110000 روپے ہو تو اس پر زکوٰۃ معلوم کریں۔ (iv)

(v) Define Zakat. زکوٰۃ کی تعریف لکھیں۔ (v)

(vi) Define Profit. نفع کی تعریف لکھیں۔ (vi)

(vii) Find the SP = ? if CP = Rs.950 and Profit = 10% قیمت فروخت معلوم کریں اگر نفع = 10% اور قیمت خرید = 950 روپے (vii)

(viii) Find the MP, when SP = Rs. 515.20 and Discount = 8% درج شدہ قیمت معلوم کریں جبکہ چھوٹ = 8% اور قیمت فروخت = 515.20 روپے (viii)

(ix) Define Pay Order. پے آرڈر کی تعریف لکھیں۔ (ix)

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What sum would borrow in Rs. 174 as simple mark up at 5% in 4 years? اگر چار سال کی مدت کے لیے 5% کی سادہ شرح سے مارک اپ 174 روپے ہو تو ایک شخص کو کتنی رقم ادھار لینا ہوگی؟ (i)

(ii) Define Property Tax. پراپرٹی ٹیکس کی تعریف کیجیے۔ (ii)

(iii) Khalid works 6 day-week. Find his gross monthly wage, if his rate of pay is Rs. 200 per day خالد ہفتہ میں 6 دن کام کرتا ہے۔ اگر اسے 200 روپے یومیہ ادا کیا جائے تو اس کی مجموعی ماہانہ اجرت معلوم کیجیے۔ (iii)

(iv) Express in exponential form. $\sqrt{a^3}$ قوت نمائی شکل میں لکھیں۔ $\sqrt{a^3}$ (iv)

(v) Write 89.99 in scientific notation. 89.99 کو سائنسی ترقیم میں لکھیں۔ (v)

(vi) Simplify without using logarithm table. $\log 5 + \log 6 - \log 2$ لوگارتھم جدول استعمال کیے بغیر حل کیجیے۔ (vi)

(vii) Find the term indicated in the sequence $1, -3, 5, -7, ----, a_9$ سلسلہ میں نشاندہی کی گئی رقم معلوم کیجیے۔ (vii)

(viii) If $a_{n-3} = 2n - 12$ find a_n اگر $a_{n-3} = 2n - 12$ ہو تو a_n معلوم کیجیے۔ (viii)

(ix) Find G.M between 4 and 9. 4 اور 9 میں ضربی وسط معلوم کیجیے۔ (ix)

(ورق الٹئے)

121

4. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6** سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down the Demorgan's Law.

(i) ڈی مارگن کے قوانین لکھیے۔

(ii) If $A = \{3, 5, 6\}$ and $B = \{1, 3\}$ then find $B \times A$

(ii) اگر $A = \{3, 5, 6\}$ اور $B = \{1, 3\}$ ہو تو $B \times A$ معلوم کیجیے۔

(iii) اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ اور $A = \{2, 3, 5, 7\}$ ہو تو A^C معلوم کیجیے۔

(iii) If $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ and $A = \{2, 3, 5, 7\}$ then find A^C

(iv) Define Origin.

(iv) مبداء کی تعریف کیجیے۔

(v) Represent $A(2, -4)$ on the graph.

(v) $A(2, -4)$ کو گراف پر ظاہر کیجیے۔

(vi) Write the formula to convert Degrees Fahrenheit into Degrees Celsius.

(vi) درجہ فارن ہائیٹ کو درجہ سینٹی گریڈ میں تبدیل کرنے کا کلیہ لکھیے۔

(vii) Define variance and write its formula.

(vii) تغیریت کی تعریف کیجیے اور تغیریت معلوم کرنے کا کلیہ لکھیے۔

(viii) Find the range of given data 6, 8, 10, 14, 13, 12

(viii) دیے گئے مواد 6, 8, 10, 14, 13, 12 کی سعت معلوم کیجیے۔

(ix) For a data set 5, 4, 5, 4, 3, 4, 2, 6. Find the Median.

(ix) مواد کے سیٹ 5, 4, 5, 4, 3, 4, 2, 6 کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3 نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5۔(الف) ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 3 سینٹی میٹر، 4 سینٹی میٹر اور 6 سینٹی میٹر ہیں۔ مثلث کے اضلاع کی لمبائیوں کے درمیان نسبتیں معلوم کریں۔

5.(A) A triangle has sides of length 3cm, 4cm and 6cm. Find the ratio of lengths of the sides to one another.

(ب) اکرم نے 48,00,000 روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ، تین بیٹے اور چار بیٹیاں چھوڑیں۔ جائیداد میں ہر ایک کے حصہ کی مالیت معلوم کریں۔

(B) Akram left a property of worth Rs.48,00,000. He left behind a widow, three sons and four daughters. Calculate the share of each.

6.(A) Distribute Rs.720 as profit amongst three people so that their shares are in the ratio 3 : 4 : 5

6۔(الف) تین اشخاص میں 720 روپے نفع کی رقم تقسیم کیجیے اگر ان کے حصوں میں نسبت 3 : 4 : 5 ہو۔

(B) Find compound profit on Rs.600 for 4 years at 6 percent per annum.

(ب) 600 روپے پر 4 سال کے لیے 6% سالانہ شرح سے کمپاؤنڈ منافع معلوم کیجیے۔

7.(A) The price of a bicycle is Rs.3500. If 16% sales tax is charged, then calculate the amount of sales tax on 50 such bicycles.

7۔(الف) ایک بائیسکل کی قیمت 3500 روپے ہے اگر سیلز ٹیکس کی شرح 16% ہو تو ایسے 50 بائیسکل کی قیمت پر سیلز ٹیکس معلوم کیجیے۔

(B) Evaluate $2\log 5 + \log 8 - \frac{1}{2}\log 4$

(ب) حل کیجیے۔ $2\log 5 + \log 8 - \frac{1}{2}\log 4$

8.(A) Find three A.Ms between 11 and 19.

8۔(الف) 11 اور 19 کے درمیان تین جمعی وسط معلوم کیجیے۔

(B) Prove for following set $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(ب) درج ذیل سیٹوں کے لیے ثابت کیجیے۔

$A = \{1, 7, 11, 15, 17, 21\}$, $B = \{11, 17, 19, 23\}$, $C = \{2, 3, 5\}$

9.(A) Sketch the graph of the given line. $y = 4x + 1$

9۔(الف) دی ہوئی لائن کو گراف پیپر پر ظاہر کیجیے۔ $y = 4x + 1$

(B) Find standard deviation and variance of the given data.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11

(ب) درج ذیل مواد کے لیے معیاری انحراف اور تغیریت معلوم کیجیے۔

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11

33-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

notespk.com

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 122

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6** سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find the value of x in the proportion $20 : 50 :: 8 : x$ — $20 : 50 :: 8 : x$ کے تناسب میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔ (i)

(ii) علی کے والد کی ماہانہ تنخواہ 40000 روپے ہے جبکہ اس کے والد کا ماہانہ خرچ 35000 روپے ہے۔ تو آمدنی اور بچت میں نسبت معلوم کیجیے۔ (ii)

(ii) Ali's father earns a salary of Rs.40000 in a month while his father's monthly expenditures are Rs.35000. Find the ratio of his father's income to saving.

(iii) Express the decimal 0.5 as percentage. — اعشاریہ 0.5 کو فی صد میں تبدیل کیجیے۔ (iii)

(iv) Calculate the amount of Zakat on an amount of Rs. 500000. — 500000 روپے پر زکوٰۃ کی رقم معلوم کیجیے۔ (iv)

(v) Calculate the Ushr on a rice crop produced by natural resources amounting to Rs.600000. — قدرتی ذرائع سے پیداشدہ چاول کی فصل مالیتی 600000 روپے پر عشر معلوم کیجیے۔ (v)

(vi) Find SP when CP = Rs.9600 and Profit = 10% — قیمت فروخت معلوم کریں جبکہ نفع = 10% ، قیمت خرید = 9600 روپے (vi)

(vii) A bicycle was purchased for Rs.3450 and sold for Rs.3850. Find the profit. — ایک بائیسکل 3450 روپے میں خریدا گیا اور 3850 روپے میں فروخت کیا گیا۔ نفع معلوم کیجیے۔ (vii)

(viii) The marked price of a ceiling fan is Rs.720. It is sold for Rs.684. Find the discount. — ایک چھت والے پنکھے پر درج شدہ قیمت 720 روپے ہے۔ اس کو 684 روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ پنکھے کی قیمت پر کتنی چھوٹ دی گئی؟ (viii)

(ix) Convert 5000 Saudi Riyal to Pak rupees when rate of Saudi Riyal = 22.3449. — 5000 سعودی ریال کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کیجیے جبکہ سعودی ریال کا ریٹ = 22.3449 روپے (ix)

3. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6** سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find the simple profit if principal amount = Rs. 12,000, Profit rate = 8% and Time = 7 years. — سادہ منافع معلوم کریں اگر اصل زر = 12,000 روپے، منافع کی شرح = 8% اور مدت = 7 سال (i)

(ii) Define direct tax. — براہ راست ٹیکس کی تعریف کریں۔ (ii)

(iii) The price of a bicycle is Rs.3500. If 16% sales tax is charged, then calculate the amount of sales tax on it. — ایک بائیسکل کی قیمت 3500 روپے ہے۔ اگر 16% سیلز ٹیکس کی شرح ہو تو اس پر سیلز ٹیکس کی رقم معلوم کریں۔ (iii)

(iv) Write $(1000)^{\frac{2}{3}}$ in the radical form and evaluate it. — $(1000)^{\frac{2}{3}}$ کو جذری شکل میں لکھ کر حل کریں۔ (iv)

(v) Write 0.051 in scientific notation. — 0.051 کو سائنسی ترقیم میں لکھیے۔ (v)

(vi) If $\log x = 0.1597$, find x — اگر $\log x = 0.1597$ ہو تو x کی قیمت معلوم کریں۔ (vi)

(vii) Find 7th term of a G.P 2, 8, 32, --- — ضربی سلسلہ --- ,32 ,8 ,2 کی 7ویں رقم معلوم کریں۔ (vii)

(viii) Find the geometric mean between −2 and −8 — 2- اور 8- کے درمیان ضربی وسط معلوم کریں۔ (viii)

(ix) Find A.M between $\sqrt{7}$ and $3\sqrt{7}$ — $\sqrt{7}$ اور $3\sqrt{7}$ کے درمیان جمعی وسط معلوم کریں۔ (ix)

(ورق الٹیے)

4. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6** سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ اور $A = \{3, 4, 5\}$ ہو تو A^C معلوم کریں۔

(i) If $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ and $A = \{3, 4, 5\}$ Find A^C .

(ii) If $A = \{3, 5, 6\}$, $B = \{1, 3\}$ then find $B \times A$ — اگر $A = \{3, 5, 6\}$ ، $B = \{1, 3\}$ ہو تو $B \times A$ معلوم کریں۔ (ii)

notespk.com

(iii) Define Injective function. — ان جیکٹو فنکشن کی تعریف کریں۔ (iii)

(iv) Represent the point $C(-5, -1)$ on the graph. — نقطہ $C(-5, -1)$ کو گراف پر ظاہر کریں۔ (iv)

(v) Draw the graph of an equation $x = -2$ — مساوات $x = -2$ کا گراف کھینچیے۔ (v)

(vi) Convert 86^oC into ^oF — 86^oC کو ^oF میں تبدیل کریں۔ (vi)

(vii) Write two properties of Arithmetic mean. — حسابی اوسط کی دو خصوصیات بیان کریں۔ (vii)

(viii) Define Range and write its formula. — سعت کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا تحریر کریں۔ (viii)

(ix) Find mean of the given data 4, 6, 7, 4, 8, 9, 7, 10 — دیے گئے مواد 4, 6, 7, 4, 8, 9, 7, 10 کا اوسط معلوم کریں۔ (ix)

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. **24 = 8 x 3** نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) 14 cows consume 63kg of hay in 18 days. How many cows will eat 770kg of hay in 28 days at same rate?

5۔(الف) 14 گائے 63 کلوگرام چارا 18 دن میں کھاتی ہیں۔ 28 دن میں 770 کلوگرام چارا کتنی گائیں کھائیں گی؟

(ب) اگر ایک شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور دو بیٹے چھوڑے ہوں تو اس کی مالیتی وراثت 20,00,000 روپے میں سے ہر ایک کے حصہ کی مالیت معلوم کیجیے۔

(B) The inherited property amounting to Rs.20,00,000 is left by a deceased. He left behind a widow and two sons. Workout the share of each.

6۔(الف) ایک کپڑے دھونے والی مشین کی درج شدہ قیمت 3640 روپے ہے۔ اس کو 3367 روپے پر فروخت کیا جاتا ہے۔ مشین کی قیمت فروخت پر چھوٹ کتنے فی صد ہے؟

6.(A) The marked price of a washing machine is Rs.3640. During sale season it is sold for Rs.3367. Find the discount percentage.

(B) Find out compound profit on Rs.600 for 4 years at 6% per annum.

(ب) 600 روپے پر 4 سال کے لیے 6% سالانہ کی شرح سے کمپاؤنڈ منافع معلوم کیجیے۔

7۔(الف) نعمان ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ جہاں 35 گھنٹوں کے ہفتہ میں 50 روپے اُجرت فی گھنٹہ دی جاتی ہے۔ اضافی وقت کام کرنے پر 50 روپے فی گھنٹہ کا 1.5 گنا دیا جاتا ہے۔ وہ ہفتہ میں کتنا کمائے گا اگر وہ 48 گھنٹے کام کرتا ہے۔

7.(A) Noman works in a factory where basic hourly rate is Rs.50 for a 35 hour week. An over time is paid at time and-a-half. How much will he earn in a week when he works for 48 hours.

(B) Solve with help of Logarithm. $\frac{8.67 \times 3.94}{1.78}$

(ب) لوگرتھم کے جدول کی مدد سے حل کریں۔ $\frac{8.67 \times 3.94}{1.78}$

8.(A) If 3 and 6 are two AMs between a and b . Find a and b .

8۔(الف) اگر a اور b کے درمیان 3، 6 دو جمعی وسط ہیں تو a اور b معلوم کیجیے۔

(B) Find $(A \cup B) \cup C$ if $A = \{1, 4, 7, 8\}$, $B = \{4, 6, 8, 9\}$, $C = \{3, 4, 5, 7\}$

(ب) $(A \cup B) \cup C$ معلوم کریں اگر

9.(A) Draw the graph of $y = x - 1$

9۔(الف) $y = x - 1$ کا گراف بنائیں۔

(B) Find the median and mode for the set of the values 4, 6, 7, 4, 8, 9, 7, 10.

(ب) درج ذیل قیمتوں کے سیٹ 4, 6, 7, 4, 8, 9, 7, 10 کا وسطانیہ اور عادہ معلوم کریں۔

35-2022(A)-5000 **(MULTAN)**

Page 132 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: G. Science

Session: 2022

Group : 1st

Q. Nos	Paper Code 1091	Paper Code 1093	Paper Code 1095	Paper Code 1097
1	C	A	A	D
2	C	B	B	B
3	A	D	D	A
4	B	C	A	C
5	D	D	B	D
6	A	D	D	C
7	B	B	C	C
8	D	A	D	A
9	C	C	D	B
10	D	D	B	D
11	D	C	A	A
12	B	C	C	B
13	A	A	D	D
14	C	B	C	C
15	D	D	C	D
16				
17				
18				
19				
20				

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1092	Paper Code 1094	Paper Code 1096	Paper Code 1098
1	D	B	D	A
2	C	A	B	B
3	B	A	A	A
4	A	B	B	D
5	A	A	D	B
6	B	D	C	A
7	A	B	C	B
8	D	A	A	D
9	B	B	D	C
10	A	D	C	C
11	B	C	B	A
12	D	C	A	D
13	C	A	A	C
14	C	D	B	B
15	A	C	A	A
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون جنرل سائنس پرچہ ہم گروپ ______ سکیم ______ میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated: 02-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Muhammad Ramzan	SST(Sc)	GOVT H/S Khokhran	0335 7359188	
2	M. Kabir. Khan	SST (Sc)	H/S Mailsi	0301-6578858	
3	M. NAEEM TAHIR KHAN	HEADMASTER	GOVT H/S SURAJ MIAN MULTAN	0301-7496495	
4					
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ+معروضی)، معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Muhammad Yousaf Noon	SST(Sc)	Govt. Iqbal Sec. School Multan	0321-6313397	
2	M. Shahid Ashraf	Sr. H.M	Govt H/S Gulzarpur Multan	03017602774	
3					

تاریخ 03-06-2022

رول نمبر ____128____

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

GENERAL SCIENCE GROUP-I

جنرل سائنس گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — وقت = 2.10 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

notespk.com

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Astronomy. 02 — علم فلکیات کی تعریف کریں۔

(ii) Write any two contributions of Ibn-ul-Haitham. 1 + 1 — ابن الہیثم کے کوئی سے دو کارنامے لکھیں۔

(iii) Write down two benefits of Biotechnology. 1 + 1 — بائیوٹیکنالوجی کے دو فوائد تحریر کریں۔

(iv) Who is the only noble prize winner scientist of Pakistan? Write any one of his contribution. 1 + 1 — پاکستان کا واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان کون ہے؟ اُس کا کوئی ایک کارنامہ تحریر کریں۔

(v) Define respiration. 02 — ریسپریشن کی تعریف کریں۔

(vi) Write down any two roles of Nitrogen in air. 1 + 1 — ہوا میں نائٹروجن گیس کے کوئی سے دو کردار لکھیں۔

(vii) Write two uses of Magnesium. 1 + 1 — میگنیشیم کے دو استعمالات لکھیں۔

(viii) What is percentage composition of Argon in air? 02 — ہوا میں موجود آرگان کی فیصد ترکیب کیا ہے؟

(ix) Write down two important characteristics of Graphite. 1 + 1 — گریفائٹ کے دو اہم خواص لکھیں۔

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write the difference between Plasma and Serum. 1 + 1 — پلازما اور سیرم میں کیا فرق ہے؟

(ii) Define vaccine and give its one example. 1 + 1 — ویکسین کی تعریف کریں اور ایک مثال دیجیے۔

(iii) What is the role of enzymes in every day life? 02 — روزمرہ زندگی میں انزائمز کا کیا کردار ہے؟

(iv) What is the role of Bio-technology in agriculture? 02 — بائیوٹیکنالوجی کا زراعت میں کیا کردار ہے؟

(v) Define first aid and give its one example. 1 + 1 — فرسٹ ایڈ کی تعریف کریں اور ایک مثال دیجیے۔

(vi) Write names of any four carbohydrates. 02 — چار کاربوہائیڈریٹس کے نام لکھیے۔

(vii) Write four benefits of exercise. 02 — ورزش کے چار فوائد تحریر کریں۔

(viii) What is meant by balanced diet? 02 — متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟

(ix) What is the difference between rickets and osteomalacia? 1 + 1 — رکٹس اور اوسٹیوملیشیا میں کیا فرق ہے؟

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How does the malaria spread? 02 — ملیریا کس طرح پھیلتا ہے؟

(ii) Write the names of four diseases caused by virus. 4 x ½ — وائرس سے پیدا ہونے والی چار بیماریوں کے نام لکھیں۔

(iii) What is meant by oro-faecal route? 02 — اوروفیکل روٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is Tar? 02 — ٹار کیا ہے؟

(v) Write two effects of green house effect on environment. 1 + 1 — گرین ہاؤس ایفیکٹ کے ماحول پر دو اثرات لکھیں۔

(vi) What is smog? 02 — سموگ کیا ہے؟

(vii) Write two uses of silicon. 1 + 1 — سلیکون کے دو استعمالات لکھیں۔

(viii) What are pollutants? 02 — پولیوٹینٹس کیا ہیں؟

(ix) What is meant by fisheries? 02 — ماہی پروری سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) Write full name of Al-Razi and explain his services in the field of science. 1 + 3 — 5۔(الف) الرازی کا مکمل نام لکھیے اور اُس کی سائنسی میدان میں خدمات کی وضاحت کریں۔

(B) Write basic building elements of life and explain importance of carbon. 2 + 2 — (ب) زندگی کے بنیادی تعمیراتی ایلیمنٹس کون سے ہیں نیز کاربن کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

6.(A) What is DNA? Write its role as hereditary material. 1 + 3 — 6۔(الف) ڈی این اے کیا ہے؟ اس کا کردار بحیثیت وراثتی مادہ تحریر کریں۔

(B) State human blood group system in detail. 04 — (ب) انسانی خون کے گروپ سسٹم کو تفصیل سے بیان کریں۔

7.(A) In case of coma and eye injury, write note on first aid. 2 + 2 — 7۔(الف) بے ہوش ہو جانے اور آنکھ کے زخم کی صورت میں فرسٹ ایڈ پر نوٹ لکھیے۔

(B) Write a note on any two water soluble vitamins. 2 + 2 — (ب) پانی میں حل پذیر کوئی سے دو وٹامنز پر نوٹ لکھیے۔

8.(A) Write a note on Diphtheria. 04 — 8۔(الف) ڈفتھیریا پر نوٹ لکھیں۔

(B) Write note on any two parasitic diseases. 2 + 2 — (ب) کوئی سی دو پیراسائٹک بیماریوں پر نوٹ لکھیں۔

9.(A) How do human activities affect environment? 05 — 9۔(الف) انسانی سرگرمیاں ماحول کو کس طرح سے متاثر کرتی ہیں؟

(B) Write a note on importance of wildlife. 03 — (ب) جنگلی حیات کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔

41-2022(A)-11000 **(MULTAN)**

Page 134 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

PAPER CODE NUMBER: 1091

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________ 126

GENERAL SCIENCE GROUP-I

جنرل سائنس گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 **سوال نمبر 1۔**

(1) The era of Islamic Chemistry was from: اسلامی کیمیا گری کا دور تھا۔ (1)
(A) 700 AD to 800 AD (B) 500 AD to 1000 AD (C) 600 AD to 1400 AD (D) 700 AD to 1200 AD

(2) Pin-Hole camera was discovered by: پن ہول کیمرہ ایجاد ہے۔ (2)
(A) Al-Bairuni البیرونی کی (B) Bu-Ali-Sina بوعلی سینا کی (C) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم کی (D) Al-Razi الرازی کی

(3) The study of sun and moon is called: سورج اور چاند کے علم کو کہتے ہیں۔ (3)
(A) Astronomy علم فلکیات (B) Biology بائیولوجی (C) Chemistry کیمسٹری (D) Zoology زوالوجی

(4) The quantity of Sodium in the leaves of plants is: پودوں کے پتوں میں سوڈیم کی مقدار ہوتی ہے۔ (4)
(A) 0.1 to 10 % 0.1 سے 10 فیصد (B) 0.01 to 10 % 0.01 سے 10 فیصد
(C) 0.001 to 10% 0.001 سے 10 فیصد (D) 0.1 to 0.5 % 0.1 سے 0.5 فیصد

(5) The proportion of Nitrogen in air by volume is: ہوا میں نائٹروجن کا تناسب بلحاظ حجم ہوتا ہے۔ (5)
(A) 20 % 20 فیصد (B) 25 % 25 فیصد (C) 0.9 % 0.9 فیصد (D) 78 % 78 فیصد

(6) Word vaccine is derived from _______ language. لفظ ویکسین _______ زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ (6)
(A) Latin لاطینی (B) Greek یونانی (C) English انگلش (D) German جرمن

(7) Base pairs in human genome are: انسانی جینوم میں بیس پیئرز ہوتے ہیں۔ (7)
(A) 2.2 billion 2.2 بلین (B) 3.2 billion 3.2 بلین (C) 4.2 billion 4.2 بلین (D) 5.2 billion 5.2 بلین

(8) Cellulose is an example of: سیلولوز مثال ہے۔ (8)
(A) Fats فیٹس کی (B) Proteins پروٹینز کی (C) Vitamins وٹامنز کی (D) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس کی

(9) The disease which is caused in children due to vitamin "D" deficiency is: وٹامن "D" کی کمی کی وجہ سے بچوں میں بیماری ہوتی ہے۔ (9)
(A) Scurvy سکروی (B) T.B ٹی۔بی (C) Rickets رکٹس (D) Anaemia انیمیا

(10) The inflammation of the liver is called: جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ (10)
(A) Measles خسرہ (B) Cough کھانسی (C) Malaria ملیریا (D) Hepatitis ہیپاٹائیٹس

(11) At the age of _______, the child should get measles vaccination done. خسرہ کا ٹیکہ بچوں کو _______ کی عمر میں لگنا چاہیے۔ (11)
(A) At birth پیدائش پر (B) One month ایک ماہ (C) 3 month تین ماہ (D) 9 month نو ماہ

(12) Antibiotics drugs are used against the: اینٹی بائیوٹکس ادویات کس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں؟ (12)
(A) Viral diseases وائرل بیماریوں کے (B) Bacterial diseases بیکٹیریل بیماریوں کے
(C) Fungal diseases فنگل بیماریوں کے (D) Algal diseases الگل بیماریوں کے

(13) Height of troposphere is: ٹروپوسفیئر کی بلندی ہے۔ (13)
(A) 18 km 18 کلومیٹر (B) 15 km 15 کلومیٹر (C) 20 km 20 کلومیٹر (D) 25 km 25 کلومیٹر

(14) An increase in earth's surface temperature caused by increase in green house gases is called: گرین ہاؤس گیسوں کے اضافہ کی وجہ سے سطح زمین کے ٹمپریچر میں اضافہ کو _______ کہتے ہیں۔ (14)
(A) Fossil fuels فوسل فیولز (B) Ozone اوزون (C) Global warming گلوبل وارمنگ (D) Recycling ری سائیکلنگ

(15) Pakistan's population in 1998 was: 1998ء میں پاکستان کی آبادی تھی۔ (15)
(A) 0.135 million 0.135 ملین (B) 13.5 million 13.5 ملین (C) 135 million 135 ملین (D) 130.5 million 130.5 ملین

41(Obj)(☆)-2022(A)-11000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1093

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

GENERAL SCIENCE GROUP-I

جنرل سائنس گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

وقت = 20 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Word vaccine is derived from _______ language. لفظ ویکسین _______ زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ (1)

(A) Latin لاطینی (B) Greek یونانی (C) English انگلش (D) German جرمن

(2) Base pairs in human genome are: انسانی جینوم میں بیس پیئرز ہوتے ہیں۔ (2)

(A) 2.2 billion 2.2 بلین (B) 3.2 billion 3.2 بلین (C) 4.2 billion 4.2 بلین (D) 5.2 billion 5.2 بلین

(3) Cellulose is an example of: سیلولوز مثال ہے۔ (3)

(A) Fats فیٹس کی (B) Proteins پروٹینز کی (C) Vitamins وٹامنز کی (D) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس کی

(4) The disease which is caused in children due to vitamin "D" deficiency is: وٹامن "D" کی کمی کی وجہ سے بچوں میں بیماری ہوتی ہے۔ (4)

(A) Scurvy سکروی (B) T.B ٹی۔بی (C) Rickets رکٹس (D) Anaemia انیمیا

(5) The inflammation of the liver is called: جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ (5)

(A) Measles خسرہ (B) Cough کھانسی (C) Malaria ملیریا (D) Hepatitis ہیپاٹائیٹس

(6) At the age of _______, the child should get measles vaccination done. خسرہ کا ٹیکہ بچوں کو _______ کی عمر میں لگنا چاہیے۔ (6)

(A) At birth پیدائش پر (B) One month ایک ماہ (C) 3 month تین ماہ (D) 9 month نو ماہ

(7) Antibiotics drugs are used against the: اینٹی بائیوٹکس ادویات کس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں؟ (7)

(A) Viral diseases وائرل بیماریوں کے (B) Bacterial diseases بیکٹیریل بیماریوں کے

(C) Fungal diseases فنگل بیماریوں کے (D) Algal diseases الگل بیماریوں کے

(8) Height of troposphere is: ٹروپوسفیئر کی بلندی ہے۔ (8)

(A) 18 km 18 کلومیٹر (B) 15 km 15 کلومیٹر (C) 20 km 20 کلومیٹر (D) 25 km 25 کلومیٹر

(9) An increase in earth's surface temperature caused by increase in green house gases is called: گرین ہاؤس گیسوں کے اضافہ کی وجہ سے سطح زمین کے ٹمپریچر میں اضافہ کو _______ کہتے ہیں۔ (9)

(A) Fossil fuels فوسل فیولز (B) Ozone اوزون (C) Global warming گلوبل وارمنگ (D) Recycling ری سائیکلنگ

(10) Pakistan's population in 1998 was: 1998ء میں پاکستان کی آبادی تھی۔ (10)

(A) 0.135 million 0.135 ملین (B) 13.5 million 13.5 ملین (C) 135 million 135 ملین (D) 130.5 million 130.5 ملین

(11) The era of Islamic Chemistry was from: اسلامی کیمیا گری کا دور تھا۔ (11)

(A) 700 AD to 800 AD (B) 500 AD to 1000 AD (C) 600 AD to 1400 AD (D) 700 AD to 1200 AD

(12) Pin-Hole camera was discovered by: پن ہول کیمرہ ایجاد ہے۔ (12)

(A) Al-Bairuni البیرونی کی (B) Bu-Ali-Sina بوعلی سینا کی (C) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم کی (D) Al-Razi الرازی کی

(13) The study of sun and moon is called: سورج اور چاند کے علم کو کہتے ہیں۔ (13)

(A) Astronomy علم فلکیات (B) Biology بائیولوجی (C) Chemistry کیمسٹری (D) Zoology زوالوجی

(14) The quantity of Sodium in the leaves of plants is: پودوں کے پتوں میں سوڈیم کی مقدار ہوتی ہے۔ (14)

(A) 0.1 to 10 % 0.1 سے 10 فیصد (B) 0.01 to 10 % 0.01 سے 10 فیصد

(C) 0.001 to 10% 0.001 سے 10 فیصد (D) 0.1 to 0.5 % 0.1 سے 0.5 فیصد

(15) The proportion of Nitrogen in air by volume is: ہوا میں نائٹروجن کا تناسب بلحاظ حجم ہوتا ہے۔ (15)

(A) 20 % 20 فیصد (B) 25 % 25 فیصد (C) 0.9 % 0.9 فیصد (D) 78 % 78 فیصد

41(Obj)(☆☆)-2022(A)-11000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1095

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 128

GENERAL SCIENCE GROUP-I

جنرل سائنس گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The study of sun and moon is called: — سورج اور چاند کے علم کو کہتے ہیں۔ (1)
(A) Astronomy علم فلکیات (B) Biology بائیولوجی (C) Chemistry کیمسٹری (D) Zoology زوالوجی

(2) The quantity of Sodium in the leaves of plants is: — پودوں کے پتوں میں سوڈیم کی مقدار ہوتی ہے۔ (2)
(A) 0.1 to 10 % 0.1 سے 10 فیصد (B) 0.01 to 10 % 0.01 سے 10 فیصد
(C) 0.001 to 10% 0.001 سے 10 فیصد (D) 0.1 to 0.5 % 0.1 سے 0.5 فیصد

(3) The proportion of Nitrogen in air by volume is: — ہوا میں نائٹروجن کا تناسب بلحاظ حجم ہوتا ہے۔ (3)
(A) 20 % 20 فیصد (B) 25 % 25 فیصد (C) 0.9 % 0.9 فیصد (D) 78 % 78 فیصد

(4) Word vaccine is derived from _______ language. — لفظ ویکسین _______ زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ (4)
(A) Latin لاطینی (B) Greek یونانی (C) English انگلش (D) German جرمن

(5) Base pairs in human genome are: — انسانی جینوم میں بیس پیئرز ہوتے ہیں۔ (5)
(A) 2.2 billion 2.2 بلین (B) 3.2 billion 3.2 بلین (C) 4.2 billion 4.2 بلین (D) 5.2 billion 5.2 بلین

(6) Cellulose is an example of: — سیلولوز مثال ہے۔ (6)
(A) Fats فیٹس کی (B) Proteins پروٹینز کی (C) Vitamins وٹامنز کی (D) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس کی

(7) The disease which is caused in children due to vitamin "D" deficiency is: — وٹامن "D" کی کمی کی وجہ سے بچوں میں بیماری ہوتی ہے۔ (7)
(A) Scurvy سکروی (B) T.B ٹی۔بی (C) Rickets رکٹس (D) Anaemia انیمیا

(8) The inflammation of the liver is called: — جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ (8)
(A) Measles خسرہ (B) Cough کھانسی (C) Malaria ملیریا (D) Hepatitis ہیپاٹائیٹس

(9) At the age of ______, the child should get measles vaccination done. — خسرہ کا ٹیکہ بچوں کو ______ کی عمر میں لگنا چاہیے۔ (9)
(A) At birth پیدائش پر (B) One month ایک ماہ (C) 3 month تین ماہ (D) 9 month نو ماہ

(10) Antibiotics drugs are used against the: — اینٹی بائیوٹکس ادویات کس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں؟ (10)
(A) Viral diseases وائرل بیماریوں کے (B) Bacterial diseases بیکٹریل بیماریوں کے
(C) Fungal diseases فنگل بیماریوں کے (D) Algal diseases الگل بیماریوں کے

(11) Height of troposphere is: — ٹروپوسفیئر کی بلندی ہے۔ (11)
(A) 18 km 18 کلومیٹر (B) 15 km 15 کلومیٹر (C) 20 km 20 کلومیٹر (D) 25 km 25 کلومیٹر

(12) An increase in earth's surface temperature caused by increase in green house gases is called: — گرین ہاؤس گیسوں کے اضافہ کی وجہ سے سطح زمین کے ٹمپریچر میں اضافہ کو _______ کہتے ہیں۔ (12)
(A) Fossil fuels فوسل فیولز (B) Ozone اوزون (C) Global warming گلوبل وارمنگ (D) Recycling ری سائیکلنگ

(13) Pakistan's population in 1998 was: — 1998ء میں پاکستان کی آبادی تھی۔ (13)
(A) 0.135 million 0.135 ملین (B) 13.5 million 13.5 ملین (C) 135 million 135 ملین (D) 130.5 million 130.5 ملین

(14) The era of Islamic Chemistry was from: — اسلامی کیمیا گری کا دور تھا۔ (14)
(A) 700 AD to 800 AD (B) 500 AD to 1000 AD (C) 600 AD to 1400 AD (D) 700 AD to 1200 AD

(15) Pin-Hole camera was discovered by: — پن ہول کیمرہ ایجاد ہے۔ (15)
(A) Al-Bairuni البیرونی کی (B) Bu-Ali-Sina بوعلی سینا کی (C) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم کی (D) Al-Razi الرازی کی

41(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-11000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1097

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

GENERAL SCIENCE GROUP-I

جنرل سائنس گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ- ہرسوال کے چارممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1-

(1) At the age of _______, the child should get measles vaccination done. خسرہ کا ٹیکہ بچوں کو _______ کی عمر میں لگنا چاہیے۔ (1)
(A) At birth پیدائش پر (B) One month ایک ماہ (C) 3 month تین ماہ (D) 9 month نو ماہ

(2) Antibiotics drugs are used against the: اینٹی بائیوٹکس ادویات کس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں؟ (2)
(A) Viral diseases وائرل بیماریوں کے (B) Bacterial diseases بیکٹیریل بیماریوں کے
(C) Fungal diseases فنگل بیماریوں کے (D) Algal diseases الگل بیماریوں کے

(3) Height of troposphere is: ٹروپوسفیئر کی بلندی ہے۔ (3)
(A) 18 km 18 کلومیٹر (B) 15 km 15 کلومیٹر (C) 20 km 20 کلومیٹر (D) 25 km 25 کلومیٹر

(4) An increase in earth's surface temperature caused by increase in green house gases is called: گرین ہاؤس گیسوں کے اضافہ کی وجہ سے سطح زمین کے ٹمپریچر میں اضافہ کو _______ کہتے ہیں۔ (4)
(A) Fossil fuels فوسل فیولز (B) Ozone اوزون (C) Global warming گلوبل وارمنگ (D) Recycling ری سائیکلنگ

(5) Pakistan's population in 1998 was: 1998ء میں پاکستان کی آبادی تھی۔ (5)
(A) 0.135 million 0.135 ملین (B) 13.5 million 13.5 ملین (C) 135 million 135 ملین (D) 130.5 million 130.5 ملین

(6) The era of Islamic Chemistry was from: اسلامی کیمیا گری کا دور تھا۔ (6)
(A) 700 AD to 800 AD (B) 500 AD to 1000 AD (C) 600 AD to 1400 AD (D) 700 AD to 1200 AD

(7) Pin-Hole camera was discovered by: پن ہول کیمرہ ایجاد ہے۔ (7)
(A) Al-Bairuni البیرونی کی (B) Bu-Ali-Sina بوعلی سینا کی (C) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم کی (D) Al-Razi الرازی کی

(8) The study of sun and moon is called: سورج اور چاند کے علم کو کہتے ہیں۔ (8)
(A) Astronomy علم فلکیات (B) Biology بائیولوجی (C) Chemistry کیمسٹری (D) Zoology زوالوجی

(9) The quantity of Sodium in the leaves of plants is: پودوں کے پتوں میں سوڈیم کی مقدار ہوتی ہے۔ (9)
(A) 0.1 to 10 % 0.1 سے 10 فیصد (B) 0.01 to 10 % 0.01 سے 10 فیصد
(C) 0.001 to 10% 0.001 سے 10 فیصد (D) 0.1 to 0.5 % 0.1 سے 0.5 فیصد

(10) The proportion of Nitrogen in air by volume is: ہوا میں نائٹروجن کا تناسب بلحاظ حجم ہوتا ہے۔ (10)
(A) 20 % 20 فیصد (B) 25 % 25 فیصد (C) 0.9 % 0.9 فیصد (D) 78 % 78 فیصد

(11) Word vaccine is derived from _______ language. لفظ ویکسین _______ زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ (11)
(A) Latin لاطینی (B) Greek یونانی (C) English انگلش (D) German جرمن

(12) Base pairs in human genome are: انسانی جینوم میں بیس پیئرز ہوتے ہیں۔ (12)
(A) 2.2 billion 2.2 بلین (B) 3.2 billion 3.2 بلین (C) 4.2 billion 4.2 بلین (D) 5.2 billion 5.2 بلین

(13) Cellulose is an example of: سیلولوز مثال ہے۔ (13)
(A) Fats فیٹس کی (B) Proteins پروٹینز کی (C) Vitamins وٹامنز کی (D) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس کی

(14) The disease which is caused in children due to vitamin "D" deficiency is: وٹامن "D" کی کمی کی وجہ سے بچوں میں بیماری ہوتی ہے۔ (14)
(A) Scurvy سکروی (B) T.B ٹی۔بی (C) Rickets رکٹس (D) Anaemia انیمیا

(15) The inflammation of the liver is called: جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ (15)
(A) Measles خسرہ (B) Cough کھانسی (C) Malaria ملیریا (D) Hepatitis ہیپاٹائیٹس

41(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-11000 (MULTAN)

notespk.com

رول نمبر 130

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

GENERAL SCIENCE GROUP-II

جنرل سائنس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — وقت = 2.10 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**

سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Describe the basic principle of Science. — سائنس کا بنیادی اصول بیان کریں۔

(ii) Write down the names of two books of Jabir Bin Hayyan. — جابر بن حیان کی دو کتابوں کے نام تحریر کریں۔

(iii) When and where was Dr. Abdus-Salam born? — ڈاکٹر عبدالسلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

(iv) Define Physics and Chemistry. — فزکس اور کیمسٹری کی تعریف کریں۔

(v) Define photosynthesis and write its equation. — فوٹوسنتھیسز کی تعریف کریں اور مساوات تحریر کریں۔

(vi) Compare the two properties of diamond and graphite. — ہیرا اور گریفائٹ کی دو خصوصیات کا موازنہ کریں۔

(vii) Write a short note on Nitrogen Cycle. — نائٹروجن چکر پر مختصر نوٹ لکھیں۔

(viii) Describe the uses of Noble Gases Krypton and Neon. — نوبل گیسز کرپٹان اور نیون کے استعمالات بیان کریں۔

(ix) What is PVC? What is the use of it? — PVC کیا ہے؟ یہ ہمارے کس کام آتا ہے؟

3. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**

سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are components of blood? — خون کے کون کون سے اجزا ہیں؟

(ii) Define DNA replication. — ڈی این اے ریپلیکیشن کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write the names of three main types of cells in blood. — بلڈ میں پائے جانے والے خلیوں کی تین بڑی اقسام کے نام لکھیے۔

(iv) Define Genetic Engineering. — جینیٹک انجینئرنگ کی تعریف کیجیے۔

(v) What is role of Calcium in our body? — ہمارے جسم میں کیلیم کا کردار کیا ہے؟

(vi) Write about the diet for old persons. — عمر رسیدہ بوڑھوں کی خوراک کے بارے میں لکھیے۔

(vii) What is size and function of Pituitary Gland? 1 + 1 — پچوٹری گلینڈ کا سائز اور فعل لکھیے۔

(viii) Define Aging. — ایجنگ کی تعریف کیجیے۔

(ix) What is meant by First Aid? — فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے؟

4. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**

سوال نمبر4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write the names of different agents causing diseases. — بیماری پھیلانے والے مختلف ذرائع کے نام لکھیں۔

(ii) Define Pain-Killers with example. — پین کلرز کی تعریف کریں۔ مثال بھی دیں۔

(iii) What is Delirium? Write its symptoms. — ڈیلیریم کیا ہے؟ اس کی علامات لکھیں۔

(iv) How does Hepatitis spread in people? — ہیپاٹائٹس لوگوں میں کیسے پھیلتا ہے؟

(v) Write two methods of conservation of natural resources. — قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کے کوئی سے دو طریقوں کے نام لکھیں۔

(vi) Describe effects of migration. — نقل مکانی کے اثرات بیان کریں۔

(vii) What is the importance of fishries? — ماہی پروری کی کیا اہمیت ہے؟

(viii) Describe two effects of fossil fuel on environment. 1 + 1 — فوسل فیول کے ماحول پر دو اثرات بیان کریں۔

(ix) Write characteristics of Stratosphere. — سٹریٹوسفیئر کی خصوصیات لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. **24 = 8 x 3**

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) Define Physics. What is the role of science and technology in our life? 1 + 3 — 5۔(الف) فزکس کی تعریف کریں۔ ہماری زندگی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے؟

(B) Write a note on the role of Nitrogen gas in air. 4 — (ب) ہوا میں نائٹروجن گیس کے کردار پر نوٹ لکھیے۔

6.(A) Write a note on DNA as Hereditary Material. 4 — 6۔(الف) ڈی این اے بطور وراثتی مادہ پر نوٹ لکھیں۔

(B) What is Metabolism? Explain its different types. 1 + 3 — (ب) میٹابولزم کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف اقسام بیان کیجیے۔

7.(A) Explain protein as major food component. 4 — 7۔(الف) پروٹین بطور اہم غذائی جزو کی وضاحت کریں۔

(B) Write first aid measures in case of eye injury and coma. 2 + 2 — (ب) آنکھ کے زخم اور بے ہوش ہو جانے کی صورت میں دی جانے والی فرسٹ ایڈ اقدامات لکھیے۔

8.(A) Write symptoms and treatment of Measles. 2 + 2 — 8۔(الف) خسرہ کی علامات اور علاج تحریر کریں۔

(B) How does the AIDS spread? Write its preventive measures. 1 + 3 — (ب) ایڈز کیسے پھیلتی ہے؟ اس کے احتیاطی اقدامات تحریر کریں۔

9.(A) Describe any five measures to reduce pollution. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 — 9۔(الف) آلودگی کے خاتمے کی کوئی سی پانچ تدابیر بیان کیجیے۔

(B) Describe the conservation of natural resources. 3 — (ب) قدرتی وسائل کے تحفظ کو بیان کیجیے۔

43-2022(A)-6000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1092

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 131

GENERAL SCIENCE GROUP-II

جنرل سائنس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Who invented Pin-Hole camera? پن ہول کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ (1)

(A) Bu Ali Sina بوعلی سینا (B) Al-Bairuni البیرونی (C) Jabir Bin Hayyan جابر بن حیان (D) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم

(2) Al-Bairuni's books on mathematics are about: البیرونی کی ریاضی پر لکھی جانے والی کتابیں تقریباً ہیں۔ (2)

(A) 50 (B) 100 (C) 150 (D) 700

(3) The process of Photosynthesis is also called: فوٹوسنتھیسز کا عمل کہلاتا ہے۔ (3)

(A) Respiration ریسپریشن (B) Anabolic اینابولک (C) Catabolic کیٹابولک (D) Reduction ریڈکشن

(4) The name of the hardest substance in the universe is: کائنات کی سخت ترین شے کا نام ہے۔ (4)

(A) Diamond ہیرا (B) Graphite گریفائیٹ (C) Bucky Balls بکی بالز (D) Coal کول

(5) Metabolism consists of ________ parts. میٹابولزم ______ اجزا پر مشتمل ہوتا ہے۔ (5)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(6) The end product of Carbohydrate is: کاربوہائیڈریٹ کا حتمی حاصل ہے۔ (6)

(A) Fat فیٹ (B) Sugar شوگر (C) Protein پروٹین (D) Salt نمک

(7) Types of lipids are: روغنیات کی اقسام ہیں۔ (7)

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

(8) Hemoglobin is: ہیموگلوبن ہے۔ (8)

(A) Fat فیٹ (B) Oil تیل (C) Vitamin وٹامن (D) Protein پروٹین

(9) At room temperature fats are: عام درجہ حرارت پر فیٹس ہوتے ہیں۔ (9)

(A) Liquid مائع (B) Solid ٹھوس (C) Gas گیس (D) Vapours بخارات

(10) Psychosis is a ________ disease. سائیکوسس ایک بیماری ہے۔ (10)

(A) Mental دماغ کی (B) Skin جلد کی (C) Stomach معدہ کی (D) Heart دل کی

(11) The name of AIDS' virus is: ایڈز کے وائرس کا نام ہے۔ (11)

(A) HBV (B) HIV (C) HAV (D) HIC

(12) It is a fungal disease: یہ ایک فنگل بیماری ہے۔ (12)

(A) Thread worm تھریڈ ورم (B) Round worm راؤنڈ ورم (C) Hock worm ہک ورم (D) Ring worm رنگ ورم

(13) Temperature of Thermosphere is: تھرموسفیئر کا درجہ حرارت ہے۔ (13)

(A) $1000^{o}C$ (B) $1500^{o}C$ (C) $2000^{o}C$ (D) $2500^{o}C$

(14) The proportion of carbondioxide in air is: ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب ہے۔ (14)

(A) 40 % (B) 0.4 % (C) 0.04 % (D) .004 %

(15) Ultraviolet Radiations cause disease: الٹراوائلٹ شعاعیں بیماری پیدا کرتی ہیں۔ (15)

(A) Cancer کینسر (B) Measles خسرہ (C) AIDS ایڈز (D) T.B ٹی۔بی

43(Obj)(☆)-2022(A)-6000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1094

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 132

GENERAL SCIENCE GROUP-II

جنرل سائنس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The process of Photosynthesis is also called: فوٹوسنتھیسز کا عمل کہلاتا ہے۔ (1)

(A) Respiration ریسپیریشن (B) Anabolic اینابولک (C) Catabolic کیٹابولک (D) Reduction ریڈکشن

(2) The name of the hardest substance in the universe is: کائنات کی سخت ترین شے کا نام ہے۔ (2)

(A) Diamond ہیرا (B) Graphite گریفائیٹ (C) Bucky Balls بکی بالز (D) Coal کول

(3) Metabolism consists of _______ parts. میٹابولزم _______ اجزا پر مشتمل ہوتا ہے۔ (3)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(4) The end product of Carbohydrate is: کاربوہائیڈریٹ کا حتمی حاصل ہے۔ (4)

(A) Fat فیٹ (B) Sugar شوگر (C) Protein پروٹین (D) Salt نمک

(5) Types of lipids are: روغنیات کی اقسام ہیں۔ (5)

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

(6) Hemoglobin is: ہیموگلوبن ہے۔ (6)

(A) Fat فیٹ (B) Oil تیل (C) Vitamin وٹامن (D) Protein پروٹین

(7) At room temperature fats are: عام درجہ حرارت پر فیٹس ہوتے ہیں۔ (7)

(A) Liquid مائع (B) Solid ٹھوس (C) Gas گیس (D) Vapours بخارات

(8) Psychosis is a _______ disease. سائیکوسس ایک بیماری ہے۔ (8)

(A) Mental دماغ کی (B) Skin جلد کی (C) Stomach معدہ کی (D) Heart دل کی

(9) The name of AIDS' virus is: ایڈز کے وائرس کا نام ہے۔ (9)

(A) HBV (B) HIV (C) HAV (D) HIC

(10) It is a fungal disease: یہ ایک فنگل بیماری ہے۔ (10)

(A) Thread worm تھریڈ ورم (B) Round worm راؤنڈ ورم (C) Hock worm ہک ورم (D) Ring worm رنگ ورم

(11) Temperature of Thermosphere is: تھرموسفیئر کا درجہ حرارت ہے۔ (11)

(A) 1000°C (B) 1500°C (C) 2000°C (D) 2500°C

(12) The proportion of carbondioxide in air is: ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب ہے۔ (12)

(A) 40 % (B) 0.4 % (C) 0.04 % (D) .004 %

(13) Ultraviolet Radiations cause disease: الٹراوائلٹ شعاعیں بیماری پیدا کرتی ہیں۔ (13)

(A) Cancer کینسر (B) Measles خسرہ (C) AIDS ایڈز (D) T.B ٹی۔بی

(14) Who invented Pin-Hole camera? پن ہول کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ (14)

(A) Bu Ali Sina بوعلی سینا (B) Al-Bairuni البیرونی (C) Jabir Bin Hayyan جابر بن حیان (D) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم

(15) Al-Bairuni's books on mathematics are about: البیرونی کی ریاضی پر لکھی جانے والی کتابیں تقریباً ہیں۔ (15)

(A) 50 (B) 100 (C) 150 (D) 700

43(Obj)(☆☆)-2022(A)-6000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1096

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 133

GENERAL SCIENCE GROUP-II جنرل سائنس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Hemoglobin is: ہیموگلوبن ہے۔ (1)
(A) Fat فیٹ (B) Oil تیل (C) Vitamin وٹامن (D) Protein پروٹین

(2) At room temperature fats are: عام درجہ حرارت پر فیٹس ہوتے ہیں۔ (2)
(A) Liquid مائع (B) Solid ٹھوس (C) Gas گیس (D) Vapours بخارات

(3) Psychosis is a _______ disease. سائیکوسس ایک بیماری ہے۔ (3)
(A) Mental دماغ کی (B) Skin جلد کی (C) Stomach معدہ کی (D) Heart دل کی

(4) The name of AIDS' virus is: ایڈز کے وائرس کا نام ہے۔ (4)
(A) HBV (B) HIV (C) HAV (D) HIC

(5) It is a fungal disease: یہ ایک فنگل بیماری ہے۔ (5)
(A) Thread worm تھریڈورم (B) Round worm راؤنڈورم (C) Hock worm ہک ورم (D) Ring worm رنگ ورم

(6) Temperature of Thermosphere is: تھرموسفیئر کا درجہ حرارت ہے۔ (6)
(A) $1000^{o}C$ (B) $1500^{o}C$ (C) $2000^{o}C$ (D) $2500^{o}C$

(7) The proportion of carbondioxide in air is: ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب ہے۔ (7)
(A) 40 % (B) 0.4 % (C) 0.04 % (D) .004 %

(8) Ultraviolet Radiations cause disease: الٹراوائلٹ شعاعیں بیماری پیدا کرتی ہیں۔ (8)
(A) Cancer کینسر (B) Measles خسرہ (C) AIDS ایڈز (D) T.B ٹی۔بی

(9) Who invented Pin-Hole camera? پن ہول کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ (9)
(A) Bu Ali Sina بوعلی سینا (B) Al-Bairuni البیرونی (C) Jabir Bin Hayyan جابر بن حیان (D) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم

(10) Al-Bairuni's books on mathematics are about: البیرونی کی ریاضی پر لکھی جانے والی کتابیں تقریباً ہیں۔ (10)
(A) 50 (B) 100 (C) 150 (D) 700

(11) The process of Photosynthesis is also called: فوٹوسنتھیسز کا عمل کہلاتا ہے۔ (11)
(A) Respiration ریسپریشن (B) Anabolic اینابولک (C) Catabolic کیٹابولک (D) Reduction ریڈکشن

(12) The name of the hardest substance in the universe is: کائنات کی سخت ترین شے کا نام ہے۔ (12)
(A) Diamond ہیرا (B) Graphite گریفائیٹ (C) Bucky Balls بکی بالز (D) Coal کول

(13) Metabolism consists of _______ parts. میٹابولزم _______ اجزا پر مشتمل ہوتا ہے۔ (13)
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(14) The end product of Carbohydrate is: کاربوہائیڈریٹ کا حتمی حاصل ہے۔ (14)
(A) Fat فیٹ (B) Sugar شوگر (C) Protein پروٹین (D) Salt نمک

(15) Types of lipids are: روغنیات کی اقسام ہیں۔ (15)
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

43(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-6000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1098

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 134

GENERAL SCIENCE GROUP-II جنرل سائنس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Metabolism consists of ________ parts. میٹابولزم ______ اجزا پر مشتمل ہوتا ہے۔ (1)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(2) The end product of Carbohydrate is: کاربوہائیڈریٹ کا حتمی حاصل ہے۔ (2)

(A) Fat فیٹ (B) Sugar شوگر (C) Protein پروٹین (D) Salt نمک

(3) Types of lipids are: روغنیات کی اقسام ہیں۔ (3)

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

(4) Hemoglobin is: ہیموگلوبن ہے۔ (4)

(A) Fat فیٹ (B) Oil تیل (C) Vitamin وٹامن (D) Protein پروٹین

(5) At room temperature fats are: عام درجہ حرارت پر فیٹس ہوتے ہیں۔ (5)

(A) Liquid مائع (B) Solid ٹھوس (C) Gas گیس (D) Vapours بخارات

(6) Psychosis is a ________ disease. سائیکوسس ایک بیماری ہے۔ (6)

(A) Mental دماغ کی (B) Skin جلد کی (C) Stomach معدہ کی (D) Heart دل کی

(7) The name of AIDS' virus is: ایڈز کے وائرس کا نام ہے۔ (7)

(A) HBV (B) HIV (C) HAV (D) HIC

(8) It is a fungal disease: یہ ایک فنگل بیماری ہے۔ (8)

(A) Thread worm تھریڈ ورم (B) Round worm راؤنڈ ورم (C) Hock worm ہک ورم (D) Ring worm رنگ ورم

(9) Temperature of Thermosphere is: تھرموسفیئر کا درجہ حرارت ہے۔ (9)

(A) 1000^{o}C (B) 1500^{o}C (C) 2000^{o}C (D) 2500^{o}C

(10) The proportion of carbondioxide in air is: ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب ہے۔ (10)

(A) 40 % (B) 0.4 % (C) 0.04 % (D) .004 %

(11) Ultraviolet Radiations cause disease: الٹراوائلٹ شعاعیں بیماری پیدا کرتی ہیں۔ (11)

(A) Cancer کینسر (B) Measles خسرہ (C) AIDS ایڈز (D) T.B ٹی۔بی

(12) Who invented Pin-Hole camera? پن ہول کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ (12)

(A) Bu Ali Sina بوعلی سینا (B) Al-Bairuni البیرونی (C) Jabir Bin Hayyan جابر بن حیان (D) Ibn-ul-Haitham ابن الہیثم

(13) Al-Bairuni's books on mathematics are about: البیرونی کی ریاضی پر لکھی جانے والی کتابیں تقریباً ہیں۔ (13)

(A) 50 (B) 100 (C) 150 (D) 700

(14) The process of Photosynthesis is also called: فوٹوسنتھیسز کا عمل کہلاتا ہے۔ (14)

(A) Respiration ریسپریشن (B) Anabolic اینابولک (C) Catabolic کیٹابولک (D) Reduction ریڈکشن

(15) The name of the hardest substance in the universe is: کائنات کی سخت ترین شے کا نام ہے۔ (15)

(A) Diamond ہیرا (B) Graphite گریفائیٹ (C) Bucky Balls بکی بالز (D) Coal کول

43(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-6000 (MULTAN)

168

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

A/22

Name of Subject: GEOGRAPHY Session: 2020 – 22

notespk.com

Q.Nos	Paper Code 1121	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	B			
2	B			
3	D			
4	A			
5	C			
6	A			
7	D			
8	C			
9	B			
10	D			
11	A			
12	D			
13	C			
14	B			
15	A			
16				
17				
18				
19				
20				

سر ٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون ___جغرافیہ___ پرچہ ____A____ گروپ ___NIL___ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 09-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	RAO MASOOM ALI	SS	GHSS MAKHDOOM PUR	0301-7476226	[signature]
2			DISTRICT KHANEWAL		
3					
4					

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 169

GEOGRAPHY جغرافیہ

TIME ALLOWED: 2.10 Hours **SUBJECTIVE حصہ انشائیہ** وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 **سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔**

(i) Define Geography according to Ratzal. رٹزل کے مطابق جغرافیہ کی تعریف بیان کیجیے۔

(ii) Define Climatology Geography. موسمیاتی جغرافیہ کی تعریف کیجیے۔

(iii) Explain relationship of Geography and Botany. جغرافیہ اور علم نباتات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(iv) Where was Abu Abdullah Muhammad Ibn Adrisi born and from where he got education? ابوعبداللہ محمد ابن ادریسی کہاں پیدا ہوئے اور کہاں سے تعلیم حاصل کی؟

(v) Which Muslim Scientist measured the diameter of Earth? زمین کا قطر کس مسلمان سائنسدان نے پیمائش کیا؟

(vi) Write down the name of nearest planet of the Sun. سورج کے قریب ترین سیارہ کا نام تحریر کیجیے۔

(vii) How many sub planets Jupiter has? مشتری کے تابع سیاروں کی تعداد کتنی ہے؟

(viii) Define Lines of Longitude. خطوط طول بلد کی تعریف کیجیے۔

(ix) Explain GMT briefly. GMT کو مختصراً واضح کیجیے۔

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 **سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔**

(i) Which metals are found in the Mantle? مینٹل میں کون کون سی دھاتیں پائی جاتی ہیں؟

(ii) Define Glaciers. گلیشیرز کی تعریف بیان کیجیے۔

(iii) Define Active Volcanoes. زندہ آتش فشاں کی تعریف کیجیے۔

(iv) At which stage river makes Delta? '' ڈیلٹا '' دریا کی کس منزل میں بنتا ہے؟

(v) How much is the depth of Mariana Trench in meters? ماریانہ ٹرینچ کی گہرائی کتنے میٹرز ہے؟

(vi) Explain the Sea. بحیرہ کی وضاحت کیجیے۔

(vii) Define Spring Tides. مدوجزر اکبر کی وضاحت کیجیے۔

(viii) Write any two names of Pacific Ocean's Currents. بحرالکاہل کی دو رووں کے نام لکھیں۔

(ix) Write down the effects of Oceanic Currents on Trade. بحری رووں کے تجارت پر اثرات تحریر کیجیے۔

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 **سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔**

(i) Explain Ionosphere. آئنوسفیئر کی وضاحت کیجیے۔

(ii) Explain Exosphere. ایگزوسفیئر کی وضاحت کیجیے۔

(iii) Explain Conduction. عمل انتقال حرارت کی وضاحت کیجیے۔

(iv) Write two factors which affect temperature. درجہ حرارت پر اثر انداز ہونے والے دو عوامل تحریر کیجیے۔

(v) Define the term Isotherms. خطوط مساوی الحرارت کی تعریف بیان کیجیے۔

(vi) Write the names of two types of Barometer. بیرومیٹر کی دو اقسام کے نام تحریر کیجیے۔

(vii) Define Planetary Winds. دائمی ہواؤں کی تعریف کیجیے۔

(viii) Explain Sea Breeze. نسیم بحری کی وضاحت کیجیے۔

(ix) Write down the name of the instrument which measures the rainfall. بارش ناپنے والے آلے کا نام تحریر کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3 **نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔**

5. Write the branches of Human Geography in detail. 5۔ انسانی جغرافیہ کی شاخیں تفصیل سے لکھیے۔

6. Explain Lunar and Solar Eclipses with diagrams. 6۔ چاند اور سورج گرہن کی وضاحت اشکال کی مدد سے کیجیے۔

7. Write the effects of mountains on Human Life. 7۔ پہاڑوں کے انسانی زندگی پر اثرات لکھیے۔

8. Write effects of Oceans on Human Life. 8۔ سمندروں کے انسانی زندگی پر اثرات لکھیے۔

9. Write the composition of the Atmosphere. 9۔ کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی تحریر کیجیے۔

97-2022(A)-50 **(MULTAN)**

PAPER CODE

NUMBER: 1121

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________ 170

GEOGRAPHY — OBJECTIVE حصہ معروضی — جغرافیہ

notespk.com

TIME ALLOWED: 20 Minutes وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The real founders of Geography were the: علم جغرافیہ کے اصل بانی ______ تھے۔
(A) British برطانوی (B) Greeks یونانی (C) French فرانسیسی (D) Arabians عربی

(2) Al-Muqadsi was born in: المقدسی پیدا ہوا تھا۔
(A) 847ء میں 847 AD (B) 947ء میں 947 AD (C) 1047ء میں 1047 AD (D) 1147ء میں 1147 AD

(3) Name of the famous book of Ibn-e-Batoota is: ابن بطوطہ کی مشہور کتاب کا نام ہے۔
(A) Kitab-ul-Hind کتاب الہند (B) Al-Qanoon القانون (C) Shape of the Earth زمین کی صورت (D) Rehla رحلہ

(4) Equatorial diameter of Earth is: زمین کا استوائی قطر ہے۔
(A) 12746 kms کلومیٹرز (B) 12747 kms کلومیٹرز (C) 12748 kms کلومیٹرز (D) 12749 kms کلومیٹرز

(5) Total area of surface of earth is approximately ________ square kilometers. زمین کی سطح کا کل رقبہ تقریباً ______ مربع کلومیٹر ہے۔
(A) 315,000,000 (B) 315,100,000 (C) 315,200,000 (D) 315,300,000

(6) The shortest distance between the Earth and the Sun is in the month of: زمین کا سورج سے کم سے کم فاصلہ ماہ ______ ہوتا ہے۔
(A) January جنوری میں (B) February فروری میں (C) June جون میں (D) July جولائی میں

(7) Pothwar plateau is situated in the mountain range of: سطح مرتفع پوٹھوہار کس سلسلہ ہائے کوہ میں واقع ہے؟
(A) Karakoram قراقرم (B) Rocky راکی (C) Salt Range کوہستان نمک (D) Himalaya ہمالیہ

(8) At least ________ of population of the world lives in plains. دنیا کی کم از کم ______ آبادی میدانوں میں رہتی ہے۔
(A) 60% (B) 70% (C) 80% (D) 90%

(9) The valley of Nile is situated in: دریائے نیل کی وادی ______ میں واقع ہے۔
(A) Pakistan پاکستان (B) Egypt مصر (C) India بھارت (D) China چین

(10) The average depth of Atlantic Ocean is ______ meters. بحر اوقیانوس کو اوسط گہرائی ______ میٹر ہے۔
(A) 3900 (B) 3910 (C) 3920 (D) 3930

(11) The area of Antarctic Ocean is ________ million square kilometers. بحر منجمد جنوبی کا رقبہ ______ ملین مربع کلومیٹر ہے۔
(A) 22 (B) 23 (C) 24 (D) 25

(12) Arctic Ocean remain freezed in a year for: بحر منجمد شمالی سال میں ______ منجمد رہتا ہے۔
(A) 6 months چھ ماہ (B) 7 months سات ماہ (C) 8 months آٹھ ماہ (D) 9 months نو ماہ

(13) Decrease in temperature at every 100 meters altitude is: درجہ حرارت میں کمی ہر سو میٹرز کی بلندی پر ______ ہے۔
(A) 6^oC (B) 7^oC (C) 0.6^oC (D) 0.7^oC

(14) Monsoon winds are ________ winds. مون سون ہوائیں ______ ہوائیں ہوتی ہیں۔
(A) Local مقامی (B) Seasonal موسمی (C) Polar قطبی (D) Permanent مستقل

(15) The clouds formed at the highest altitude are: سب سے زیادہ بلندی پر ______ بادل بنتے ہیں۔
(A) Cirrus سرس (B) Nimbus نمبس (C) Stratus سٹریٹس (D) Cumulus کیولس

97(Obj)-2022(A)-50 **(MULTAN)**

(178)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC Part-I 9th. ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: History of Islam Session: 2022.

9th A/22

notespk.com

Q.Nos	Paper Code 1081	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	D			
2	B			
3	A			
4	C			
5	B			
6	C			
7	B			
8	D			
9	B			
10	D			
11	A			
12	C			
13	D			
14	A			
15	C			
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون تاریخ اسلام ___پرچہ__________گروپ__________ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیارکردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 04-6-22

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	M. Aslam Siddiqui	SSS	GHSS Ailampur Multan	03007342057	[signature]
2	شاہد امین	SS	گورنمنٹ HSS تلمبہ میاں چنوں	03012708189	[signature]
3					
4					

2022 (A)

رول نمبر ________

(181)

SSC PART-I (9th CLASS)

HISTORY OF ISLAM
تاریخ اسلام

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — وقت = 2.10 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6
سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by Ka'aba? By whom it was constructed? — خانہ کعبہ سے کیا مراد ہے اور یہ کس نے تعمیر کیا؟

(ii) Who was Qusai Bin Kilab? — قصی بن کلاب کون تھا؟

(iii) Which religions were practised in Arabs before the advent of Islam? — عربوں میں قبل از اسلام کون کون سے مذاہب رائج تھے؟

(iv) What is meant by Adnan? — عدنان سے کیا مراد ہے؟

(v) Who was Hazrat Haleema? Which tribe she belonged to? — حضرت حلیمہؓ کون تھیں؟ آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟

(vi) When and where was the first revelation of Allah sent to the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟

(vii) What is meant by Aam-ul-Huzn? — عام الحزن سے کیا مراد ہے؟

(viii) Who was Hazrat Abu Ayyub Ansari(R.A)? — حضرت ابوایوب انصاریؓ کون تھے؟

(ix) How many Jewish tribes lived in Madina? Write down their names. — مدینہ میں یہود کے کتنے قبائل آباد تھے؟ نام لکھیے۔

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6
سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Which uncle of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was martyred in Ghazwa-e-Uhud? — غزوہ اُحد میں رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا شہید ہوئے؟

(ii) Write down two lines about the simplicity of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کے بارے میں دو لائنیں لکھیے۔

(iii) Describe shortly the journey to Taif of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کو مختصراً بیان کیجیے۔

(iv) By whom Khiraj was received? — خراج کن لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا؟

(v) What is meant by Ashab-e-Suffah? — اصحاب صُفّہ سے کون لوگ مراد ہیں؟

(vi) Write down two characteristics of Islamic economic system during the noble period of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں نظام معیشت کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vii) Who was Fatima bint Alasad? What crime did she do? — فاطمہ بنت الاسد کون تھی اور اس نے کیا جرم سرزد کیا تھا؟

(viii) Which chiefs of Quraish were killed in Ghazwa-e-Badr? Write down names of any two. — غزوہ بدر میں کون کون سے قریشی سردار مارے گئے؟ کسی دو کے نام تحریر کیجیے۔

(ix) Describe the role of Majlis-e-Shoora in Islamic system of Caliphate. — اسلامی نظام خلافت میں مجلس شوریٰ کا کردار بیان کیجیے۔

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6
سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down any two services for Islam of Hazrat Abu Bakr(R.A). — حضرت ابوبکرؓ کی کوئی سی دو خدمات اسلام تحریر کیجیے۔

(ii) Who was Mosailma Kazzab? — مسیلمہ کذاب کون تھا؟

(iii) Who was Harmoz? — ہرمز کون تھا؟

(iv) Write down the name of Hazrat Umar's(R.A) sister and brother in-law. — حضرت عمرؓ کی بہن اور بہنوئی کا نام تحریر کیجیے۔

(v) What is meant by Farooq? — فاروق سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is the difference between Usher and Ushoor? — عُشر اور عشور میں کیا فرق ہے؟

(vii) Why could Hazrat Usman(R.A) not participate in Ghazwa-e-Badr? — حضرت عثمانؓ غزوہ بدر میں کیوں شرکت نہ کر سکے؟

(viii) Between whom battle of Neharwan was fought? — جنگ نہروان کن کے درمیان لڑی گئی؟

(ix) Write the introduction of Hazrat Imam Hassan(R.A) in two lines. — حضرت امام حسنؓ کا تعارف دو لائنوں میں تحریر کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3
نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Write down a detailed note on Ghazwa-e-Khandaq. — غزوہ خندق پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔

6. Describe any four characteristics of Khulfa-e-Rashideen in detail. — خلفائے راشدینؓ کی کوئی سی چار خصوصیات تفصیلاً بیان کیجیے۔

7. What is meant by Battle of Jamal? Write down its detail. — جنگ جمل سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل لکھیے۔

8. Write a note on Seerat-e-Usman(R.A) and his services for Islam. — حضرت عثمانؓ کی سیرت اور اسلامی خدمات پر نوٹ لکھیے۔

9. The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a perfect human being. Discuss in detail. — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل تھے۔ وضاحت کیجیے۔

73-2022(A)-500 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1081	

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

182

HISTORY OF ISLAM

تاریخ اسلام

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 **سوال نمبر 1۔**

(1) Usury was a favourite profession of: سودخوری محبوب پیشہ تھا۔ (1)

(A) Zartoshtians زرتشتوں کا (B) Idol worshippers بت پرستوں کا (C) Infidels کفار کا (D) Jews یہودیوں کا

(2) Tribes of Jews lived in Yesrab: یثرب میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے۔ (2)

(A) 02 (B) 03 (C) 04 (D) 05

(3) Due to a murder, a battle continued between Banu Tughlib and Banu Bakr for: بنوتغلب اور بنوبکر کے درمیان قتل کی وجہ سے جنگ جاری رہی:۔ (3)

(A) برس 40 years (B) برس 30 years (C) برس 20 years (D) برس 10 years

(4) Among slaves, first of all _______ embraced Islam. غلاموں میں سب سے پہلے _______ نے اسلام قبول کیا۔ (4)

(A) Hazrat Bilal(R.A) حضرت بلالؓ (B) Hazrat Sohaib(R.A) حضرت صہیبؓ

(C) Hazrat Zaid Bin Haris(R.A) حضرت زید بن حارثؓ (D) Hazrat Sa'ad(R.A) حضرت سعدؓ

(5) Distance between the Saur Cave and Makkah is: غار ثور اور مکہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ (5)

(A) میل 2 miles (B) میل 3 miles (C) میل 4 miles (D) میل 5 miles

(6) The name of first Masjid of Islam is: اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ (6)

(A) Masjid-e-Qurtaba مسجد قرطبہ (B) Masjid-e-Khaif مسجد خیف (C) Masjid-Quba مسجد قبا (D) Masjid-e-Kofa مسجد کوفہ

(7) Ghazwah-e-Ohad was fought in: غزوہ اُحد لڑی گئی۔ (7)

(A) ہجری میں 2 A.H (B) ہجری میں 3 A.H (C) ہجری میں 4 A.H (D) ہجری میں 5 A.H

(8) Peace Agreement of Hudaibiah was written by: معاہدہ صلح حدیبیہ تحریر کیا۔ (8)

(A) Hazrat Umar(R.A) حضرت عمرؓ نے (B) Hazrat Usman(R.A) حضرت عثمانؓ نے

(C) Hazrat Zaid(R.A) حضرت زیدؓ نے (D) Hazrat Ali(R.A) حضرت علیؓ نے

(9) The Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم belonged to which family? رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ (9)

(A) Qehtan قحطان سے (B) Quraish قریش سے (C) Khuza'ah خزاعہ سے (D) Banu Sa'ad بنوسعد سے

(10) Marraiges allowed in Islam are: اِسلام میں شادیوں کی اجازت ہے۔ (10)

(A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) 4

(11) Name of companion of Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who was the custodian of His venerable seal? صحابی رسولؐ جن کے پاس آپؐ کی مہر مبارک رہتی تھی۔ (11)

(A) Hazrat Hanzala Bin Rabi(R.A) حضرت حنظلہؓ بن ربیع (B) Hazrat Umar(R.A) حضرت عمرؓ

(C) Hazrat Osama(R.A) حضرت اُسامہؓ (D) Hazrat Ali(R.A) حضرت علیؓ

(12) As a caliph, Hazrat Abu Bakr(R.A) received total salary during his period was: حضرت ابوبکرؓ نے بطور خلیفہ کل تنخواہ وصول کی۔ (12)

(A) 60000 Dirham ساٹھ ہزار درہم (B) 70000 Dirham ستر ہزار درہم (C) 80000 Dirham اَسّی ہزار درہم (D) 90000 Dirham نوے ہزار درہم

(13) As the caliph, who ordered to digout the canal Ameer-ul-Momineen? نہر امیر المؤمنین کس خلیفہ نے بنوائی؟ (13)

(A) Hazrat Ali(R.A) حضرت علیؓ (B) Hazrat Usman(R.A) حضرت عثمانؓ

(C) Hazrat Hasan(R.A) حضرت حسنؓ (D) Hazrat Umar(R.A) حضرت عمرؓ

(14) The rate of Zakat per/annum is: زکوٰۃ کی شرح سالانہ ہے۔ (14)

(A) 2.5 % (B) 5% (C) 10% (D) 12.5%

(15) Hazrat Ali(R.A) was given the title of: حضرت علیؓ کو خطاب دیا گیا۔ (15)

(A) Sword of Allah سیف اللہ (B) Abdullah عبداللہ (C) The lion of Allah اسداللہ (D) Obedient to Allah مطیع اللہ

73(Obj)-2022(A)-500 **(MULTAN)**

notespk.com

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

Part-I 9th

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: HOP Session: 2022-2023

Q.Nos	Paper Code 1071	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	C			
2	B			
3	D			
4	A			
5	C			
6	D			
7	B			
8	C			
9	B			
10	A			
11	C			
12	D			
13	B			
14	D			
15	A			
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون تاریخ پاکستان پرچہ __________ گروپ ________ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 4-6-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	MUHAMMAD ASLAM	SSS	GHSS Ailam Pur Multan	03007342057	[signature]
2	شاہدہ امین	SS	گورنمنٹ H/SS تعلیم میاں چنوں	0301270866	[signature]
3					
4					

PAPER CODE NUMBER: 1071	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر 179

HISTORY OF PAKISTAN — OBJECTIVE حصہ معروضی — تاریخ پاکستان

TIME ALLOWED: 20 Minutes — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The period of stone age was started: — پتھر کا زمانہ شروع ہوا۔
- (A) 3 lac years ago 3 لاکھ سال پہلے
- (B) 4 lac years ago 4 لاکھ سال پہلے
- (C) 5 lac years ago 5 لاکھ سال پہلے
- (D) 6 lac years ago 6 لاکھ سال پہلے

(2) Goutam Budha married at the age of _______ years. — گوتم بدھ کی شادی _______ سال کی عمر میں ہوئی۔
- (A) 14 (B) 16 (C) 17 (D) 21

(3) The central place of Gandahara Art was: — گندھارا آرٹ کا مرکز تھا۔
- (A) Multan ملتان (B) Somnat سومنات (C) Delhi دہلی (D) Texila ٹیکسلا

(4) Alexander the Great died in: — سکندر اعظم فوت ہوا۔
- (A) قبل مسیح میں 323 B.C (B) قبل مسیح میں 326 B.C (C) قبل مسیح میں 330 B.C (D) قبل مسیح میں 320 B.C

(5) At what age did Jalal-ud-Din Khilji become king? — جلال الدین خلجی کس عمر میں بادشاہ بنا؟
- (A) سال 50 years (B) سال 60 years (C) سال 70 years (D) سال 55 years

(6) Who became the Sultan of India in 1320 AD? — 1320ء میں ہندوستان کا سلطان کون بنا؟
- (A) Jalal-ud-Din Khilji جلال الدین خلجی
- (B) Ala-ud-Din Khilji علاؤالدین خلجی
- (C) Muhammad Bin Tughlaq محمد بن تغلق
- (D) Ghias-ud-Din Tughlaq غیاث الدین تغلق

(7) Amir Taimoor arrived in Delhi in: — امیر تیمور کی دہلی میں آمد ہوئی۔
- (A) 1298ء میں 1298 AD (B) 1398ء میں 1398 AD (C) 1498ء میں 1498 AD (D) 1598ء میں 1598 AD

(8) Babar and Lodhi fought the Battle of Panipat in: — بابر اور لودھی کے درمیان پانی پت کی جنگ ہوئی۔
- (A) 1524ء میں 1524 AD (B) 1530ء میں 1530 AD (C) 1526ء میں 1526 AD (D) 1556ء میں 1556 AD

(9) Babar was named: — بابر کا نام رکھا گیا۔
- (A) Azhar-ud-Din Muhammad اظہر الدین محمد
- (B) Zaheer-ud-Din Muhammad ظہیر الدین محمد
- (C) Mazhar-ud-Din Muhammad مظہر الدین محمد
- (D) Naseer-ud-Din Muhammad نصیر الدین محمد

(10) Which of these Mughal kings was born in 1508? — 1508ء میں کون سا مغل بادشاہ پیدا ہوا؟
- (A) Humayun ہمایوں (B) Akbar اکبر (C) Jahangir جہانگیر (D) Shah Jahan شاہ جہاں

(11) How many inns did Sher Shah Soori build? — شیر شاہ سوری نے کتنی سرائیں تعمیر کروائیں؟
- (A) 1500 (B) 1600 (C) 1700 (D) 1800

(12) Which of these Mughal kings was born in Umar Kot? — عمر کوٹ میں کون سا مغل بادشاہ پیدا ہوا؟
- (A) Shah Jahan شاہ جہاں (B) Humayun ہمایوں (C) Jahangir جہانگیر (D) Akbar اکبر

(13) "Noor Jahan" was the Queen of which Mughal king? — "نور جہاں" کس مغل بادشاہ کی ملکہ تھی؟
- (A) Shah Jahan شاہ جہاں (B) Jahangir جہانگیر (C) Akbar اکبر (D) Humayun ہمایوں

(14) Shah Jahan was born in the city of: — شاہ جہاں کس شہر میں پیدا ہوا؟
- (A) Agra آگرہ میں (B) Samarqand سمرقند میں (C) Umar Kot عمر کوٹ میں (D) Lahore لاہور میں

(15) Which of these Mughal kings banned Alcohol? — کس مغل بادشاہ نے شراب پر پابندی لگائی؟
- (A) Aurang Zeb Alamgir اورنگ زیب عالمگیر (B) Shah Jahan شاہ جہاں (C) Jahangir جہانگیر (D) Babar بابر

71(Obj)-2022(A)-100 (MULTAN/)

notespk.com

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

HISTORY OF PAKISTAN

تاریخ پاکستان

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60

کل نمبر = 60

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What kind of weapons Aryans had and which metal was used to make them?
(i) آریاؤں کے پاس کون سے ہتھیار تھے اور وہ کس دھات کے بنے ہوئے تھے؟

(ii) When was Mahavir born and to which family he belonged?
(ii) مہاویر کب پیدا ہوا؟ وہ کس خاندان سے تھا؟

(iii) Which was the golden era of Hinduism and why?
(iii) کس دور کو ہندو دھرم کا سنہری دور کہا جاتا ہے اور کیوں؟

(iv) When did the 1st and 2nd battles of Tarain take place?
(iv) ترائین کی پہلی لڑائی اور دوسری لڑائی کب ہوئی؟

(v) Shahab-ud-Din Ghauri ethnically belonged to which race and where from was he?
(v) شہاب الدین غوری نسلاً کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا؟

(vi) Introduce Qutub-ud-Din Aibak in two lines.
(vi) قطب الدین ایبک کا تعارف دو سطور میں لکھیں۔

(vii) What is meant by forty ministers?
(vii) " اُمرائے چہلگاں " سے کیا مراد ہے؟

(viii) Who revolted against Razia Sultana?
(viii) رضیہ سلطانہ کے خلاف کس کس نے بغاوت کی؟

(ix) Who made Balban Prime Minister and for how long had he been Prime Minister?
(ix) بلبن کو کس نے وزیر اعظم بنایا؟ وہ کتنے سال تک وزیر اعظم رہا؟

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down the names of two major problems faced by Ala-ud-Din-Khilji.
(i) علاؤالدین خلجی کو درپیش دو مسائل لکھیں۔

(ii) Write down two financial reforms of Ala-ud-Din-Khilji.
(ii) علاؤالدین خلجی کی دو مالی اصلاحات تحریر کریں۔

(iii) Who gave the title of "Ghazi Malik" and to which person?
(iii) " غازی ملک " کا خطاب کس نے اور کس کو دیا؟

(iv) Write two reasons on the decline of Salatin-e-Delhi.
(iv) سلاطین دہلی کے زوال کے دو اسباب لکھیں۔

(v) Who was the founder of Syed dynasty? For how long did this family rule?
(v) سید خاندان کی بنیاد کس نے ڈالی؟ یہ خاندان کتنے عرصہ تک حکمران رہا؟

(vi) Who was the first and last ruler of Lodhi dynasty?
(vi) لودھی خاندان کا پہلا اور آخری حکمران کون تھا؟

(vii) What was the complete name of Humayun? Where was he born?
(vii) ہمایوں کا مکمل نام کیا تھا؟ وہ کہاں پیدا ہوا؟

(viii) Write down two major issues faced by Humayun.
(viii) ہمایوں کو درپیش دو مسائل لکھیں۔

(ix) Where did Humayun live in exile and for how many years?
(ix) ہمایوں نے جلاوطنی کی زندگی کہاں گزاری اور کتنا عرصہ جلاوطن رہا؟

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How long is G.T.Road? Who got it built?
(i) " جی ٹی روڈ " کی لمبائی کتنی ہے اسے کس نے تعمیر کروایا؟

(ii) When did the second battle of Panipat take place and between whom?
(ii) پانی پت کی دوسری لڑائی کب اور کن کن کے درمیان ہوئی؟

(iii) Who introduced "Mansab Dari System" and why?
(iii) " منصب داری نظام " کس نے اور کیوں متعارف کروایا؟

(iv) What were the names of father and mother of Prince Saleem?
(iv) شہزادہ سلیم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟

(v) Where was Noor Jahan imprisoned and for how long?
(v) نور جہاں کو کہاں قید کیا گیا اور وہ کتنا عرصہ قید رہی؟

(vi) Write two names of Shah Jahan's Rebels.
(vi) شاہ جہاں کے دو باغیوں کے نام لکھیں۔

(vii) Write down the names of two buildings made by Qutub-ud-Din Aibak.
(vii) قطب الدین ایبک کی دو تعمیرات کا نام لکھیں۔

(viii) Where is "Jamat Khana"? Who got it built?
(viii) " جماعت خانہ " کہاں ہے؟ اسے کس نے تعمیر کروایا؟

(ix) Where is "Jahangir's tomb" located and how many minarets it has?
(ix) مقبرہ جہانگیر کہاں واقع ہے؟ اس کے کتنے مینار ہیں؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. What is Indus Valley Civilization? Discuss it in detail.
5۔ وادی سندھ کی تہذیب تفصیل سے بیان کریں۔

6. Write in detail important achievements in the era of Muhammad Bin Tughlaq.
6۔ محمد بن تغلق کے دور کے اہم کارنامے سپرد قلم کیجیے۔

7. Narrate in detail about the attacks of Babar in India.
7۔ بابر کے انڈیا پر حملوں کی تفصیل بیان کریں۔

8. Narrate in detail the 3rd phase of Akbar's Kingdom.
8۔ اکبر کی بادشاہت کے تیسرے دور کو تفصیل سے بیان کریں۔

9. What kind of relationship Aurang Zeb Alamgir had with "Rajputs" and "Marhatta"? Explain it.
9۔ اورنگ زیب عالمگیر کے راجپوتوں اور مرہٹوں سے تعلقات کی تفصیل بیان کریں۔

71-2022(A)-100 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: اسلامیات لازمی

Session: 2022

Group: 1st

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1921	Paper Code 1923	Paper Code 1925	Paper Code 1927
1	A	B	A	D
2	A	C	C	C
3	B	A	D	D
4	B	C	C	A
5	C	D	D	A
6	A	C	A	B
7	C	D	A	B
8	D	A	B	C
9	C	A	B	A
10	D	B	C	C
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Q. Nos	Paper Code 1922	Paper Code 1924	Paper Code 1926	Paper Code 1928
1	C	D	B	B
2	A	C	C	D
3	B	B	D	B
4	D	A	C	C
5	B	C	B	D
6	C	A	A	C
7	D	B	C	B
8	C	D	A	A
9	B	B	B	C
10	A	C	D	A
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون اسلامیات لازمی پرچہ 9th گروپ I + II سکیم 9th میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated:

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Muhammad Irfan Hameed	S.S.T	GHS Jamia-ul-uloom New Multan	0323-6227136	
2	Nasima Idrees Lodhi	Principal	G.G.H/S Basti Khudadad	0300-0404800	
3	Mahboob Ahmad Qureshi	SST	G.M. H/S Gulgasht Multan	0300 6362747	
4	Hafiz Khalid Mahmood	S.S.T	Govt H/S TALKOT Shujabad	0301-7530075	
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) بمعہ معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Abdul Sattar	SST H/E	Govt Pilot Sec School multan	0336 6021947	
2	Farzana Yasmin	Sr. HM	G.G.H/S Sher Shah MTN	03238640689	
3					

9/6/22

تاریخ 09-June 2022

2022 (A)

رول نمبر

SSC PART-I (9th CLASS)

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-I | اسلامیات (لازمی) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours | **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ | وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 40 | کل نمبر = 40

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) According to Soorah-tul-Anfaal, how did Allah Almighty help the Muslims in Ghazva-e-Badar?
سورۃ الانفال کی رو سے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ (i)

(ii) According to Soorah-tul-Anfaal, why was a group of Muslims unhappy in the war of Badar?
سورۃ الانفال کی رو سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی ایک جماعت ناخوش کیوں تھی؟ (ii)

(iii) According to Soorah-tul-Anfaal, what is the reaction of non-believers when the Holy Quran is recited to them?
سورۃ الانفال کی رو سے جب کفار کو قرآن مجید سنایا جاتا ہے تو کیا ردِ عمل کرتے ہیں؟ (iii)

(iv) According to Soorah-tul-Anfaal, for how much time is the order to continue war against non-believers?
سورۃ الانفال کی رو سے کفار سے جنگ کب تک کرنے کا حکم ہے؟ (iv)

(v) According to Soorah-tul-Anfaal, why non-believers were shown less in number to Muslims in war of Badar?
سورۃ الانفال کی رو سے جنگ بدر میں کفار مسلمانوں کو قلیل تعداد میں کیوں دکھائے گئے؟ (v)

(vi) According to Soorah-tul-Anfaal, who are the worst of beasts and why?
سورۃ الانفال کی رو سے جانداروں میں سب سے بدتر کون ہیں اور کیوں؟ (vi)

(vii) According to Soorah-tul-Anfaal, how was motivation given to the Muslims for Jihad?
سورۃ الانفال کی رو سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کیسے دی گئی؟ (vii)

(viii) According to Soorah-tul-Anfaal, what was the behaviour of shaitan with non-believers in the war of Badar?
سورۃ الانفال کی رو سے جنگ بدر میں شیطان کا کفار سے کیا طرزِ عمل تھا؟ (viii)

(ix) What will be the reward to true-believers if they fear from Allah Almighty?
اگر مومنین اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو کیا انعام ملے گا؟ (ix)

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What guidance do we get regarding the mercy and respect in the hadith?
حدیث میں مذکور رحم و عزت کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ (i)

(ii) What is the obstacle in the way of peace and tranquility of the society in daily life?
روزمرہ زندگی میں معاشرے کے امن و سکون کی راہ میں حائل رکاوٹ کون سی ہے؟ (ii)

(iii) Write translation of a hadith regarding acquiring knowledge.
حصول علم کے حوالے سے ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ (iii)

(iv) Write down two social benefits of Zakat.
زکوٰۃ کے دو معاشرتی فوائد لکھیے۔ (iv)

(v) Translate إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا
ترجمہ کیجیے۔ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا (v)

(vi) What did the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم say about spreading knowledge?
علم پھیلانے کے متعلق رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ (vi)

(vii) What does it mean to love Allah Almighty?
اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ (vii)

(viii) What were the services of Hazrat Usman(R.A) regarding protection of the Holy Quran?
حضرت عثمانؓ کی حفاظت قرآن پر کیا خدمات تھیں؟ (viii)

(ix) What is the reward for reciting the Holy Quran?
تلاوت قرآن پاک سے کیا انعام ملتا ہے؟ (ix)

(ورق الٹیے)

28

SECTION-II حصہ دوم

4. Translate any two of the following Quranic Aayat: 8 = 4 + 4 درج ذیل قرآنی آیات میں سے دو کا ترجمہ کیجیے۔ -4

(A) (الف) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

(B) (ب) وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

(C) (ج) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ

5. Translate and explain the following Blessed Hadith. 3 = 1 + 2 درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ -5

مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ مَرَّةً فَتَحَ اللّٰهُ لَهٗ بَابًا مِّنَ الْعَافِيَةِ ۔

6. Write a note on excellence of the Holy Quran and also prove that we can succeed by acting upon the Holy Quran. 3+2 = 5

فضائل قرآن پر نوٹ تحریر کیجیے۔ نیز ثابت کیجیے کہ قرآن پر عمل کرنے سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ -6

OR یا

Write the importance of knowledge in the light of the Holy Quran and Sunnah and prove that the progress of advanced nations is only due to knowledge(Education).

علم کی فضیلت قرآن وسنت کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ نیز ثابت کیجیے کہ ترقی یافتہ اقوام کی ترقی تعلیم ہی کی وجہ سے ہے۔

9-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1921

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-I — اسلامیات (لازمی) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

نوٹ- ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1-

(1) According to Soorah-tul-Anfaal, the satan made their ________ look attractive to the atheists. — سورۃ الانفال کی رو سے شیطان نے کفار کو خوبصورت بنا کر دکھائے۔ (1)

(A) Deeds اعمال (B) Properties اموال (C) Family اہل وعیال (D) House گھر

(2) Meaning of "غَرَّ" is: — "غَرَّ" کا مطلب ہے۔ (2)

(A) Insanity خبط میں ڈالا (B) Imprisoned قید میں ڈالا (C) Put in trouble مشکل میں ڈالا (D) Erased مٹا ڈالا

(3) According to Soorah-tul-Anfaal, it is not good for the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to keep in prison: — سورۃ الانفال کی رُو سے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایان نہیں کہ آپ کے قبضے میں رہیں۔ (3)

(A) Atheists کفار (B) Prisoners قیدی (C) Hypocrites منافقین (D) Idolaters مشرکین

(4) According to Soorah-tul-Anfaal, when the believers quarrel with one another, they will be: — سورۃ الانفال کی رو سے آپس کے لڑائی جھگڑے مومنین کو کر دیں گے۔ (4)

(A) Weak کمزور (B) Coward بزدل (C) Proud مغرور (D) Hatred متنفر

(5) The Soorahs of the Holy Quran were arranged by: — قرآن مجید کی سورتوں کی ________ ترتیب دی۔ (5)

(A) Hazrat Usman(R.A) حضرت عثمانؓ نے (B) Hazrat Bilal(R.A) حضرت بلالؓ نے

(C) The Rasool-e-Akram رسول کرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (D) Hazrat Abu Hurira(R.A) حضرت ابوہریرہؓ نے

(6) The dominant quality of Allah Almighty is: — اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہے۔ (6)

(A) Be kind رحیم ہونا (B) Be benefactor کریم ہونا (C) Be tolerant حلیم ہونا (D) Omniscient علیم ہونا

(7) According to Hadith, the person who loves someone should love for: — حدیث کی رُو سے انسان کسی سے محبت کرے تو:- (7)

(A) Descendants اولاد کے لیے (B) Parents والدین کے لیے (C) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کے لیے (D) Wealth دولت کے لیے

(8) The love of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a compulsory part of: — محبتِ رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لازمی جزو ہے۔ (8)

(A) Education and upbringing تعلیم وتربیت کا (B) Jihad-e-Islam جہاد اسلام کا

(C) Preaching of Islam تبلیغ اسلام کا (D) Completion of faith تکمیل ایمان کا

(9) The workers of Zakat department are called: — زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین کو کہتے ہیں۔ (9)

(A) The Bankrupt غارمین (B) The Poor مساکین (C) Zakat workers عاملین (D) The traveller ابن السبیل

(10) The source of Allah Almighty's love is: — اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ (10)

(A) Riches دولت (B) Power طاقت (C) Worth وجاہت (D) Knowledge علم

9(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1923

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-I اسلامیات (لازمی) گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) According to Soorah-tul-Anfaal, when the believers quarrel with one another, they will be: سورۃ الانفال کی رو سے آپس کے لڑائی جھگڑے مومنین کو کر دیں گے۔ (1)

(A) Weak کمزور (B) Coward بزدل (C) Proud مغرور (D) Hatred متنفر

(2) The Soorahs of the Holy Quran were arranged by: قرآن مجید کی سورتوں کی ______ ترتیب دی۔ (2)

(A) Hazrat Usman(R.A) حضرت عثمانؓ نے (B) Hazrat Bilal(R.A) حضرت بلالؓ نے

(C) The Rasool-e-Akram رسول کرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (D) Hazrat Abu Hurira(R.A) حضرت ابوہریرہؓ نے

(3) The dominant quality of Allah Almighty is: اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہے۔ (3)

(A) Be kind رحیم ہونا (B) Be benefactor کریم ہونا (C) Be tolerant حلیم ہونا (D) Omniscient علیم ہونا

(4) According to Hadith, the person who loves someone should love for: حدیث کی رُو سے انسان کسی سے محبت کرے تو:۔ (4)

(A) Descendants اولاد کے لیے (B) Parents والدین کے لیے (C) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کے لیے (D) Wealth دولت کے لیے

(5) The love of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a compulsory part of: محبتِ رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لازمی جزو ہے۔ (5)

(A) Education and upbringing تعلیم وتربیت کا (B) Jihad-e-Islam جہادِ اسلام کا

(C) Preaching of Islam تبلیغ اسلام کا (D) Completion of faith تکمیل ایمان کا

(6) The workers of Zakat department are called: زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین کو کہتے ہیں۔ (6)

(A) The Bankrupt غارمین (B) The Poor مساکین (C) Zakat workers عاملین (D) The traveller ابن السبیل

(7) The source of Allah Almighty's love is: اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ (7)

(A) Riches دولت (B) Power طاقت (C) Worth وجاہت (D) Knowledge علم

(8) According to Soorah-tul-Anfaal, the satan made their ________ look attractive to the atheists. سورۃ الانفال کی رو سے شیطان نے کفار کو خوبصورت بنا کر دکھائے۔ (8)

(A) Deeds اعمال (B) Properties اموال (C) Family اہل وعیال (D) House گھر

(9) Meaning of "غَرَّ" is: "غَرَّ" کا مطلب ہے۔ (9)

(A) Insanity خبط میں ڈالا (B) Imprisoned قید میں ڈالا (C) Put in trouble مشکل میں ڈالا (D) Erased مٹا ڈالا

(10) According to Soorah-tul-Anfaal, it is not good for the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to keep in prison: سورۃ الانفال کی رُو سے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایان نہیں کہ آپ کے قبضے میں رہیں۔ (10)

(A) Atheists کفار (B) Prisoners قیدی (C) Hypocrites منافقین (D) Idolaters مشرکین

9(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1925

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-I

اسلامیات (لازمی) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The dominant quality of Allah Almighty is: اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہے۔ (1)

(A) Be kind رحیم ہونا (B) Be benefactor کریم ہونا (C) Be tolerant حلیم ہونا (D) Omniscient علیم ہونا

(2) According to Hadith, the person who loves someone should love for: حدیث کی رُو سے انسان کسی سے محبت کرے تو:۔ (2)

(A) Descendants اولاد کے لیے (B) Parents والدین کے لیے (C) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کے لیے (D) Wealth دولت کے لیے

(3) The love of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a compulsory part of: محبتِ رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لازمی جزو ہے۔ (3)

(A) Education and upbringing تعلیم و تربیت کا (B) Jihad-e-Islam جہاد اسلام کا

(C) Preaching of Islam تبلیغ اسلام کا (D) Completion of faith تکمیل ایمان کا

(4) The workers of Zakat department are called: زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین کو کہتے ہیں۔ (4)

(A) The Bankrupt غارمین (B) The Poor مساکین (C) Zakat workers عاملین (D) The traveller ابن السبیل

(5) The source of Allah Almighty's love is: اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ (5)

(A) Riches دولت (B) Power طاقت (C) Worth وجاہت (D) Knowledge علم

(6) According to Soorah-tul-Anfaal, the satan made their ________ look attractive to the atheists. سورۃ الانفال کی رو سے شیطان نے کفار کو خوبصورت بنا کر دکھائے۔ (6)

(A) Deeds اعمال (B) Properties اموال (C) Family اہل و عیال (D) House گھر

(7) Meaning of "غَرَّ" is: "غَرَّ" کا مطلب ہے۔ (7)

(A) Insanity خبط میں ڈالا (B) Imprisoned قید میں ڈالا (C) Put in trouble مشکل میں ڈالا (D) Erased مٹا ڈالا

(8) According to Soorah-tul-Anfaal, it is not good for the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to keep in prison: سورۃ الانفال کی رُو سے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایاں نہیں کہ آپ کے قبضے میں رہیں۔ (8)

(A) Atheists کفار (B) Prisoners قیدی (C) Hypocrites منافقین (D) Idolaters مشرکین

(9) According to Soorah-tul-Anfaal, when the believers quarrel with one another, they will be: سورۃ الانفال کی رو سے آپس کے لڑائی جھگڑے مومنین کو کر دیں گے۔ (9)

(A) Weak کمزور (B) Coward بزدل (C) Proud مغرور (D) Hatred متنفر

(10) The Soorahs of the Holy Quran were arranged by: قرآن مجید کی سورتوں کی ______ ترتیب دی۔ (10)

(A) Hazrat Usman(R.A) حضرت عثمانؓ نے (B) Hazrat Bilal(R.A) حضرت بلالؓ نے

(C) The Rasool-e-Akram رسول کرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (D) Hazrat Abu Hurira(R.A) حضرت ابوہریرہؓ نے

9(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1927

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ____________

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-I

اسلامیات (لازمی) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The love of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a compulsory part of: محبتِ رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لازمی جزو ہے۔ (1)

- (A) Education and upbringing تعلیم وتربیت کا
- (B) Jihad-e-Islam جہاد اسلام کا
- (C) Preaching of Islam تبلیغ اسلام کا
- (D) Completion of faith تکمیل ایمان کا

(2) The workers of Zakat department are called: زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین کو کہتے ہیں۔ (2)

- (A) The Bankrupt غارمین
- (B) The Poor مساکین
- (C) Zakat workers عاملین
- (D) The traveller ابن السبیل

(3) The source of Allah Almighty's love is: اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ (3)

- (A) Riches دولت
- (B) Power طاقت
- (C) Worth وجاہت
- (D) Knowledge علم

(4) According to Soorah-tul-Anfaal, the satan made their _______ look attractive to the atheists. سورۃ الانفال کی رو سے شیطان نے کفار کو خوبصورت بنا کر دکھائے۔ (4)

- (A) Deeds اعمال
- (B) Properties اموال
- (C) Family اہل وعیال
- (D) House گھر

(5) Meaning of "غَرَّ" is: "غَرَّ" کا مطلب ہے۔ (5)

- (A) Insanity خبط میں ڈالا
- (B) Imprisoned قید میں ڈالا
- (C) Put in trouble مشکل میں ڈالا
- (D) Erased مٹا ڈالا

(6) According to Soorah-tul-Anfaal, it is not good for the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to keep in prison: سورۃ الانفال کی رُو سے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایاں نہیں کہ آپ کے قبضے میں رہیں۔ (6)

- (A) Atheists کفار
- (B) Prisoners قیدی
- (C) Hypocrites منافقین
- (D) Idolaters مشرکین

(7) According to Soorah-tul-Anfaal, when the believers quarrel with one another, they will be: سورۃ الانفال کی رو سے آپس کے لڑائی جھگڑے مومنین کو کر دیں گے۔ (7)

- (A) Weak کمزور
- (B) Coward بزدل
- (C) Proud مغرور
- (D) Hatred متنفر

(8) The Soorahs of the Holy Quran were arranged by: قرآن مجید کی سورتوں کی _______ ترتیب دی۔ (8)

- (A) Hazrat Usman(R.A) حضرت عثمانؓ نے
- (B) Hazrat Bilal(R.A) حضرت بلالؓ نے
- (C) The Rasool-e-Akram رسول کرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
- (D) Hazrat Abu Hurira(R.A) حضرت ابوہریرہؓ نے

(9) The dominant quality of Allah Almighty is: اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہے۔ (9)

- (A) Be kind رحیم ہونا
- (B) Be benefactor کریم ہونا
- (C) Be tolerant حلیم ہونا
- (D) Omniscient علیم ہونا

(10) According to Hadith, the person who loves someone should love for: حدیث کی رُو سے انسان کسی سے محبت کرے تو:۔ (10)

- (A) Descendants اولاد کے لیے
- (B) Parents والدین کے لیے
- (C) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کے لیے
- (D) Wealth دولت کے لیے

9(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

ER CODE
NUMBER: 1922

2022 (A)
SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-II — اسلامیات (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — **سوال نمبر 1۔**

(1) In the beginning of Soorah-tul-Anfaal, Allah Almighty gave ________ instructions to believers. — سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا ہے۔ (1)

(A) Two دو باتوں کا (B) Three تین باتوں کا (C) Four چار باتوں کا (D) Five پانچ باتوں کا

(2) The meaning of " أَسْرٰی " is: — " أَسْرٰی " کا معنی ہے۔ (2)

(A) Prisoners قیدی (B) Pious متقی (C) Sinner گناہگار (D) Thief چور

(3) Allah Almighty gave good news of help in Badar by: — اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی بشارت دی۔ (3)

(A) Five hundred Angels پانچ سو فرشتوں کے ذریعے (B) One thousand Angels ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے

(C) Two thousand Angels دو ہزار فرشتوں کے ذریعے (D) Three thousand Angels تین ہزار فرشتوں کے ذریعے

(4) The meaning of " اَلْاَعْنَاقِ " is: — " اَلْاَعْنَاقِ " کا معنی ہے۔ (4)

(A) Hands ہاتھ (B) Feet پاؤں (C) Legs ٹانگیں (D) Necks گردنیں

(5) " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " is about faith of: — " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " کا تعلق عقیدہ ________ سے ہے۔ (5)

(A) Prophethood رسالت (B) Oneness توحید (C) Doomsday آخرت (D) Fate تقدیر

(6) In our country the number of girls schools as compared to boys schools is: — ہمارے ملک میں لڑکیوں کے مدارس کی تعداد لڑکوں کے مدارس کے مقابلے میں ________ ہے۔ (6)

(A) One fourth چوتھائی (B) One third تہائی (C) Half نصف (D) Double دگنی

(7) By thinking about his existence and universe a man can know about: — انسان کو اپنے وجود اور کائنات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ (7)

(A) Doomsday قیامت کے دن کا (B) Angels فرشتوں کا (C) Jinns جنات کا (D) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کا

(8) The teachings of the Holy Quran are: — قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ (8)

(A) For present times موجودہ دور کے لیے (B) For ancient times قدیم دور کے لیے

(C) For ever ہمیشہ کے لیے (D) For future مستقبل کے لیے

(9) In first revelation, the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was advised to: — پہلی وحی میں رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ (9)

(A) Salah نماز کا (B) Read پڑھنے کا (C) Hajj حج کا (D) Roza روزے کا

(10) The urgent benefit of paying Zakat is: — زکوٰۃ کی ادائیگی کا فوری فائدہ ہے۔ (10)

(A) Ending love of wealth مال کی محبت کا خاتمہ (B) Excess of reward کثرتِ ثواب

(C) Getting respect عزت وتکریم کا حصول (D) Getting satisfaction of heart اطمینان قلب کا حصول

11(Obj)(☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1926

2022 (A)

رول نمبر ____________ (31)

SSC PART-I (9th CLASS)

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-II اسلامیات (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " is about faith of: " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " کا تعلق عقیدۂ ______ سے ہے۔ (1)

(A) Prophethood رسالت (B) Oneness توحید (C) Doomsday آخرت (D) Fate تقدیر

(2) In our country the number of girls schools as compared to boys schools is: ہمارے ملک میں لڑکیوں کے مدارس کی تعداد لڑکوں کے مدارس کے مقابلے میں ______ ہے۔ (2)

(A) One fourth چوتھائی (B) One third تہائی (C) Half نصف (D) Double دگنی

(3) By thinking about his existence and universe a man can know about: انسان کو اپنے وجود اور کائنات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ (3)

(A) Doomsday قیامت کے دن کا (B) Angels فرشتوں کا (C) Jinns جنات کا (D) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کا

(4) The teachings of the Holy Quran are: قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ (4)

(A) For present times موجودہ دور کے لیے (B) For ancient times قدیم دور کے لیے
(C) For ever ہمیشہ کے لیے (D) For future مستقبل کے لیے

(5) In first revelation, the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was advised to: پہلی وحی میں رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ (5)

(A) Salah نماز کا (B) Read پڑھنے کا (C) Hajj حج کا (D) Roza روزے کا

(6) The urgent benefit of paying Zakat is: زکوٰۃ کی ادائیگی کا فوری فائدہ ہے۔ (6)

(A) Ending love of wealth مال کی محبت کا خاتمہ (B) Excess of reward کثرتِ ثواب
(C) Getting respect عزت وتکریم کا حصول (D) Getting satisfaction of heart اطمینان قلب کا حصول

(7) In the beginning of Soorah-tul-Anfaal, Allah Almighty gave ________ instructions to believers. سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا ہے۔ (7)

(A) Two دو باتوں کا (B) Three تین باتوں کا (C) Four چار باتوں کا (D) Five پانچ باتوں کا

(8) The meaning of " اَسْرٰی " is: " اَسْرٰی " کا معنی ہے۔ (8)

(A) Prisoners قیدی (B) Pious متقی (C) Sinner گناہگار (D) Thief چور

(9) Allah Almighty gave good news of help in Badar by: اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی بشارت دی۔ (9)

(A) Five hundred Angels پانچ سو فرشتوں کے ذریعے (B) One thousand Angels ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے
(C) Two thousand Angels دو ہزار فرشتوں کے ذریعے (D) Three thousand Angels تین ہزار فرشتوں کے ذریعے

(10) The meaning of " اَلْاَعْنَاقِ " is: " اَلْاَعْنَاقِ " کا معنی ہے۔ (10)

(A) Hands ہاتھ (B) Feet پاؤں (C) Legs ٹانگیں (D) Necks گردنیں

11(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1928

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-II اسلامیات (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Allah Almighty gave good news of help in Badar by: اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی بشارت دی۔ (1)

(A) Five hundred Angels پانچ سو فرشتوں کے ذریعے
(B) One thousand Angels ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے
(C) Two thousand Angels دو ہزار فرشتوں کے ذریعے
(D) Three thousand Angels تین ہزار فرشتوں کے ذریعے

(2) The meaning of " اَلْاَعْنَاقِ " is: " اَلْاَعْنَاقِ " کا معنی ہے۔ (2)

(A) Hands ہاتھ (B) Feet پاؤں (C) Legs ٹانگیں (D) Necks گردنیں

(3) " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " is about faith of: " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " کا تعلق عقیدۂ ______ سے ہے۔ (3)

(A) Prophethood رسالت (B) Oneness توحید (C) Doomsday آخرت (D) Fate تقدیر

(4) In our country the number of girls schools as compared to boys schools is: ہمارے ملک میں لڑکیوں کے مدارس کی تعداد لڑکوں کے مدارس کے مقابلے میں ______ ہے۔ (4)

(A) One fourth چوتھائی (B) One third تہائی (C) Half نصف (D) Double دُگنی

(5) By thinking about his existence and universe a man can know about: انسان کو اپنے وجود اور کائنات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ (5)

(A) Doomsday قیامت کے دن کا (B) Angels فرشتوں کا (C) Jinns جنّات کا (D) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کا

(6) The teachings of the Holy Quran are: قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ (6)

(A) For present times موجودہ دور کے لیے
(B) For ancient times قدیم دور کے لیے
(C) For ever ہمیشہ کے لیے
(D) For future مستقبل کے لیے

(7) In first revelation, the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was advised to: پہلی وحی میں رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ (7)

(A) Salah نماز کا (B) Read پڑھنے کا (C) Hajj حج کا (D) Roza روزے کا

(8) The urgent benefit of paying Zakat is: زکوٰۃ کی ادائیگی کا فوری فائدہ ہے۔ (8)

(A) Ending love of wealth مال کی محبت کا خاتمہ
(B) Excess of reward کثرتِ ثواب
(C) Getting respect عزت و تکریم کا حصول
(D) Getting satisfaction of heart اطمینان قلب کا حصول

(9) In the beginning of Soorah-tul-Anfaal, Allah Almighty gave ________ instructions to believers. سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا ہے۔ (9)

(A) Two دو باتوں کا (B) Three تین باتوں کا (C) Four چار باتوں کا (D) Five پانچ باتوں کا

(10) The meaning of " اَسْرٰی " is: " اَسْرٰی " کا معنی ہے۔ (10)

(A) Prisoners قیدی (B) Pious متقی (C) Sinner گناہگار (D) Thief چور

11(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1924

2022 (A)
SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-II — اسلامیات (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) By thinking about his existence and universe a man can know about: — انسان کو اپنے وجود اور کائنات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ (1)

(A) Doomsday قیامت کے دن کا (B) Angels فرشتوں کا (C) Jinns جنات کا (D) Allah Almighty اللہ تعالیٰ کا

(2) The teachings of the Holy Quran are: — قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ (2)

(A) For present times موجودہ دور کے لیے (B) For ancient times قدیم دور کے لیے
(C) For ever ہمیشہ کے لیے (D) For future مستقبل کے لیے

(3) In first revelation, the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was advised to: — پہلی وحی میں رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ (3)

(A) Salah نماز کا (B) Read پڑھنے کا (C) Hajj حج کا (D) Roza روزے کا

(4) The urgent benefit of paying Zakat is: — زکوٰۃ کی ادائیگی کا فوری فائدہ ہے۔ (4)

(A) Ending love of wealth مال کی محبت کا خاتمہ (B) Excess of reward کثرت ثواب
(C) Getting respect عزت وتکریم کا حصول (D) Getting satisfaction of heart اطمینان قلب کا حصول

(5) In the beginning of Soorah-tul-Anfaal, Allah Almighty gave ________ instructions to believers. — سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا ہے۔ (5)

(A) Two دو باتوں کا (B) Three تین باتوں کا (C) Four چار باتوں کا (D) Five پانچ باتوں کا

(6) The meaning of " أَسْرٰى " is: — " أَسْرٰى " کا معنی ہے۔ (6)

(A) Prisoners قیدی (B) Pious متقی (C) Sinner گناہگار (D) Thief چور

(7) Allah Almighty gave good news of help in Badar by: — اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی بشارت دی۔ (7)

(A) Five hundred Angels پانچ سو فرشتوں کے ذریعے (B) One thousand Angels ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے
(C) Two thousand Angels دو ہزار فرشتوں کے ذریعے (D) Three thousand Angels تین ہزار فرشتوں کے ذریعے

(8) The meaning of " اَلْاَعْنَاقِ " is: — " اَلْاَعْنَاقِ " کا معنی ہے۔ (8)

(A) Hands ہاتھ (B) Feet پاؤں (C) Legs ٹانگیں (D) Necks گردنیں

(9) " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " is about faith of: — " لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ " کا تعلق عقیدہ ______ سے ہے۔ (9)

(A) Prophethood رسالت (B) Oneness توحید (C) Doomsday آخرت (D) Fate تقدیر

(10) In our country the number of girls schools as compared to boys schools is: — ہمارے ملک میں لڑکیوں کے مدارس کی تعداد لڑکوں کے مدارس کے مقابلے میں ______ ہے۔ (10)

(A) One fourth چوتھائی (B) One third تہائی (C) Half نصف (D) Double دگنی

11(Obj)(☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

2022 (A)

رول نمبر ________

SSC PART-I (9th CLASS)

ISLAMIAT (COMPULSORY) GROUP-II — اسلامیات (لازمی) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 40 — کل نمبر = 40

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 — سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why did the Muslims want to face the Abu-Sufyan group? — مسلمان ابوسفیان کے گروہ کا سامنا کرنا کیوں چاہتے تھے؟

(ii) What instructions were given to the Angels by Allah Almighty in Ghazva-e-Badar? — غزوۂ بدر میں اللہ تعالٰی نے فرشتوں کو کیا ہدایات دیں؟

(iii) Translate وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى — ترجمہ کیجیے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

(iv) What did kafirs said about Quranic verses? — کافروں نے قرآنی آیات کے بارے میں کیا کہا؟

(v) In Soorah-tul-Anfaal, what is the order about the distribution of booty? — سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(vi) In the battle of Badar, when the satan saw the Angels, what was his reaction? — غزوۂ بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا ردِ عمل کیا تھا؟

(vii) Translate: غَرَّ . شَرِّدْ — معانی لکھیے۔ غَرَّ . شَرِّدْ

(viii) In case of break of contract by the kafirs, what instructions Allah Almighty gave to the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? — کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالٰی نے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟

(ix) Explain the cause of drowning of Pharaoh and his followers. — فرعون اور آل فرعون کی غرقابی کا سبب بیان کریں۔

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 — سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Describe four disadvantages of bribery. — رشوت کے چار نقصانات بیان کریں۔

(ii) In the light of Hadith, how should the young and elders be treated? — حدیث پاک کی روشنی میں چھوٹے اور بڑے کس سلوک کے مستحق ہیں؟

(iii) According to the Hadith, what do you know about four conditions of completion of faith? — حدیث کی رو سے تکمیل ایمان کی چار شرائط کے بارے آپ کیا جانتے ہیں؟

(iv) Write the translation of a verse on preservation of the Holy Quran. — حفاظت قرآن پاک پر آیت کا ترجمہ لکھیں۔

(v) Why is the Holy Quran called as " مُهَيْمِنٌ " ? — قرآن مجید کو " مُهَيْمِنٌ " کیوں کہا گیا ہے؟

(vi) How will you show love with the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? Give two examples. — آپ رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ دو مثالیں دیں۔

(vii) What pray (دعا) did the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم recite about increase of knowledge? — رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم میں اضافے کے بارے میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟

(viii) Write four heads of expenditure about Zakat. — چار مصارف زکوٰۃ بیان کریں۔

(ix) Scholars fear from Allah. How? — اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیسے؟

(ورق الٹیے)

SECTION-II حصہ دوم

4. Translate any two of the following Quranic Aayat: 8 = 4 + 4 — درج ذیل قرآنی آیات میں سے دو کا ترجمہ کیجیے۔ -4

(A) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ (الف)

(B) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝ (ب)

(C) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ (ج)

5. Translate and explain the following Blessed Hadith. 3 = 1 + 2 — درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ -5

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مَرَّةً فَتَحَ اللّٰهُ لَهٗ بَابًا مِّنَ الْعَافِيَةِ ۔

6. Write a note on the virtues of the Holy Quran and what results can be achieved by following the Holy Quran as a nation? 3+2=5 — فضیلت قرآن پر نوٹ لکھیے۔ نیز بحیثیت قوم قرآن پاک پر عمل کر کے کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ -6

OR یا

Explain the virtues of knowledge and write about the effects of knowledge on the life of nations. — علم کی فضیلت بیان کیجیے۔ نیز علم کے قوموں کی زندگی پر اثرات تحریر کیجیے۔

11-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

(197)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: بہتر گھروں کے انتظامات. Session: ______

Q.Nos	Paper Code 1741	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	D			
2	A			
3	A			
4	D			
5	B			
6	C			
7	D			
8	C			
9	D			
10	D			
11	B			
12	C			
13	C			
14	B			
15	D			
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون بہتر گھروں کے انتظامات پرچہ ____I____ گروپ ____✗____ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگیزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کردی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 27-05-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Nasima Idrees Lodhi	Principal	G.G.H/S Basti Khudadad Multan	03000404800	[signature]
2	Anjum Ara	SST	G.G.H/S Basti Khudadad Multan	0301-7400126	Anjum
3					
4					

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 198

MANAGEMENT FOR BETTER HOMES — بہتر گھروں کے انتظامات

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 — سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by Home Economics? — گھریلو معاشیات سے کیا مراد ہے؟
(ii) Define Management. — انتظامیہ کی تعریف کریں۔
(iii) How correct use of income is possible? — آمدنی کا صحیح استعمال کیسے ممکن ہے؟
(iv) Write down the types of Knowledge. — علم کی قسمیں تحریر کریں۔
(v) How is the environment of house, if one has done good management? — بہترین انتظام کرنے سے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟
(vi) Where is the most of the population of villages being shifted now a days? — دیہاتوں کی آبادی آج کل کہاں منتقل ہو رہی ہے؟
(vii) What is meant by Model House? — مثالی گھر سے کیا مراد ہے؟
(viii) Write down two responsibilities of Home Management. — گھریلو انتظامیہ کی دو ذمہ داریاں تحریر کریں۔
(ix) What sort of strategy is home management? — نظامت کیسی حکمت عملی ہے؟

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 — سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by Behaviour? — رویہ سے کیا مراد ہے؟
(ii) What is the role of Religion in Human Values? — انسانی اقدار میں مذہب کا کیا کردار ہے؟
(iii) According to "Parker" write two values, which affect Human behaviour. — " پارکر " کے مطابق انسانی کردار پر اثر انداز ہونے والے دو اقدار تحریر کریں۔
(iv) Which are the Instinct Values? — جبلتی اقدار کون سی ہوتی ہیں؟
(v) Which are the necessary human sources to achieve family goals? — خاندان کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کون سے انسانی ذرائع ضروری ہیں؟
(vi) Which kind of "Interests" should be in human sources? — انسانی ذرائع میں " دلچسپیاں " کیسی ہونی چاہییں؟
(vii) Which decision should home managers take before doing sale or purchase? — خرید و فروخت کرنے سے پہلے ناظمین خانہ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟
(viii) What is the role of sports in Human Values? — انسانی اقدار میں کھیل کا کیا کردار ہے؟
(ix) What is the difference between human and inhuman sources? — انسانی اور غیر انسانی ذرائع میں کیا فرق ہے؟

4. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 — سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) On what two points the development of a country depends? — ملک کی ترقی کا دارومدار کن دو چیزوں پر ہوتا ہے؟
(ii) Why do famine occurs? — قحط کیوں نمودار ہوتا ہے؟
(iii) Write down two benefits of forest wood. — جنگلات کی لکڑی کے دو فائدے لکھیے۔
(iv) What steps are taken by Government for the fishermen? — حکومت نے ماہی گیروں کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟
(v) Name the countries that are although over populated but are still prosperous. — وہ کونسے ممالک ہیں جو افراط آبادی کا شکار ہونے کے باوجود خوشحال ہیں؟
(vi) What should be done for prevention of disease? — بیماری کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
(vii) Name the Minerals, that make a country prosperous. — معدنیات کے نام تحریر کریں جن سے ملک خوشحال ہوتا ہے۔
(viii) Write two steps to promote cottage industry. — گھریلو صنعت کے فروغ کے لیے کوئی سے دو اقدامات تحریر کریں۔
(ix) What is the effect of increasing population on inflation? — بڑھتی ہوئی آبادی سے قیمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions. 24 = 8 x 3 — نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Define Management and write down important points. — انتظامیہ کی تعریف اور اہم نکات تحریر کریں۔ ۔5
6. Write down the importance of study and the scope of Home Management. — نظامت خانہ کی وسعت اور مطالعہ کی اہمیت تحریر کریں۔ ۔6
7. What are the human values for Home Management? Describe moral values according to "Parker". — خانہ داری میں انسانی اقدار کون سی ہیں؟ " پارکر " کے مطابق انسانی اقدار تحریر کریں۔ ۔7
8. What is meant by Decision? Point out its importance. — فیصلے سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت تحریر کریں۔ ۔8
9. What is the effect of population on prices? Explain. — آبادی کا قیمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت کریں۔ ۔9

87-2022(A)-100 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1741	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر 199

MANAGEMENT FOR BETTER HOMES — بہتر گھروں کے انتظامات

TIME ALLOWED: 20 Minutes — وقت = 20 منٹ

OBJECTIVE — حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Every thing in the universe is controlled by some: — کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی ______ کے تابع ہوتی ہے۔
(A) Law قانون (B) Condition شرط (C) Restriction پابندی (D) Rule اصول

(2) Many principles of Home Management are of ______ type. — نظامت خانہ کے بہت سے اصول ______ نوعیت کے ہوتے ہیں۔
(A) Mathematical حسابی (B) Verbal زبانی (C) Powerful مضبوط (D) Qualitative صفاتی

(3) Family members must not have ______ among themselves. — افراد خانہ کا آپس میں ______ نہیں ہونا چاہیے۔
(A) Conflict اختلاف (B) Unity اتحاد (C) Thoughts تفکر (D) Continuity تسلسل

(4) The birth system is started from: — نظامت پیدائش چلی آرہی ہے۔
(A) Angels فرشتوں سے (B) Rasools رسولوں سے (C) Prophets پیغمبروں سے (D) Human beings بنی آدم سے

(5) Incentive means should adopt: — ترغیب سے مراد ______ صورت اختیار کرنا ہے۔
(A) Verbally زبانی (B) Practically عملی (C) Structural شکلی (D) Artificial نقلی

(6) Home Management is a strategy that decides: — نظامت خانہ ایسی حکمت عملی ہے جو ______ کا تعین کرتی ہے۔
(A) Religious aims دینی مقاصد (B) Economical aims معاشی مقاصد (C) Domestic aims گھریلو مقاصد (D) Political aims سیاسی مقاصد

(7) Philosophy is such a view point as it reflects the tendency of: — فلسفہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو رجحانات کی غمازی کرتا ہے۔
(A) Group گروہی (B) Collective اجتماعی (C) Individual انفرادی (D) Group or individual جماعتی یا انفرادی

(8) Life is a type of continuous: — زندگی مسلسل ______ کا نام ہے۔
(A) Experience تجربہ (B) Observation مشاہدہ (C) Process عمل (D) Difficulties مشکلات

(9) Values can be: — اقدار ہوسکتی ہیں۔
(A) Creative تخلیقی (B) Practical عملی (C) Philosophical فلسفیانہ (D) Instinctive جبلتی

(10) In human objectives, religion produce: — مذہب انسانی مقاصد میں پیدا کرتا ہے۔
(A) Oneness واحدانیت (B) Happiness خوشی (C) Justice عدل (D) Uniformness یکسانیت

(11) Because of birth of a lot of babies, due to ______ peoples get old before time. — کثرت اولاد کے سبب ______ کی وجہ سے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔
(A) Poverty غربت (B) Thoughts تفکرات (C) Look after دیکھ بھال (D) Health صحت

(12) Economy of country depending upon agriculture is: — زراعت پر انحصار کرنے والے ملک کی معیشت ہوتی ہے۔
(A) Strong مضبوط (B) Permanent مستقل (C) Unbalanced غیر مستحکم (D) Temporary عارضی

(13) The areas which are less populated and have poverty are: — وہ علاقے جہاں آبادی کم اور مفلسی ہے۔
(A) Japan, Germany جاپان، جرمنی (B) Japan, Canada جاپان، کینیڈا
(C) Indonesia, Burma انڈونیشیا، برما (D) Belgium, Britain بلجیم، برطانیہ

(14) Most of population of Pakistan is facing: — پاکستان کی زیادہ تر آبادی ______ کا شکار ہے۔
(A) Diseases بیماری (B) Poverty غربت وافلاس (C) Injustice ناانصافی (D) Illiteracy ناخواندگی

(15) Fish oil is made from: — ______ سے مچھلی کا تیل بنایا جاتا ہے۔
(A) Cod کاڈ (B) Shark شارک (C) Jheenga جھینگا (D) Cod and Shark کاڈ اور شارک

87(Obj)-2022(A)-100 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Mathematics Science

Session: 2020 – 2022

9th A/22

Group: 1st

Q. Nos	Paper Code 1191	Paper Code 1193	Paper Code 1195	Paper Code 1197
1	C	C	A	D
2	D	B	B	B
3	A	A	C	C
4	B	A	D	C
5	D	B	B	D
6	A	C	C	A
7	C	D	C	B
8	B	B	D	D
9	A	C	A	A
10	A	C	B	C
11	B	D	D	B
12	C	A	A	A
13	D	B	C	A
14	B	D	B	B
15	C	A	A	C
16				
17				
18				
19				
20				

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 1192	Paper Code 1194	Paper Code 1196	Paper Code 1198
1	D	A	C	C
2	A	C	C	B
3	B	D	B	A
4	D	C	C	C
5	C	D	A	C
6	B	A	C	B
7	A	B	D	C
8	C	D	C	A
9	C	C	D	C
10	B	B	A	D
11	C	A	B	C
12	A	C	D	D
13	C	C	C	A
14	D	B	B	B
15	C	C	A	D
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفیکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون ریاضی (سائنس) پرچہ I گروپ پہلا+دوسرا سکیم ______ میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 7-6-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Mahr. Mushtaq Ahmad	SST(Sc)	Govt. HSS Qadirpur Ran	0305-6983724	[signature]
2	Muhammad Iqbal Ch.	S.S.T Sc	Govt H.S Sarai Sidhu	0308-1363417	[signature]
3	Sajjad Haider	SST(Sc)	Govt. New Millat H/S Mumtazabad	0303-7233342	[signature]
4					
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Javaid Ahmad Shah	SS(Maths)	Govt. H/SS Comprehensive Multan	0301-7904677	[signature]
2	Ghulam Shabbir	SST (Science)	Govt Comprehensive HSS Multan	0302-7377176	[signature]
3					

تاریخ 08

رول نمبر

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I — ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define transpose of a matrix.

(i) قالب کے ٹرانسپوز کی تعریف کیجیے۔

(ii) Find $3A - 2B$ $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$

(ii) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$ معلوم کیجیے۔ $3A - 2B$

(iii) Evaluate i^{27}

(iii) i^{27} کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iv) Simplify $(-7 + 3i)(-3 + 2i)$ and write the answer in the form $a + bi$

(iv) $(-7 + 3i)(-3 + 2i)$ کو $a + bi$ کی شکل میں مختصر کیجیے۔

(v) Express 9.018×10^{-6} in ordinary notation.

(v) 9.018×10^{-6} کو عام ترقیم میں لکھیے۔

(vi) Evaluate $\log 512$ *to the base* $2\sqrt{2}$

(vi) $\log 512$ *to the base* $2\sqrt{2}$ قیمت معلوم کیجیے۔

(vii) What is meant by rational expression in its lowest form?

(vii) ناطق جملے کی مختصر ترین شکل سے کیا مراد ہے؟

(viii) Simplify $\left(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(viii) $\left(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ مختصر کیجیے۔

(ix) Factorize $x^4 + \frac{1}{x^4} - 3$

(ix) $x^4 + \frac{1}{x^4} - 3$ تجزی کیجیے۔

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find H.C.F. of $102xy^2z,\ 85x^2yz,\ 187xyz^2$

(i) $102xy^2z,\ 85x^2yz,\ 187xyz^2$ عاداعظم معلوم کریں۔

(ii) Solve the equation $\sqrt{2t + 4} = \sqrt{t - 1}$

(ii) $\sqrt{2t + 4} = \sqrt{t - 1}$ مساوات حل کریں۔

(iii) Define linear inequality.

(iii) یک درجی غیر مساوات کی تعریف کریں۔

(iv) دی گئی مساوات کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد 'm' اور 'c' کی قیمتیں معلوم کریں۔ $x - 2y = -2$

(iv) Find value of *'m'* and *'c'* of line $x - 2y = -2$ by expressing it in the form $y = mx + c$

(v) Verify whether point (0, 0) lies on line $2x - y + 1 = 0$ or not.

(v) تصدیق کریں کہ نقطہ (0, 0) لائن $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہے یا نہیں۔

(vi) Find mid point of the line segment joining the $A(-8, 1)$ and $B(6, 1)$

(vi) دیے گئے نقاط $A(-8, 1)$ اور $B(6, 1)$ کا درمیانی نقطہ معلوم کریں جو قطعہ خط AB پر واقع ہو۔

(vii) Define equilateral triangle.


(vii) متساوی الاضلاع مثلث کی تعریف کریں۔

(viii) What is meant by S.S.S $\cong$ S.S.S.?

(viii) ض۔ض۔ض $\cong$ ض۔ض۔ض سے کیا مراد ہے؟

(ix) Find value of n^o and x^o


(ix) n^o اور x^o کی قیمت معلوم کریں۔



(ورق الٹیے)


4. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6** سوال نمبر4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) If the given triangle ABC is equilateral triangle and $\overline{AD}$ is bisector of $\angle A$, then find the value of unknowns x^o and z^o.
دی گئی مساوی الاضلاع مثلث ABC میں $\overline{AD}$ زاویہ A کا ناصف ہے۔ نامعلوم x^o اور z^o کی قیمت معلوم کریں۔ (i)



(ii) If 10 cm, 6cm and 8 cm are the lengths of a triangle, then verify that sum of measures of two sides of a triangle is greater than third side?
اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 10 cm، 6 cm اور 8 cm ہوں تو تصدیق کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔ (ii)

(iii) In isosceles Δ PQR shown in figure, find the value of x and y
دی گئی شکل ΔPQR ایک متساوی الساقین مثلث ہے۔ x اور y کی قیمت معلوم کریں۔ (iii)





(iv) The three sides of triangle are of measure 8, x, 17 respectively. For what value of x will it become base of a right angled triangle?
ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں بالترتیب 8، x اور 17 ہیں۔ x کی کس قیمت کے لیے یہ ضلع قائمۃ الزاویہ مثلث کا قاعدہ بن جائے گا؟ (iv)

(v) Verify that the given triangle having measures of sides is right-angled triangle or not? $a = 9cm,\ b = 12cm,\ c = 15cm$
ثابت کریں کہ مثلث جس کے اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہیں ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہے یا نہیں؟ (v)

(vi) Define altitude of a triangle.
مثلث کے ارتفاع کی تعریف کریں۔ (vi)

(vii) Find the area of given figure.
دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کریں۔ (vii)





(viii) Construct a ΔXYZ in which $m\overline{XY} = 5.5cm,\ m\overline{ZX} = 4.5cm,\ m\angle Z = 90^o$
مثلث XYZ بنائیں جس میں (viii)

(ix) Define incentre of a triangle.
مثلث کا محصور/اندرونی مرکز (in centre) کی تعریف کریں۔ (ix)

SECTION-II حصہ دوم

24 = 8 x 3 نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

NOTE: Attempt any three questions. Question No.9 is compulsory.

5.(A) Solve with the help of Cramer's rule. $4x + y = 9,\ -3x - y = -5$
کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔ (الف) 5۔

(B) Use laws of exponents to show that. $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} = 1$
قوت نما کے قوانین کی مدد سے ثابت کیجیے۔ (ب)

6.(A) Use logarithm to find the value of $\frac{(1.23)\,(0.6975)}{(0.0075)(1278)}$
لوگارتھم کو استعمال کرتے ہوئے قیمت معلوم کیجیے۔ (الف) 6۔

(B) If $q = \sqrt{5} + 2$, then find the value of $q^2 - \frac{1}{q^2}$
اگر $q = \sqrt{5} + 2$ ہو تو $q^2 - \frac{1}{q^2}$ کی قیمت معلوم کیجیے۔ (ب)

7.(A) If $(x + 2)$ is a factor of $3x^2 - 4kx + 11x - 6$, then find the value of k.
اگر $(x + 2)$ کثیر رقمی $3x^2 - 4kx + 11x - 6$ کا جزو ضربی ہو تو k کی قیمت معلوم کریں۔ (الف) 7۔

(B) Perform the indicated operations and simplify to the lowest form
ظاہر کیے گئے عوامل کے عمل کرنے سے سادہ ترین جملہ میں مختصر کریں۔ (ب)
$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} \times \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 - 2x + 1}$$

8.(A) Find the solution set of the given equation. $\frac{5(x-3)}{6} - x = 1 - \frac{x}{9}$
دی گئی مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں۔ (الف) 8۔

(B) Construct a ΔABC. Draw the perpendicular bisectors of its sides. $m\overline{AB} = 2.4cm,\ m\overline{AC} = 3.2cm,\ m\angle A = 120^o$
مثلث ABC بنائیے اور اس کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیں۔ (ب)

9. Prove that the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent.
ثابت کریں کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ 9۔

OR یا

Prove that parallelograms on equal bases and having the same(or equal) altitude are equal in area.
ثابت کریں کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

29**(SCIENCE GROUP)**-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1195

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر (101)

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Two lines can intersect at _______ point/points. دوخطوط _______ نقطہ/نقاط پر قطع کر سکتے ہیں۔ (1)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(2) In a parallelogram opposite angle are: متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے _______ ہوتے ہیں۔ (2)

(A) Unequal غیر برابر (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Non-concurrent غیر ہم نقطہ

(3) The right bisectors of the sides of a triangle are: کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف _______ ہوتے ہیں۔ (3)

(A) Congruent متماثل (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(4) Symbol used for similarity is: متشابہ کے لیے علامت _______ استعمال ہوتی ہے۔ (4)

(A) "=" (B) $\longleftrightarrow$ (C) "$\cong$" (D) "$\sim$"

(5) Area of parallelogram = _______. متوازی الاضلاع کا رقبہ = _______ (5)

(A) Length x length لمبائی × لمبائی (B) Base x altitude قاعدہ کی لمبائی × ارتفاع

(C) Length x width لمبائی × چوڑائی (D) $\frac{1}{2}$ (Base)(Altitude) $\frac{1}{2}$ (قاعدہ)(ارتفاع)

(6) The medians of the three sides of a triangle are: مثلث کے تینوں اضلاع کے وسطانیے _______ ہوتے ہیں۔ (6)

(A) Collinear ہم خط (B) Congruent متماثل (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(7) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ is called _______ matrix. $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ کو _______ قالب کہا جاتا ہے۔ (7)

(A) Zero صفر (B) Unit واحدانی (C) Scalar سکیلر (D) Singular نادر

(8) The conjugate of $5+4i$ $5+4i$ کا کانجوگیٹ _______ ہے۔ (8)

(A) $-5+4i$ (B) $-5-4i$ (C) $5+4i$ (D) $5-4i$

(9) The logarithm of unity to any base is: کسی اساس پر "1" کا لوگارتھم _______ کے برابر ہوتا ہے۔ (9)

(A) 0 (B) 1 (C) 10 (D) e

(10) The degree of polynomial $4x^4+2x^2y$ is: کثیر رقمی $4x^4+2x^2y$ کا درجہ _______ ہے۔ (10)

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(11) Find m so that x^2+4x+m is a complete square: m کی کس قیمت کے لیے x^2+4x+m کامل مربع بن جائے گا۔ (11)

(A) 8 (B) -8 (C) 16 (D) 4

(12) H.C.F of a^2-b^2 and a^3-b^3 is: a^2-b^2 اور a^3-b^3 کا عادِ اعظم _______ ہے۔ (12)

(A) $a-b$ (B) $a+b$ (C) a^2+ab+b^2 (D) a^2-ab+b^2

(13) A statement involving any of the symbols $<$, $>$, $\leq$ or $\geq$ is called: کوئی بیان جس میں $\geq$ یا $\leq$ ، $<$ ، $>$ میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے _______ کہلاتی ہے۔ (13)

(A) Equation مساوات (B) Identity ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو (C) Inequality غیر مساوات (D) Linear equation یک درجی مساوات

(14) Which ordered pair satisfy the equation $y=2x$? کون سا نقطہ مساوات $y=2x$ کے گراف پر واقع ہے؟ (14)

(A) (2, 1) (B) (1, 2) (C) (2, 2) (D) (0, 1)

(15) Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is: نقاط (1, 0) اور (0, 1) کا درمیانی فاصلہ _______ ہے۔ (15)

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) 0 (D) 1

29(**SCIENCE GROUP**)(Obj)(★★★)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1193

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 102

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) A statement involving any of the symbols $<, >, \leq$ or $\geq$ is called: کوئی بیان جس میں $\geq$ یا $\leq$ ، $>$ ، $<$ میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے ______ کہلاتی ہے۔ (1)

(A) Equation مساوات (B) Identity ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو (C) Inequality غیر مساوات (D) Linear equation یک درجی مساوات

(2) Which ordered pair satisfy the equation $y = 2x$? کون سا نقطہ مساوات $y = 2x$ کے گراف پر واقع ہے؟ (2)

(A) (2, 1) (B) (1, 2) (C) (2, 2) (D) (0, 1)

(3) Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is: نقاط (1, 0) اور (0, 1) کا درمیانی فاصلہ ______ ہے۔ (3)

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) 0 (D) 1

(4) Two lines can intersect at ______ point/points. دو خطوط ______ نقطہ/نقاط پر قطع کر سکتے ہیں۔ (4)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(5) In a parallelogram opposite angle are: متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ______ ہوتے ہیں۔ (5)

(A) Unequal غیر برابر (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Non-concurrent غیر ہم نقطہ

(6) The right bisectors of the sides of a triangle are: کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ______ ہوتے ہیں۔ (6)

(A) Congruent متماثل (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(7) Symbol used for similarity is: تشابہ کے لیے علامت ______ استعمال ہوتی ہے۔ (7)

(A) " = " (B) $\longleftrightarrow$ (C) "$\cong$" (D) " ~ "

(8) Area of parallelogram = ______. متوازی الاضلاع کا رقبہ = ______ (8)

(A) Length x length لمبائی × لمبائی (B) Base x altitude قاعدہ کی لمبائی × ارتفاع (C) Length x width لمبائی × چوڑائی (D) $\frac{1}{2}$(Base)(Altitude) $\frac{1}{2}$ (قاعدہ)(ارتفاع)

(9) The medians of the three sides of a triangle are: مثلث کے تینوں اضلاع کے وسطانیے ______ ہوتے ہیں۔ (9)

(A) Collinear ہم خط (B) Congruent متماثل (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(10) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ is called ______ matrix. $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ کو ______ قالب کہا جاتا ہے۔ (10)

(A) Zero صفر (B) Unit واحدانی (C) Scalar سکیلر (D) Singular نادر

(11) The conjugate of $5 + 4i$ $5 + 4i$ کا کانجوگیٹ ______ ہے۔ (11)

(A) $-5 + 4i$ (B) $-5 - 4i$ (C) $5 + 4i$ (D) $5 - 4i$

(12) The logarithm of unity to any base is: کسی اساس پر "1" کا لوگارتھم ______ کے برابر ہوتا ہے۔ (12)

(A) 0 (B) 1 (C) 10 (D) e

(13) The degree of polynomial $4x^4 + 2x^2y$ is: کثیر رقمی $4x^4 + 2x^2y$ کا درجہ ______ ہے۔ (13)

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(14) Find m so that $x^2 + 4x + m$ is a complete square: m کی کس قیمت کے لیے $x^2 + 4x + m$ کامل مربع بن جائے گا۔ (14)

(A) 8 (B) -8 (C) 16 (D) 4

(15) H.C.F of $a^2 - b^2$ and $a^3 - b^3$ is: $a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا عادِ اعظم ______ ہے۔ (15)

(A) $a - b$ (B) $a + b$ (C) $a^2 + ab + b^2$ (D) $a^2 - ab + b^2$

29(**SCIENCE GROUP**)(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 (**MULTAN**)

PAPER CODE NUMBER: 1197

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر 103

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I ریاضی (سائنس گروپ) گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Symbol used for similarity is: مشابہ کے لیے علامت ______ استعمال ہوتی ہے۔

(A) "=" (B) $\longleftrightarrow$ (C) "$\cong$" (D) "~"

(2) Area of parallelogram = ______. متوازی الاضلاع کا رقبہ = ______

(A) Length x length لمبائی × لمبائی (B) Base x altitude قاعدہ کی لمبائی × ارتفاع

(C) Length x width لمبائی × چوڑائی (D) $\frac{1}{2}$(Base)(Altitude) $\frac{1}{2}$(قاعدہ)(ارتفاع)

(3) The medians of the three sides of a triangle are: مثلث کے تینوں اضلاع کے وسطانیے ______ ہوتے ہیں۔

(A) Collinear ہم خط (B) Congruent متماثل (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(4) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ is called ______ matrix. $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ کو ______ قالب کہا جاتا ہے۔

(A) Zero صفر (B) Unit واحدانی (C) Scalar سکیلر (D) Singular نادر

(5) The conjugate of $5 + 4i$ $5 + 4i$ کا کانجوگیٹ ______ ہے۔

(A) $-5 + 4i$ (B) $-5 - 4i$ (C) $5 + 4i$ (D) $5 - 4i$

(6) The logarithm of unity to any base is: کسی اساس پر "1" کا لوگارتھم ______ کے برابر ہوتا ہے۔

(A) 0 (B) 1 (C) 10 (D) e

(7) The degree of polynomial $4x^4 + 2x^2y$ is: کثیررقمی $4x^4 + 2x^2y$ کا درجہ ______ ہے۔

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(8) Find m so that $x^2 + 4x + m$ is a complete square: m کی کس قیمت کے لیے $x^2 + 4x + m$ کامل مربع بن جائے گا۔

(A) 8 (B) -8 (C) 16 (D) 4

(9) H.C.F of $a^2 - b^2$ and $a^3 - b^3$ is: $a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا عادِاعظم ______ ہے۔

(A) $a - b$ (B) $a + b$ (C) $a^2 + ab + b^2$ (D) $a^2 - ab + b^2$

(10) A statement involving any of the symbols $<$, $>$, $\leq$ or $\geq$ is called: کوئی بیان جس میں $\geq$ یا $\leq$ ، $>$ ، $<$ میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے ______ کہلاتی ہے۔

(A) Equation مساوات (B) Identity ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو (C) Inequality غیرمساوات (D) Linear equation یک درجی مساوات

(11) Which ordered pair satisfy the equation $y = 2x$? کون سا نقطہ مساوات $y = 2x$ کے گراف پر واقع ہے؟

(A) (2, 1) (B) (1, 2) (C) (2, 2) (D) (0, 1)

(12) Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is: نقاط (1, 0) اور (0, 1) کا درمیانی فاصلہ ______ ہے۔

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) 0 (D) 1

(13) Two lines can intersect at ______ point/points. دوخطوط ______ نقطہ/نقاط پر قطع کرسکتے ہیں۔

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(14) In a parallelogram opposite angle are: متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ______ ہوتے ہیں۔

(A) Unequal غیربرابر (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Non-concurrent غیرہم نقطہ

(15) The right bisectors of the sides of a triangle are: کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ______ ہوتے ہیں۔

(A) Congruent متماثل (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

29(**SCIENCE GROUP**)(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1191	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ______

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ is called _______ matrix. | $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ کو ______ قالب کہا جاتا ہے۔ (1)

(A) Zero صفر (B) Unit واحدانی (C) Scalar سکیلر (D) Singular نادر

(2) The conjugate of $5+4i$ is: | $5+4i$ کا کانجوگیٹ ______ ہے۔ (2)

(A) $-5+4i$ (B) $-5-4i$ (C) $5+4i$ (D) $5-4i$

(3) The logarithm of unity to any base is: | کسی اساس پر "1" کا لوگارتھم ______ کے برابر ہوتا ہے۔ (3)

(A) 0 (B) 1 (C) 10 (D) e

(4) The degree of polynomial $4x^4+2x^2y$ is: | کثیررقی $4x^4+2x^2y$ کا درجہ ______ ہے۔ (4)

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(5) Find m so that x^2+4x+m is a complete square: | m کی کس قیمت کے لیے x^2+4x+m کامل مربع بن جائے گا۔ (5)

(A) 8 (B) -8 (C) 16 (D) 4

(6) H.C.F of a^2-b^2 and a^3-b^3 is: | a^2-b^2 اور a^3-b^3 کا عادِ اعظم ______ ہے۔ (6)

(A) $a-b$ (B) $a+b$ (C) a^2+ab+b^2 (D) a^2-ab+b^2

(7) A statement involving any of the symbols <, >, ≤ or ≥ is called: | کوئی بیان جس میں ≥ یا ≤ ، > ، < میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے ______ کہلاتی ہے۔ (7)

(A) Equation مساوات (B) Identity ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو (C) Inequality غیر مساوات (D) Linear equation یک درجی مساوات

(8) Which ordered pair satisfy the equation $y=2x$? | کون سا نقطہ مساوات $y=2x$ کے گراف پر واقع ہے؟ (8)

(A) (2, 1) (B) (1, 2) (C) (2, 2) (D) (0, 1)

(9) Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is: | نقاط (1, 0) اور (0, 1) کا درمیانی فاصلہ ______ ہے۔ (9)

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) 0 (D) 1

(10) Two lines can intersect at _______ point/points. | دو خطوط ______ نقطہ/نقاط پر قطع کر سکتے ہیں۔ (10)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(11) In a parallelogram opposite angle are: | متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ______ ہوتے ہیں۔ (11)

(A) Unequal غیر برابر (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Non-concurrent غیر ہم نقطہ

(12) The right bisectors of the sides of a triangle are: | کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ______ ہوتے ہیں۔ (12)

(A) Congruent متماثل (B) Equal برابر (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(13) Symbol used for similarity is: | متشابہ کے لیے علامت ______ استعمال ہوتی ہے۔ (13)

(A) " = " (B) $\longleftrightarrow$ (C) "≅" (D) " ~ "

(14) Area of parallelogram = _______. | متوازی الاضلاع کا رقبہ = ______ (14)

(A) Length x length لمبائی × لمبائی (B) Base x altitude قاعدہ کی لمبائی × ارتفاع

(C) Length x width لمبائی × چوڑائی (D) $\frac{1}{2}$(Base)(Altitude) $\frac{1}{2}$(قاعدہ)(ارتفاع)

(15) The medians of the three sides of a triangle are: | مثلث کے تینوں اضلاع کے وسطانیے ______ ہوتے ہیں۔ (15)

(A) Collinear ہم خط (B) Congruent متماثل (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

29(**SCIENCE GROUP**)(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1192	**2022 (A)** **SSC PART-I (9th CLASS)**	رول نمبر 105

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II — ریاضی (سائنس گروپ) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 — کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) If $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ then $x =$ _______ — اگر $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ تو $x =$ _______

(A) $\frac{dm - bn}{bc - ad}$ (B) $\frac{dm + bn}{ad - bc}$ (C) $\frac{dm + bn}{ad + bc}$ (D) $\frac{dm - bn}{ad - bc}$

(2) $\sqrt[3]{x^{27}} =$ _______

(A) x^9 (B) $x^{1/3}$ (C) x^7 (D) x^{87}

(3) $\log_e 10 \approx$ _____

(A) 23.026 (B) 2.3026 (C) 0.23026 (D) 1.23026

(4) $4ab =$ ______

(A) $(a-b)^2 - (a+b)^2$ (B) $(a+b)^2 \cdot (a-b)^2$ (C) $(a+b)^2 + (a-b)^2$ (D) $(a+b)^2 - (a-b)^2$

(5) The polynomial $(x - a)$ is a factor of the polynomial $P(x)$ if and only if $P(a) =$ ____ — اگر $(x - a)$ کثیررقمی $P(x)$ کا جزوضربی ہوتو $P(a)$ ہوگا۔

(A) a (B) x (C) 0 (D) 1

(6) What should be added to complete the square of $x^4 + 64$? — جملہ $x^4 + 64$ میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے۔

(A) $64x^2$ (B) $16x^2$ (C) $16x^4$ (D) $8x^2$

(7) $x =$ _____ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$ — $x =$ _____ غیرمساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔

(A) 0 (B) 3 (C) $\frac{3}{2}$ (D) -5

(8) 1 Acre $\approx$ ______ hectare. — 1 ایکڑ $\approx$ ______ ہیکٹر

(A) 0.6 (B) 0.5 (C) 0.4 (D) 0.2

(9) Mid point of the points (2, 2) and (0, 0) is: — نقاط (2, 2) اور (0, 0) کا درمیانی نقطہ ہے۔

(A) (1, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (−1, −1)

(10) Number of end points in a ray is: — شعاع میں سروں کی تعداد _______ ہوتی ہے۔

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

(11) Diagonals of a rectangle are: — مستطیل کے وتر ______ ہوتے ہیں۔

(A) Collinear ہم خط (B) Non-congruent غیرمتماثل (C) Congruent متماثل (D) Un equal نابرابر

(12) The right bisectors of the sides of a/an ______ triangle intersect each other outside the triangle. — ______ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے باہر قطع کرتے ہیں۔

(A) Obtuse منفرجہ (B) Acute حادہ (C) Equilateral متماثل الاضلاع (D) Right قائمۃ زاویہ

(13) Unit of ratio is: — نسبت کی اکائی ______ ہے۔

(A) Meter میٹر (B) Kilogram کلوگرام (C) No one کوئی نہیں (D) Second سیکنڈ

(14) Symbol used for therefore is: — پس یا نتیجہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔

(A) : : (B) : (C) $\because$ (D) $\therefore$

(15) The right bisectors of the three sides of a triangle are: — مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف _____ ہوتے ہیں۔

(A) Congruent متماثل (B) Collinear ہم خط (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

31**(SCIENCE GROUP)**(Obj)(☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1194

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II ریاضی (سائنس گروپ) گروپ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The right bisectors of the sides of a/an ______ triangle intersect each other outside the triangle. ______ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے باہر قطع کرتے ہیں۔ (1)

(A) Obtuse منفرجہ (B) Acute حادہ (C) Equilateral متماثل الاضلاع (D) Right قائمۃ زاویہ

(2) Unit of ratio is: نسبت کی اکائی ______ ہے۔ (2)

(A) Meter میٹر (B) Kilogram کلوگرام (C) No one کوئی نہیں (D) Second سیکنڈ

(3) Symbol used for therefore is: پس یا نتیجہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ (3)

(A) $::$ (B) $:$ (C) $\because$ (D) $\therefore$

(4) The right bisectors of the three sides of a triangle are: مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ______ ہوتے ہیں۔ (4)

(A) Congruent متماثل (B) Collinear ہم خط (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(5) If $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ then $x =$ ______ اگر $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ تو $x =$ ______ (5)

(A) $\dfrac{dm-bn}{bc-ad}$ (B) $\dfrac{dm+bn}{ad-bc}$ (C) $\dfrac{dm+bn}{ad+bc}$ (D) $\dfrac{dm-bn}{ad-bc}$

(6) $\sqrt[3]{x^{27}} =$ ______ $\sqrt[3]{x^{27}} =$ ______ (6)

(A) x^9 (B) $x^{1/3}$ (C) x^7 (D) x^{87}

(7) $\log_e 10 \approx$ ______ $\log_e 10 \approx$ ______ (7)

(A) 23.026 (B) 2.3026 (C) 0.23026 (D) 1.23026

(8) $4ab =$ ______ $4ab =$ ______ (8)

(A) $(a-b)^2-(a+b)^2$ (B) $(a+b)^2\cdot(a-b)^2$ (C) $(a+b)^2+(a-b)^2$ (D) $(a+b)^2-(a-b)^2$

(9) The polynomial $(x-a)$ is a factor of the polynomial $P(x)$ if and only if $P(a) =$ ____ اگر $(x-a)$ کثیر رقمی $P(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $P(a)$ ہوگا۔ (9)

(A) a (B) x (C) 0 (D) 1

(10) What should be added to complete the square of x^4+64? جملہ x^4+64 میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے۔ (10)

(A) $64x^2$ (B) $16x^2$ (C) $16x^4$ (D) $8x^2$

(11) $x =$ ______ is a solution of the inequality $-2 < x < \dfrac{3}{2}$ $x =$ ______ غیر مساوات $-2 < x < \dfrac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔ (11)

(A) 0 (B) 3 (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) -5

(12) 1 Acre $\approx$ ______ hectare. 1 ایکڑ $\approx$ ______ ہیکٹر (12)

(A) 0.6 (B) 0.5 (C) 0.4 (D) 0.2

(13) Mid point of the points (2, 2) and (0, 0) is: نقاط (2, 2) اور (0, 0) کا درمیانی نقطہ ہے۔ (13)

(A) (1, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (-1, -1)

(14) Number of end points in a ray is: شعاع میں سروں کی تعداد ______ ہوتی ہے۔ (14)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

(15) Diagonals of a rectangle are: مستطیل کے وتر ______ ہوتے ہیں۔ (15)

(A) Collinear ہم خط (B) Non-congruent غیر متماثل (C) Congruent متماثل (D) Un equal نابرابر

31(**SCIENCE GROUP**)(Obj)(☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1196

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

10

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II ریاضی (سائنس گروپ) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) 1 Acre ≈ ______ hectare. — 1 ایکڑ ≈ ______ ہیکٹر (1)

(A) 0.6 (B) 0.5 (C) 0.4 (D) 0.2

(2) Mid point of the points (2, 2) and (0, 0) is: — نقاط (2, 2) اور (0, 0) کا درمیانی نقطہ ہے۔ (2)

(A) (1, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (−1, −1)

(3) Number of end points in a ray is: — شعاع میں سروں کی تعداد ______ ہوتی ہے۔ (3)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

(4) Diagonals of a rectangle are: — مستطیل کے وتر ______ ہوتے ہیں۔ (4)

(A) Collinear ہم خط (B) Non-congruent غیر متماثل (C) Congruent متماثل (D) Un equal نابرابر

(5) The right bisectors of the sides of a/an ______ triangle intersect each other outside the triangle. — ______ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے باہر قطع کرتے ہیں۔ (5)

(A) Obtuse منفرجہ (B) Acute حادہ (C) Equilateral متماثل الاضلاع (D) Right قائمۃ زاویہ

(6) Unit of ratio is: — نسبت کی اکائی ______ ہے۔ (6)

(A) Meter میٹر (B) Kilogram کلوگرام (C) No one کوئی نہیں (D) Second سیکنڈ

(7) Symbol used for therefore is: — پس یا نتیجہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ (7)

(A) : : (B) : (C) ∵ (D) ∴

(8) The right bisectors of the three sides of a triangle are: — مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ______ ہوتے ہیں۔ (8)

(A) Congruent متماثل (B) Collinear ہم خط (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(9) If $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ then $x =$ ______ — اگر $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ تو $x =$ ______ (9)

(A) $\frac{dm - bn}{bc - ad}$ (B) $\frac{dm + bn}{ad - bc}$ (C) $\frac{dm + bn}{ad + bc}$ (D) $\frac{dm - bn}{ad - bc}$

(10) $\sqrt[3]{x^{27}} =$ ______ — $\sqrt[3]{x^{27}} =$ ______ (10)

(A) x^9 (B) $x^{1/3}$ (C) x^7 (D) x^{87}

(11) $\log_e 10 \approx$ ______ — $\log_e 10 \approx$ ______ (11)

(A) 23.026 (B) 2.3026 (C) 0.23026 (D) 1.23026

(12) $4ab =$ ______ — $4ab =$ ______ (12)

(A) $(a-b)^2 - (a+b)^2$ (B) $(a+b)^2 \cdot (a-b)^2$ (C) $(a+b)^2 + (a-b)^2$ (D) $(a+b)^2 - (a-b)^2$

(13) The polynomial $(x - a)$ is a factor of the polynomial $P(x)$ if and only if $P(a) =$ ______ — اگر $(x - a)$ کثیر رقمی $P(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $P(a)$ ہوگا۔ (13)

(A) a (B) x (C) 0 (D) 1

(14) What should be added to complete the square of $x^4 + 64$? — جملہ $x^4 + 64$ میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے۔ (14)

(A) $64x^2$ (B) $16x^2$ (C) $16x^4$ (D) $8x^2$

(15) $x =$ ______ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$ — $x =$ ______ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔ (15)

(A) 0 (B) 3 (C) $\frac{3}{2}$ (D) -5

31**(SCIENCE GROUP)**(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1198

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II ریاضی (سائنس گروپ) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15 کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The polynomial $(x-a)$ is a factor of the polynomial $P(x)$ if and only if $P(a) =$ ____ — اگر $(x-a)$ کثیر رقمی $P(x)$ کا جزو ضربی ہوتو $P(a)$ ہوگا۔

(A) a (B) x (C) 0 (D) 1

(2) What should be added to complete the square of $x^4 + 64$? — جملہ $x^4 + 64$ میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے۔

(A) $64x^2$ (B) $16x^2$ (C) $16x^4$ (D) $8x^2$

(3) $x =$ _____ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$ — $x =$ _____ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔

(A) 0 (B) 3 (C) $\frac{3}{2}$ (D) -5

(4) 1 Acre ≈ ______ hectare. — 1 ایکڑ ≈ ______ ہیکٹر

(A) 0.6 (B) 0.5 (C) 0.4 (D) 0.2

(5) Mid point of the points (2, 2) and (0, 0) is: — نقاط (2, 2) اور (0, 0) کا درمیانی نقطہ ہے۔

(A) (1, 0) (B) (0, 1) (C) (1, 1) (D) (-1, -1)

(6) Number of end points in a ray is: — شعاع میں سروں کی تعداد ______ ہوتی ہے۔

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

(7) Diagonals of a rectangle are: — مستطیل کے وتر ______ ہوتے ہیں۔

(A) Collinear ہم خط (B) Non-congruent غیر متماثل (C) Congruent متماثل (D) Un equal نابرابر

(8) The right bisectors of the sides of a/an ______ triangle intersect each other outside the triangle. — ______ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے باہر قطع کرتے ہیں۔

(A) Obtuse منفرجہ (B) Acute حادہ (C) Equilateral متماثل الاضلاع (D) Right قائمہ زاویہ

(9) Unit of ratio is: — نسبت کی اکائی ______ ہے۔

(A) Meter میٹر (B) Kilogram کلوگرام (C) No one کوئی نہیں (D) Second سیکنڈ

(10) Symbol used for therefore is: — پس یا نتیجہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔

(A) $::$ (B) $:$ (C) $\because$ (D) $\therefore$

(11) The right bisectors of the three sides of a triangle are: — مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ______ ہوتے ہیں۔

(A) Congruent متماثل (B) Collinear ہم خط (C) Concurrent ہم نقطہ (D) Parallel متوازی

(12) If $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ then $x =$ ______ — اگر $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$ تو $x =$ ______

(A) $\frac{dm - bn}{bc - ad}$ (B) $\frac{dm + bn}{ad - bc}$ (C) $\frac{dm + bn}{ad + bc}$ (D) $\frac{dm - bn}{ad - bc}$

(13) $\sqrt[3]{x^{27}} =$ ______

(A) x^9 (B) $x^{1/3}$ (C) x^7 (D) x^{87}

(14) $\log_e 10 \approx$ _____

(A) 23.026 (B) 2.3026 (C) 0.23026 (D) 1.23026

(15) $4ab =$ ______

(A) $(a-b)^2 - (a+b)^2$ (B) $(a+b)^2 \cdot (a-b)^2$ (C) $(a+b)^2 + (a-b)^2$ (D) $(a+b)^2 - (a-b)^2$

31(**SCIENCE GROUP**)(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

رول نمبر 109

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II — ریاضی (سائنس گروپ) گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours — **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ — وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60 — کل نمبر = 60

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define rectangular matrix. — مستطیلی قالب کی تعریف کریں۔

(ii) If $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, then verify that $(B^t)^t = B$ — اگر $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ ہو تو تصدیق کریں کہ $(B^t)^t = B$

(iii) Simplify. $\dfrac{x^{-2}.\,x^{-3}.\,y^{7}}{x^{-3}.\,y^{4}}$ — مختصر کریں۔ $\dfrac{x^{-2}.\,x^{-3}.\,y^{7}}{x^{-3}.\,y^{4}}$

(iv) Evaluate $(-i)^5$ — قیمت معلوم کریں۔ $(-i)^5$

(v) Find the value of x if $\log_{64} 8 = \dfrac{x}{2}$ — x کی قیمت معلوم کریں اگر $\log_{64} 8 = \dfrac{x}{2}$

(vi) Calculate $\log_5 3 \times \log_3 25$ — مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کریں۔ $\log_5 3 \times \log_3 25$

(vii) Simplify $\left(\sqrt{2}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2}-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$ — مختصر کریں۔ $\left(\sqrt{2}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2}-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(viii) Rationalize the denominator of $\dfrac{15}{\sqrt{31}-4}$ — مندرجہ ذیل کے مخرج کو ناطق بنائیں۔ $\dfrac{15}{\sqrt{31}-4}$

(ix) Factorize $128am^2 - 242an^2$ — تجزی کریں۔ $128am^2 - 242an^2$

3. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6**

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find H.C.F of $102xy^2z,\ 85x^2yz,\ 187xyz^2$ — عادِ اعظم معلوم کریں۔ $102xy^2z,\ 85x^2yz,\ 187xyz^2$

(ii) Solve the equation $\dfrac{3x}{2} - \dfrac{x-2}{3} = \dfrac{25}{6}$ — مساوات کو حل کریں۔ $\dfrac{3x}{2} - \dfrac{x-2}{3} = \dfrac{25}{6}$

(iii) Define linear equation. — یک درجی مساوات کی تعریف کریں۔

(iv) Draw the points on the graph paper. $(-6, 4)$ and $(4, -5)$ — دیئے گئے نقاط کو گراف پیپر پر ظاہر کریں۔ $(-6, 4)$ اور $(4, -5)$


(v) Define Cartesian Plane. — کارتیسی مستوی کی تعریف کریں۔

(vi) Find the distance between two points. $A(-4, \sqrt{2}),\ B(-4, -3)$ — دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔

(vii) Define scalene triangle. — مختلف الاضلاع مثلث کی تعریف کریں۔

(viii) What is meant by S.S.S ≅ S.S.S? — ض۔ض۔ض ≅ ض۔ض۔ض سے کیا مراد ہے؟


(ix) Find the unknown values of x^o, y^o, m^o, n^o in the given figure. — دی گئی شکل میں x^o، y^o، m^o، n^o کی مقدار معلوم کریں۔



(ورق الٹیے)

4. Attempt any six parts. **12 = 2 x 6** سوال نمبر4۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) In congruent triangles LMO and LNO find x and m. دی گئی متماثل مثلثان LMO اور LNO میں x اور m کی مقدار معلوم کیجیے۔ (i)



(ii) 2cm, 3cm and 5cm are not lengths of a triangle. Give reason. دلیل سے ثابت کیجیے کہ 2 سم، 3 سم اور 5 سم کسی مثلث کی لمبائیاں نہیں ہیں۔ (ii)


(iii) Define ratio. نسبت کی تعریف کیجیے۔ (iii)

(iv) State converse of pythagoras theorem. عکس مسئلہ فیثا غورث بیان کیجیے۔ (iv)

(v) Define interior of a rectangle. مستطیل کے اندرونہ کی تعریف کیجیے۔ (v)

(vi) Verify that the triangle having measures of sides is right-angled $a = 5cm$, $b = 12cm$ and $c = 13cm$ تصدیق کیجیے کہ $a = 5cm$، $b = 12cm$ اور $c = 13cm$ کے اضلاع والی مثلث قائمۃ الزاویہ ہے۔ (vi)

(vii) Find the area. رقبہ معلوم کیجیے (vii)



(viii) Define incentre of the triangle. مثلث کے اندرونی مرکز (اِن سنٹر) کی تعریف کیجیے۔ (viii)

(ix) Construct triangle XYZ in which $m\overline{ZX} = 6.4\,cm,\ m\overline{YZ} = 2.4\,cm,\ m\angle Y = 90^o$ مثلث XYZ بنائیے جس میں (ix)

SECTION-II حصہ دوم

24 = 8 x 3 نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

NOTE: Attempt any three questions. Question No.9 is compulsory.

5.(A) Solve by using the matrix inversion method. $4x + 2y = 8,\ 3x - y = -1$ قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے۔ (الف)-5

(B) Simplify. $\left(\frac{a^p}{a^q}\right)^{p+q} \cdot \left(\frac{a^q}{a^r}\right)^{q+r} \div 5\left(a^p . a^r\right)^{p-r},\quad a \neq 0$ مختصر کیجیے۔ (ب)

6.(A) Use logarithm to find the value of $\frac{(1.23)\,(0.6975)}{(0.0075)(1278)}$ $\frac{(1.23)\,(0.6975)}{(0.0075)(1278)}$ لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کریں۔ (الف)-6

(B) If $m + n + p = 10$ and $mn + np + mp = 27$, then find the value of $m^2 + n^2 + p^2$ اگر $m + n + p = 10$ اور $mn + np + mp = 27$ ہو تو $m^2 + n^2 + p^2$ کی قیمت معلوم کریں۔ (ب)

7.(A) Factorize the polynomial by factor theorem. $3x^3 - x^2 - 12x + 4$ مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کریں۔ (الف)-7

(B) Simplify to the lowest form. $\frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 6} \times \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$ $\frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 6} \times \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$ سادہ ترین جملہ میں مختصر کریں۔ (ب)

8.(A) Solve the equation $\frac{5(x-3)}{6} - x = 1 - \frac{x}{9}$ $\frac{5(x-3)}{6} - x = 1 - \frac{x}{9}$ مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں۔ (الف)-8

$m\overline{AB} = 2.4\,cm,\ m\overline{AC} = 3.2\,cm,\ m\angle A = 120^o$ مثلث ABC بنائیں ان کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیں اور تصدیق کریں کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔ (ب)

(B) Construct the triangle ABC. Draw the perpendicular bisectors of their sides and verify their concurrency. $m\overline{AB} = 2.4\,cm,\ m\overline{AC} = 3.2\,cm,\ m\angle A = 120^o$

ثابت کریں کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ -9

9. Prove that: Any pont equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it.

OR یا

ثابت کریں کہ: ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

Prove that: Triangles on equal bases and equal altitudes are equal in area.

31**(SCIENCE GROUP)**-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

notespk.com

46

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022 (Old course)

Name of Subject: Pakistan Studies Session: 2022 (A)

Q.Nos	Paper Code 5911	Paper Code 5913	Paper Code 5915	Paper Code 5917
1	A	A	B	C
2	C	C	D	C
3	C	D	A	B
4	B	D	C	D
5	D	A	D	A
6	A	A	D	C
7	C	C	A	D
8	D	C	A	D
9	D	B	C	A
10	A	D	C	A
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

(Old course) سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون مطالعہ پاکستان پرچہ Ist گروپ Ist میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 11-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Sajjad Hussain	SST	GHS, Piran Ghaib, Multan	0301-7550690	[signature]
2	Tariq Umar	SST	Govt Atta Faiz-e-Aam HSS Multan	0300-6366851	[signature]
3	Muhammad Ramzan	S.S.T	Govt Bukhari Public H/S MNT	0304-7741458	M. Ramzan
4	Muhammad Shahid	SST	GHS, Hajipur, Kabirwala (KWL)	0333-6232775	[signature]

Checked by

1- Muhammad Zia-ur-Rehman S.S.T, Govt Comprehensive H/Sec School Multan 03058839085

2- Tahir Rehman S.S.T, Govt Islamia H-School Dolatgate Multan 03007339893

notespk.com

PAP CODE NUMBER: 5911

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (OLD COURSE) — مطالعہ پاکستان (لازمی) (پرانا نصاب)

GROUP-I — گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes — وقت = 15 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) State Bank of Pakistan was inaugurated in: — سٹیٹ بنک اف پاکستان کا افتتاح ہوا۔ (1)

(A) 1st July 1948 یکم جولائی 1948 (B) 5th May 1948 5 مئی 1948

(C) 14th August 1949 14 اگست 1949 (D) 1st October 1949 یکم اکتوبر 1949

(2) The Supreme authority in Islam is: — اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ (2)

(A) President of State صدر مملکت (B) Parliament پارلیمنٹ (C) Almighty Allah اللہ تعالیٰ (D) Public عوام

(3) Quaid-e-Azam presented fourteen points in: — قائداعظم نے چودہ نکات پیش کیے۔ (3)

(A) 1909 AD ء میں (B) 1919 AD ء میں (C) 1929 AD ء میں (D) 1939 AD ء میں

(4) Muslim League declared the day as direct action day: — مسلم لیگ نے یوم راست اقدام قرار دیا۔ (4)

(A) 1st August 1946 یکم اگست 1946 (B) 16th August 1946 16 اگست 1946

(C) 29th August 1946 29 اگست 1946 (D) 3rd June1947 3 جون 1947

(5) The National animal of Pakistan is: — پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (5)

(A) Deer ہرن (B) Lion شیر (C) Chakor چکور (D) Markhor مارخور

(6) The area of Pakistan coverd with forest is: — پاکستان کا رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ (6)

(A) 05 % فیصد (B) 07 % فیصد (C) 09 % فیصد (D) 15 % فیصد

(7) With the efforts of the United Nations a cease fire took place in the war of 1965 on: — اقوام متحدہ کی کوششوں سے 1965ء کی جنگ بند ہوئی۔ (7)

(A) 12th September, 1965 12 ستمبر 1965 (B) 15th September, 1965 15 ستمبر 1965

(C) 23rd September, 1965 23 ستمبر 1965 (D) 25th September, 1965 25 ستمبر 1965

(8) The duration of third five year development plan is: — تیسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ ہے۔ (8)

(A) 1950-1955 (B) 1955-1960 (C) 1960-1965 (D) 1965-1970

(9) The Objectives Resolution was passed in: — قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ (9)

(A) 1940 AD ء میں (B) 1947 AD ء میں (C) 1948 AD ء میں (D) 1949 AD ء میں

(10) The Punjab Government passed the "Punjab Protection of Women Against Violence Act" on — پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں تشدد ایکٹ منظور کیا۔ (10)

(A) 24th February, 2016 24 فروری 2016 (B) 23rd March, 2016 23 مارچ 2016

(C) 2nd May, 2016 2 مئی 2016 (D) 15th June, 2016 15 جون 2016

13(O)(Obj)(☆)-2022(A)-880 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 5913

2022 (A)

رول نمبر ____________

SSC PART-I (9th CLASS)

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (OLD COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (پرانا نصاب)

GROUP-I گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The area of Pakistan coverd with forest is: پاکستان کا رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ (1)

(A) 05 % فیصد (B) 07 % فیصد (C) 09 % فیصد (D) 15 % فیصد

(2) With the efforts of the United Nations a cease fire took place in the war of 1965 on: اقوام متحدہ کی کوششوں سے 1965ء کی جنگ بند ہوئی۔ (2)

(A) 12th September, 1965 12 ستمبر 1965 (B) 15th September, 1965 15 ستمبر 1965
(C) 23rd September, 1965 23 ستمبر 1965 (D) 25th September, 1965 25 ستمبر 1965

(3) The duration of third five year development plan is: تیسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ ہے۔ (3)

(A) 1950-1955 (B) 1955-1960 (C) 1960-1965 (D) 1965-1970

(4) The Objectives Resolution was passed in: قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ (4)

(A) 1940ء میں 1940 AD (B) 1947ء میں 1947 AD (C) 1948ء میں 1948 AD (D) 1949ء میں 1949 AD

(5) The Punjab Government passed the "Punjab Protection of Women Against Violence Act" on پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں تشدد ایکٹ منظور کیا۔ (5)

(A) 24th February, 2016 24 فروری 2016 (B) 23rd March, 2016 23 مارچ 2016
(C) 2nd May, 2016 2 مئی 2016 (D) 15th June, 2016 15 جون 2016

(6) State Bank of Pakistan was inaugurated in: سٹیٹ بنک اف پاکستان کا افتتاح ہوا۔ (6)

(A) 1st July 1948 یکم جولائی 1948 (B) 5th May 1948 5 مئی 1948
(C) 14th August 1949 14 اگست 1949 (D) 1st October 1949 یکم اکتوبر 1949

(7) The Supreme authority in Islam is: اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ (7)

(A) President of State صدر مملکت (B) Parliament پارلیمنٹ (C) Almighty Allah اللہ تعالیٰ (D) Public عوام

(8) Quaid-e-Azam presented fourteen points in: قائد اعظم نے چودہ نکات پیش کیے۔ (8)

(A) 1909ء میں 1909 AD (B) 1919ء میں 1919 AD (C) 1929ء میں 1929 AD (D) 1939ء میں 1939 AD

(9) Muslim League declared the day as direct action day: مسلم لیگ نے یوم راست اقدام قرار دیا۔ (9)

(A) 1st August 1946 یکم اگست 1946 (B) 16th August 1946 16 اگست 1946
(C) 29th August 1946 29 اگست 1946 (D) 3rd June1947 3 جون 1947

(10) The National animal of Pakistan is: پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (10)

(A) Deer ہرن (B) Lion شیر (C) Chakor چکور (D) Markhor مارخور

13(O)(Obj)(☆☆)-2022(A)- (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 5915

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر (149)

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (OLD COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (پرانا نصاب)

GROUP-I گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Muslim League declared the day as direct action day: مسلم لیگ نے یوم راست اقدام قرار دیا۔ (1)

(A) 1st August 1946 کیم اگست 1946
(B) 16th August 1946 16 اگست 1946
(C) 29th August 1946 29 اگست 1946
(D) 3rd June1947 3 جون 1947

(2) The National animal of Pakistan is: پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (2)

(A) Deer ہرن
(B) Lion شیر
(C) Chakor چکور
(D) Markhor مارخور

(3) The area of Pakistan coverd with forest is: پاکستان کا رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ (3)

(A) 05 % فیصد
(B) 07 % فیصد
(C) 09 % فیصد
(D) 15 % فیصد

(4) With the efforts of the United Nations a cease fire took place in the war of 1965 on: اقوام متحدہ کی کوششوں سے 1965ء کی جنگ بند ہوئی۔ (4)

(A) 12th September, 1965 12 ستمبر 1965
(B) 15th September, 1965 15 ستمبر 1965
(C) 23rd September, 1965 23 ستمبر 1965
(D) 25th September, 1965 25 ستمبر 1965

(5) The duration of third five year development plan is: تیسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ ہے۔ (5)

(A) 1950-1955
(B) 1955-1960
(C) 1960-1965
(D) 1965-1970

(6) The Objectives Resolution was passed in: قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ (6)

(A) 1940 AD ء میں
(B) 1947 AD ء میں
(C) 1948 AD ء میں
(D) 1949 AD ء میں

(7) The Punjab Government passed the "Punjab Protection of Women Against Violence Act" on پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں تشدد ایکٹ منظور کیا۔ (7)

(A) 24th February, 2016 24 فروری 2016
(B) 23rd March, 2016 23 مارچ 2016
(C) 2nd May, 2016 2 مئی 2016
(D) 15th June, 2016 15 جون 2016

(8) State Bank of Pakistan was inaugurated in: سٹیٹ بنک اف پاکستان کا افتتاح ہوا۔ (8)

(A) 1st July 1948 کیم جولائی 1948
(B) 5th May 1948 5 مئی 1948
(C) 14th August 1949 14 اگست 1949
(D) 1st October 1949 کیم اکتوبر 1949

(9) The Supreme authority in Islam is: اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ (9)

(A) President of State صدر مملکت
(B) Parliament پارلیمنٹ
(C) Almighty Allah اللہ تعالیٰ
(D) Public عوام

(10) Quaid-e-Azam presented fourteen points in: قائد اعظم نے چودہ نکات پیش کیے۔ (10)

(A) 1909 AD ء میں
(B) 1919 AD ء میں
(C) 1929 AD ء میں
(D) 1939 AD ء میں

13(O)(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-880 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 5917

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (OLD COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (پرانا نصاب)

GROUP-I گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The Supreme authority in Islam is: اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ (1)

(A) President of State صدر مملکت (B) Parliament پارلیمنٹ (C) Almighty Allah اللہ تعالیٰ (D) Public عوام

(2) Quaid-e-Azam presented fourteen points in: قائد اعظم نے چودہ نکات پیش کیے۔ (2)

(A) 1909 AD ء میں (B) 1919 AD ء میں (C) 1929 AD ء میں (D) 1939 AD ء میں

(3) Muslim League declared the day as direct action day: مسلم لیگ نے یوم راست اقدام قرار دیا۔ (3)

(A) 1st August 1946 یکم اگست 1946 (B) 16th August 1946 16 اگست 1946

(C) 29th August 1946 29 اگست 1946 (D) 3rd June1947 3 جون 1947

(4) The National animal of Pakistan is: پاکستان کا قومی جانور ہے۔ (4)

(A) Deer ہرن (B) Lion شیر (C) Chakor چکور (D) Markhor مارخور

(5) The area of Pakistan coverd with forest is: پاکستان کا رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ (5)

(A) 05 % فیصد (B) 07 % فیصد (C) 09 % فیصد (D) 15 % فیصد

(6) With the efforts of the United Nations a cease fire took place in the war of 1965 on: اقوام متحدہ کی کوششوں سے 1965ء کی جنگ بند ہوئی۔ (6)

(A) 12th September, 1965 12 ستمبر 1965 (B) 15th September, 1965 15 ستمبر 1965

(C) 23rd September, 1965 23 ستمبر 1965 (D) 25th September, 1965 25 ستمبر 1965

(7) The duration of third five year development plan is: تیسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ ہے۔ (7)

(A) 1950-1955 (B) 1955-1960 (C) 1960-1965 (D) 1965-1970

(8) The Objectives Resolution was passed in: قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ (8)

(A) 1940 AD ء میں (B) 1947 AD ء میں (C) 1948 AD ء میں (D) 1949 AD ء میں

(9) The Punjab Government passed the "Punjab Protection of Women Against Violence Act" on پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں تشدد ایکٹ منظور کیا۔ (9)

(A) 24th February, 2016 24 فروری 2016 (B) 23rd March, 2016 23 مارچ 2016

(C) 2nd May, 2016 2 مئی 2016 (D) 15th June, 2016 15 جون 2016

(10) State Bank of Pakistan was inaugurated in: سٹیٹ بنک اف پاکستان کا افتتاح ہوا۔ (10)

(A) 1st July 1948 یکم جولائی 1948 (B) 5th May 1948 5 مئی 1948

(C) 14th August 1949 14 اگست 1949 (D) 1st October 1949 یکم اکتوبر 1949

13(O)(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-880 (MULTAN)

2022 (A) رول نمبر ______

SSC PART-I (9th CLASS)

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (OLD COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (پرانا نصاب)

GROUP-I گروپ ۔ پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 1.45 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 40 کل نمبر = 40

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the saying of the Rasool-e-Akram خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم about "Brotherhood"?
(i) " اخوت " کے بارے میں رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے؟

(ii) What did Quaid-e-Azam(RA) say about nationalism?
(ii) قائداعظمؒ نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا؟

(iii) Define Ideology of Pakistan.
(iii) نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔

(iv) Write the translation of the Quranic Verse. اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ٥
(iv) قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیے۔

(v) Write two points on the distribution of assets between India and Pakistan.
(v) پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اثاثوں کی تقسیم پر دو نکات لکھیں۔

(vi) When and where the first Prime Minister of Pakistan Liaquat Ali Khan was born?
(vi) پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

(vii) Write down any two Islamic provisions of Constitution 1956.
(vii) 1956ء کے آئین کی کوئی سی دو اسلامی دفعات لکھیں۔

(viii) Write brief introduction of Hazrat Khadija(R.A) in two sentences.
(viii) حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف دو جملوں میں لکھیں۔

(ix) "Terrorism" is a curse, discuss it briefly.
(ix) دہشت گردی ایک لعنت ہے۔ مختصراً بیان کریں۔

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How were the provincial groups formed in the cabinet mission plan 1946?
(i) کابینہ مشن پلان 1946ء میں صوبائی گروپوں کی تشکیل کیسے ہوئی؟

(ii) Define the text of the "Pakistan Resolution."
(ii) قرارداد پاکستان کے متن کا مفہوم بیان کیجیے۔

(iii) Narrate the stand-point of Quaid-e-Azam on Rowlatt Act, 1919.
(iii) رولٹ ایکٹ 1919ء پر قائداعظمؒ کا موقف بیان کیجیے۔

(iv) At the time of partition in 1947, which states remained undecided for affiliation?
(iv) 1947ء کی تقسیم کے وقت کون کون سی ریاستوں کے الحاق کا فیصلہ نہ ہو سکا؟

(v) Write the name of two famous passes located in the Waziristan Hills.
(v) وزیرستان کی پہاڑیوں میں کون سے دو مشہور درّے واقع ہیں؟

(vi) Writre a brief introduction of "The Greater Himalayan Range".
(vi) ہمالیہ کبیر کے پہاڑی سلسلے کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔

(vii) Where is "Toba Kakar Mountain Range" situated?
(vii) ٹوبا کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقع ہے؟

(viii) What is meant by Natural Region?
(viii) قدرتی خطے سے کیا مراد ہے؟

(ix) What is glacier?
(ix) گلیشیر کسے کہتے ہیں؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 16 = 8 x 2 نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Describe the importance of the location of Pakistan.
4۔ پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت بیان کیجیے۔

5. Elaborate the causes of the separation of East Pakistan.
5۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب بیان کیجیے۔

6. Write notes on: 4 + 4 = 8
6۔ نوٹ لکھیں۔

(i) Ideology of Pakistan and Quaid-e-Azam نظریہ پاکستان اور قائداعظم
(ii) C.R Furmula 1944 AD سی آر فارمولا 1944ء

13(O)-2022(A)-880 (MULTAN)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: مطالعہ پاکستان Session: مطالعہ پاکستان

Group: 1st (New Course)

Q. Nos	Paper Code 1911	Paper Code 1913	Paper Code 1915	Paper Code 1917
1	C	A	B	A
2	D	B	A	B
3	A	C	C	D
4	B	D	A	B
5	D	A	B	A
6	B	B	C	C
7	A	D	D	A
8	C	B	A	B
9	A	A	B	C
10	B	C	D	D
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Group: 2nd (New course)

Q. Nos	Paper Code 1912	Paper Code 1914	Paper Code 1916	Paper Code 1918
1	C	A	B	B
2	B	C	A	A
3	D	D	B	C
4	A	B	A	B
5	C	A	C	D
6	D	B	B	A
7	B	A	D	C
8	A	C	A	D
9	B	B	C	B
10	A	D	D	A
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون مطالعہ پاکستان پرچہ مطالعہ پاکستان گروپ I, II سکیم 2021-22 میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: **Dated:** 11-06-22

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Tariq Umar	SST	GHS Atta Faiz-e-Aam Multan	0300 6366851	[signature]
2	Muhammad Ramzan	S.S.T	G. Bokhari Public H/S MNT	0304-7741456	M. Ramzan
3	Sajjad Hussain	SST	GHS, Piran Ghaib, Multan	0301-7550690	[signature]
4	Muhammad Shahid	SST	GHS, Hajipur, Kabirwala KWL	0333-6232775	[signature]
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی)، معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کر لی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Muhammad Zia-u-Rehman	S.S.T	Govt Comprehensive H.Sec. School	03058839085	[signature]
2	Tahir Rehman	S.S.T	Govt Islamia H.S Multan	03007339793	Tahir 12-06-22
3					

تاریخ 12.06.2022

2022 (A) رول نمبر ____

SSC PART-I (9th CLASS)

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیانصاب)

GROUP-I گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 40 کل نمبر = 40

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper. نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down four Pillars of Islam. چار ارکان اسلام تحریر کریں۔ (i)

(ii) When and who released a pamphlet titled "Now or Never"? اب یا پھر کبھی نہیں "Now or Never" کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ (ii)

(iii) What is meant by Aqeeda-e-Risalat? عقیدۂ رسالت سے کیا مراد ہے؟ (iii)

(iv) Write full name and total area of Pakistan. پاکستان کا پورا نام اور رقبہ تحریر کریں۔ (iv)

(v) When and where was Sir Syed Ahmad Khan born? سرسید احمد خاں کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ (v)

(vi) Write two points about distribution of Military Assets. فوجی اثاثوں کی تقسیم پر دو نکات لکھیں۔ (vi)

(vii) Write the basic objectives of Aligrah movement. تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد تحریر کریں۔ (vii)

(viii) About how many semi, autonomous princely states were there in the subcontinent? Name any two of them. برصغیر میں لگ بھگ کتنی دیسی ریاستیں تھیں؟ دو کے نام لکھیں۔ (viii)

(ix) Write any four salient features of the constitution of 1956. 1956ء کے آئین کی چار خصوصیات تحریر کریں۔ (ix)

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Indicate any two benefits of the forests. جنگلات کے دو فوائد لکھیں۔ (i)

(ii) Write the names of four central Asian Muslim countries. چار وسطی ایشیائی مسلم ممالک کے نام تحریر کریں۔ (ii)

(iii) Describe the importance of glaciers. گلیشیئرز کی اہمیت بیان کریں۔ (iii)

(iv) How is the climate in a humid mountain region? مرطوب پہاڑی خطے کی آب و ہوا کیسی ہے؟ (iv)

(v) Write the names of two hunting birds found in Pakistan. پاکستان میں پائے جانے والے دو شکاری پرندوں کے نام لکھیں۔ (v)

(vi) Describe the rights of women in the light of an Ayat of the Holy Quran. قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ (vi)

(vii) According to United Nations, what is meant by violence against women? اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے؟ (vii)

(viii) Describe the services of Lady Nusrat Haroon. لیڈی نصرت ہارون کی خدمات بیان کیجیے۔ (viii)

(ix) Define terrorism. دہشت گردی کی تعریف کریں۔ (ix)

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 16 = 8 x 2 نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Explain the Elements of Ideology of Pakistan in detail. نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ 4۔

5. Describe the salient features of Objectives Resolution. قرارداد مقاصد کے اہم نکات بیان کریں۔ 5۔

6. Write notes on: 4 + 4 = 8 نوٹ لکھیں۔ 6۔

(i) Koh-e-Himalayas کوہ ہمالیہ (ii) Salinity and Waterlogging سیم و تھور

13(N)-2022(A)-70000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1911

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE)

مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیا نصاب)

GROUP-I

گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10

کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The word used for "Nazria" in English is: — نظریہ کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ (1)

(A) Theme مفہوم (B) Thought خیال (C) Ideology آئیڈیالوجی (D) Vision تخیل

(2) The period of Congress Ministries remained: — کانگریسی وزارتوں کا دور رہا۔ (2)

(A) 1933-35 (B) 1939-41 (C) 1941-43 (D) 1937-39

(3) Syed Ahmad Shaheed was martyred at: — "سید احمد شہید" ______ میں شہید ہوئے۔ (3)

(A) Balakot بالاکوٹ (B) Bengal بنگال (C) Sialkot سیالکوٹ (D) Kashmir کشمیر

(4) The second round table conference was held in: — دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ (4)

(A) 1930 AD ء میں (B) 1931 AD ء میں (C) 1932 AD ء میں (D) 1933 AD ء میں

(5) The ______ was named as "Liaquat Bagh": — ______ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ (5)

(A) Bagh-e-Jinnah باغِ جناح (B) Committee Bagh کمیٹی باغ (C) Bagh-e-Korangi کورنگی باغ (D) Company Bagh کمپنی باغ

(6) Nehru Report was presented in: — نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ (6)

(A) 1938 AD ء میں (B) 1928 AD ء میں (C) 1918 AD ء میں (D) 1908 AD ء میں

(7) In the South of Pakistan ______ is situated. — پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ (7)

(A) Arabian sea بحیرۂ عرب (B) Red sea بحیرۂ احمر (C) White sea بحیرۂ سفید (D) Dead sea بحیرۂ مردار

(8) The Doab between river Chenab and river Ravi is called: — دریائے چناب اور دریائے راوی کا درمیانی دوآبہ کہلاتا ہے۔ (8)

(A) Bari Doab باری دوآب (B) Chaj Doab چج دوآب (C) Rachna Doab رچنا دوآب (D) Sindh Sagar Doab سندھ ساگر دوآب

(9) Out of the total area for the development of any country, the percentage of area for forestation should be: — کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبہ کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ (9)

(A) 25 % (B) 35 % (C) 45 % (D) 55 %

(10) The woman who hoisted the Muslim League flag on Civil Secretariat was: — سول سیکرٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی خاتون تھیں۔ (10)

(A) [Sug]hra Sadaf صغریٰ صدف (B) Fatima Sughra فاطمہ صغریٰ

(C) [F]atima Jinnah محترمہ فاطمہ جناح (D) Fatima Aafandi فاطمہ آفندی

13(N)(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1913

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیانصاب)

GROUP-I گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Out of the total area for the development of any country, the percentage of area for forestation should be: (1) کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبہ کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔

(A) 25 % (B) 35 % (C) 45 % (D) 55 %

(2) The woman who hoisted the Muslim League flag on the Civil Secretariat was: (2) سول سیکرٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی خاتون تھیں۔

(A) Sughra Sadaf صغریٰ صدف (B) Fatima Sughra فاطمہ صغریٰ
(C) Mohtarma Fatima Jinnah محترمہ فاطمہ جناح (D) Fatima Aafandi فاطمہ آفندی

(3) The word used for "Nazria" in English is: (3) نظریہ کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔

(A) Theme مفہوم (B) Thought خیال (C) Ideology آئیڈیالوجی (D) Vision تخیل

(4) The period of Congress Ministries remained: (4) کانگریسی وزارتوں کا دور رہا۔

(A) 1933-35 (B) 1939-41 (C) 1941-43 (D) 1937-39

(5) Syed Ahmad Shaheed was martyred at: (5) " سید احمد شہیدؒ " ______ میں شہید ہوئے۔

(A) Balakot بالاکوٹ (B) Bengal بنگال (C) Sialkot سیالکوٹ (D) Kashmir کشمیر

(6) The second round table conference was held in: (6) دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔

(A) 1930 AD ء میں (B) 1931 AD ء میں (C) 1932 AD ء میں (D) 1933 AD ء میں

(7) The ______ was named as "Liaquat Bagh": (7) ______ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کیا گیا۔

(A) Bagh-e-Jinnah باغِ جناح (B) Committee Bagh کمیٹی باغ (C) Bagh-e-Korangi کورنگی باغ (D) Company Bagh کمپنی باغ

(8) Nehru Report was presented in: (8) نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔

(A) 1938 AD ء میں (B) 1928 AD ء میں (C) 1918 AD ء میں (D) 1908 AD ء میں

(9) In the South of Pakistan ______ is situated. (9) پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔

(A) Arabian sea بحیرۂ عرب (B) Red sea بحیرۂ احمر (C) White sea بحیرۂ سفید (D) Dead sea بحیرۂ مردار

(10) The Doab between river Chenab and river Ravi is called: (10) دریائے چناب اور دریائے راوی کا درمیانی دوآبہ کہلاتا ہے۔

(A) Bari Doab باری دوآب (B) Chaj Doab چج دوآب (C) Rachna Doab رچنا دوآب (D) Sindh Sagar Doab سندھ ساگر دوآب

13(N)(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1915	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ______

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیا نصاب)

GROUP-I گروپ - پہلا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Nehru Report was presented in: نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ (1)

(A) 1938ء میں 1938 AD (B) 1928ء میں 1928 AD (C) 1918ء میں 1918 AD (D) 1908ء میں 1908 AD

(2) In the South of Pakistan _______ is situated. پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ (2)

(A) Arabian sea بحیرۂ عرب (B) Red sea بحیرۂ احمر (C) White sea بحیرۂ سفید (D) Dead sea بحیرۂ مردار

(3) The Doab between river Chenab and river Ravi is called: دریائے چناب اور دریائے راوی کا درمیانی دوآبہ کہلاتا ہے۔ (3)

(A) Bari Doab باری دوآب (B) Chaj Doab چج دوآب (C) Rachna Doab رچنا دوآب (D) Sindh Sagar Doab سندھ ساگر دوآب

(4) Out of the total area for the development of any country, the percentage of area for forestation should be: کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبہ کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ (4)

(A) 25 % (B) 35 % (C) 45 % (D) 55 %

(5) The woman who hoisted the Muslim League flag on the Civil Secretariat was: سول سیکرٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی خاتون تھیں۔ (5)

(A) Sughra Sadaf صغریٰ صدف (B) Fatima Sughra فاطمہ صغریٰ

(C) Mohtarma Fatima Jinnah محترمہ فاطمہ جناح (D) Fatima Aafandi فاطمہ آفندی

(6) The word used for "Nazria" in English is: نظریہ کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ (6)

(A) Theme مفہوم (B) Thought خیال (C) Ideology آئیڈیالوجی (D) Vision تخیل

(7) The period of Congress Ministries remained: کانگریسی وزارتوں کا دور رہا۔ (7)

(A) 1933-35 (B) 1939-41 (C) 1941-43 (D) 1937-39

(8) Syed Ahmad Shaheed was martyred at: "سید احمد شہید" _______ میں شہید ہوئے۔ (8)

(A) Balakot بالاکوٹ (B) Bengal بنگال (C) Sialkot سیالکوٹ (D) Kashmir کشمیر

(9) The second round table conference was held in: دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ (9)

(A) 1930ء میں 1930 AD (B) 1931ء میں 1931 AD (C) 1932ء میں 1932 AD (D) 1933ء میں 1933 AD

(10) The ______ was named as "Liaquat Bagh": ______ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ (10)

(A) Bagh-e-Jinnah باغ جناح (B) Committee Bagh کمیٹی باغ (C) Bagh-e-Korangi کورنگی باغ (D) Company Bagh کمپنی باغ

13(N)(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1917	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ______

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) — مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیانصاب)

GROUP-I — گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Syed Ahmad Shaheed was martyred at: — "سید احمد شہید" ______ میں شہید ہوئے۔ (1)

(A) Balakot بالاکوٹ (B) Bengal بنگال (C) Sialkot سیالکوٹ (D) Kashmir کشمیر

(2) The second round table conference was held in: — دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ (2)

(A) 1930 AD ء میں (B) 1931 AD ء میں (C) 1932 AD ء میں (D) 1933 AD ء میں

(3) The ______ was named as "Liaquat Bagh": — ______ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ (3)

(A) Bagh-e-Jinnah باغِ جناح (B) Committee Bagh کمیٹی باغ (C) Bagh-e-Korangi کورنگی باغ (D) Company Bagh کمپنی باغ

(4) Nehru Report was presented in: — نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ (4)

(A) 1938 AD ء میں (B) 1928 AD ء میں (C) 1918 AD ء میں (D) 1908 AD ء میں

(5) In the South of Pakistan ______ is situated. — پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ (5)

(A) Arabian sea بحیرۂ عرب (B) Red sea بحیرۂ احمر (C) White sea بحیرۂ سفید (D) Dead sea بحیرۂ مردار

(6) The Doab between river Chenab and river Ravi is called: — دریائے چناب اور دریائے راوی کا درمیانی دوآبہ کہلاتا ہے۔ (6)

(A) Bari Doab باری دوآب (B) Chaj Doab چج دوآب (C) Rachna Doab رچنا دوآب (D) Sindh Sagar Doab سندھ ساگر دوآب

(7) Out of the total area for the development of any country, the percentage of area for forestation should be: — کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبہ کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ (7)

(A) 25 % (B) 35 % (C) 45 % (D) 55 %

(8) The woman who hoisted the Muslim League flag on the Civil Secretariat was: — سول سیکرٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی خاتون تھیں۔ (8)

(A) Sughra Sadaf صغریٰ صدف (B) Fatima Sughra فاطمہ صغریٰ

(C) Mohtarma Fatima Jinnah محترمہ فاطمہ جناح (D) Fatima Aafandi فاطمہ آفندی

(9) The word used for "Nazria" in English is: — نظریہ کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ (9)

(A) Theme مفہوم (B) Thought خیال (C) Ideology آئیڈیالوجی (D) Vision تخیل

(10) The period of Congress Ministries remained: — کانگریسی وزارتوں کا دور رہا۔ (10)

(A) 1933-35 (B) 1939-41 (C) 1941-43 (D) 1937-39

13(N)(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1914	2022 (A) **SSC PART-I (9th CLASS)**	رول نمبر ______

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیا نصاب)

GROUP-II گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) First world war started in: پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ (1)

(A) 1914 AD ء میں (B) 1915 AD ء میں (C) 1916 AD ء میں (D) 1917 AD ء میں

(2) Ulema declared the subcontinent: علماء نے برصغیر کو قرار دیا۔ (2)

(A) Dar-ul-Amaan دارالامان (B) Dar-ul-Salam دارالسلام (C) Dar-ul-Harb دارالحرب (D) Dar-ul-Saltanat دارالسلطنت

(3) Partition of Bengal was annulled in: بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ (3)

(A) 1908 AD ء میں (B) 1909 AD ء میں (C) 1910 AD ء میں (D) 1911 AD ء میں

(4) The country situated in the North of Pakistan is: پاکستان کے شمال میں واقع ملک ہے۔ (4)

(A) India بھارت (B) China چین (C) Sri Lanka سری لنکا (D) Turkey ترکی

(5) The desert situated between river Indus and Jhelum is: دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان واقع ریگستان ہے۔ (5)

(A) Thal تھل (B) Cholistan چولستان (C) Rohi روہی (D) Thar تھر

(6) Types of Environmental Pollution are: ماحولیاتی آلودگی کی اقسام ہیں۔ (6)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(7) Legal age for marriage of girls in Punjab is: پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر ہے۔ (7)

(A) 16 years 16سال (B) 18 years 18سال (C) 20 years 20 سال (D) 22 years 22 سال

(8) First pillar of Islam is: اسلام کا پہلا رکن ہے۔ (8)

(A) Namaz نماز (B) Fasting روزہ (C) Tauheed and Risalat توحید و رسالت (D) Zakat زکوٰۃ

(9) Number of pages of pamphlet "Now or Never" were: کتابچہ " اب یا پھر کبھی نہیں " کے صفحات تھے۔ (9)

(A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) Eight آٹھ

(10) Conquest of Muhammad Bin Qasim started from: محمد بن قاسم کی فتح کا آغاز ہوا۔ (10)

(A) Balochistan بلوچستان سے (B) Kashmir کشمیر سے (C) Punjab پنجاب سے (D) Sindh سندھ سے

15(N)(Obj)(☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1916

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیا نصاب)

GROUP-II گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The country situated in the North of Pakistan is: پاکستان کے شمال میں واقع ملک ہے۔ (1)

(A) India بھارت (B) China چین (C) Sri Lanka سری لنکا (D) Turkey ترکی

(2) The desert situated between river Indus and Jhelum is: دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان واقع ریگستان ہے۔ (2)

(A) Thal تھل (B) Cholistan چولستان (C) Rohi روہی (D) Thar تھر

(3) Types of Environmental Pollution are: ماحولیاتی آلودگی کی اقسام ہیں۔ (3)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(4) Legal age for marriage of girls in Punjab is: پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر ہے۔ (4)

(A) 16 years 16 سال (B) 18 years 18 سال (C) 20 years 20 سال (D) 22 years 22 سال

(5) First pillar of Islam is: اسلام کا پہلا رکن ہے۔ (5)

(A) Namaz نماز (B) Fasting روزہ (C) Tauheed and Risalat توحیدورسالت (D) Zakat زکوٰۃ

(6) Number of pages of pamphlet "Now or Never" were: کتابچہ " اب یا پھر کبھی نہیں " کے صفحات تھے۔ (6)

(A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) Eight آٹھ

(7) Conquest of Muhammad Bin Qasim started from: محمد بن قاسم کی فتح کا آغاز ہوا۔ (7)

(A) Balochistan بلوچستان سے (B) Kashmir کشمیر سے (C) Punjab پنجاب سے (D) Sindh سندھ سے

(8) First world war started in: پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ (8)

(A) 1914ء میں 1914 AD (B) 1915ء میں 1915 AD (C) 1916ء میں 1916 AD (D) 1917ء میں 1917 AD

(9) Ulema declared the subcontinent: علماء نے برصغیر کو قرار دیا۔ (9)

(A) Dar-ul-Amaan دارالامان (B) Dar-ul-Salam دارالسلام (C) Dar-ul-Harb دارالحرب (D) Dar-ul-Saltanat دارالسلطنت

(10) Partition of Bengal was annulled in: بنگال کی تقسیم منسوخ کردی گئی۔ (10)

(A) 1908ء میں 1908 AD (B) 1909ء میں 1909 AD (C) 1910ء میں 1910 AD (D) 1911ء میں 1911 AD

15(N)(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1918

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) — مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیا نصاب)

GROUP-II — گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes — وقت = 15 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Types of Environmental Pollution are: — ماحولیاتی آلودگی کی اقسام ہیں۔ (1)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(2) Legal age for marriage of girls in Punjab is: — پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر ہے۔ (2)

(A) 16 years 16سال (B) 18 years 18سال (C) 20 years 20 سال (D) 22 years 22 سال

(3) First pillar of Islam is: — اسلام کا پہلا رکن ہے۔ (3)

(A) Namaz نماز (B) Fasting روزہ (C) Tauheed and Risalat توحیدورسالت (D) Zakat زکوٰۃ

(4) Number of pages of pamphlet "Now or Never" were: — کتابچہ " اب یا پھر کبھی نہیں " کے صفحات تھے۔ (4)

(A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) Eight آٹھ

(5) Conquest of Muhammad Bin Qasim started from: — محمد بن قاسم کی فتح کا آغاز ہوا۔ (5)

(A) Balochistan بلوچستان سے (B) Kashmir کشمیر سے (C) Punjab پنجاب سے (D) Sindh سندھ سے

(6) First world war started in: — پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ (6)

(A) 1914 AD ء میں (B) 1915 AD ء میں (C) 1916 AD ء میں (D) 1917 AD ء میں

(7) Ulema declared the subcontinent: — علماء نے برصغیر کو قرار دیا۔ (7)

(A) Dar-ul-Amaan دارالامان (B) Dar-ul-Salam دارالسلام (C) Dar-ul-Harb دارالحرب (D) Dar-ul-Saltanat دارالسلطنت

(8) Partition of Bengal was annulled in: — بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ (8)

(A) 1908 AD ء میں (B) 1909 AD ء میں (C) 1910 AD ء میں (D) 1911 AD ء میں

(9) The country situated in the North of Pakistan is: — پاکستان کے شمال میں واقع ملک ہے۔ (9)

(A) India بھارت (B) China چین (C) Sri Lanka سری لنکا (D) Turkey ترکی

(10) The desert situated between river Indus and Jhelum is: — دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان واقع ریگستان ہے۔ (10)

(A) Thal تھل (B) Cholistan چولستان (C) Rohi روہی (D) Thar تھر

15(N)(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1912	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر (14) ______

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) — مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیانصاب)

GROUP-II — گروپ ۔ دوسرا

notespk.com

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 10 — کل نمبر = 10

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) First pillar of Islam is: — اسلام کا پہلا رکن ہے۔ (1)

(A) Namaz نماز (B) Fasting روزہ (C) Tauheed and Risalat توحیدورسالت (D) Zakat زکوۃ

(2) Number of pages of pamphlet "Now or Never" were: — کتابچہ "اب یا پھر کبھی نہیں" کے صفحات تھے۔ (2)

(A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) Eight آٹھ

(3) Conquest of Muhammad Bin Qasim started from: — محمد بن قاسم کی فتح کا آغاز ہوا۔ (3)

(A) Balochistan بلوچستان سے (B) Kashmir کشمیر سے (C) Punjab پنجاب سے (D) Sindh سندھ سے

(4) First world war started in: — پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ (4)

(A) 1914 AD ء میں (B) 1915 AD ء میں (C) 1916 AD ء میں (D) 1917 AD ء میں

(5) Ulema declared the subcontinent: — علماء نے برصغیر کو قرار دیا۔ (5)

(A) Dar-ul-Amaan دارالامان (B) Dar-ul-Salam دارالسلام (C) Dar-ul-Harb دارالحرب (D) Dar-ul-Saltanat دارالسلطنت

(6) Partition of Bengal was annulled in: — بنگال کی تقسیم منسوخ کردی گئی۔ (6)

(A) 1908 AD ء میں (B) 1909 AD ء میں (C) 1910 AD ء میں (D) 1911 AD ء میں

(7) The country situated in the North of Pakistan is: — پاکستان کے شمال میں واقع ملک ہے۔ (7)

(A) India بھارت (B) China چین (C) Sri Lanka سری لنکا (D) Turkey ترکی

(8) The desert situated between river Indus and Jhelum is: — دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان واقع ریگستان ہے۔ (8)

(A) Thal تھل (B) Cholistan چولستان (C) Rohi روہی (D) Thar تھر

(9) Types of Environmental Pollution are: — ماحولیاتی آلودگی کی اقسام ہیں۔ (9)

(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ

(10) Legal age for marriage of girls in Punjab is: — پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر ہے۔ (10)

(A) 16 years 16 سال (B) 18 years 18 سال (C) 20 years 20 سال (D) 22 years 22 سال

15(N)(Obj)(☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

2022 (A)

رول نمبر ____

SSC PART-I (9th CLASS)

PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) (NEW COURSE) مطالعہ پاکستان (لازمی) (نیانصاب)

GROUP-II گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 40 کل نمبر = 40

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر2۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What did Quaid-e-Azam say when he inaugurated the State Bank of Pakistan on July1, 1948? قائدِاعظمؒ نے یکم جولائی 1948ء کو سٹیٹ بنک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟

(ii) In which words, Allama Muhammad Iqbal has expressed equality in his poetry. علامہ محمد اقبالؒ نے اپنی شاعری میں کن الفاظ میں مساوات کا اظہار کیا ہے؟

(iii) Write the names of the four dynasty who ruled over the Delhi Sultanate. سلطنت دہلی پر حکومت کرنے والے چار خاندانوں کے نام لکھیں۔

(iv) Write any two salient features of the Constitution of 1956. 1956ء کے آئین کی دو خصوصیات بیان کریں۔

(v) Why the Hindus opposed the Partition of Bengal? ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی مخالفت کیوں کی؟

(vi) When and who presented the Lahore Resolution? قرارداد لاہور کب اور کس نے پیش کی؟

(vii) What policy was formulated for the future constitution in the Legal Framework Order 1970? لیگل فریم ورک آرڈر 1970ء میں مستقبل کے آئین کے لیے کیا پالیسی تشکیل دی گئی؟

(viii) What reforms did General Ayub Khan introduce in the field of Education? جنرل ایوب خان نے تعلیم کے شعبہ میں کون سی اصلاحات متعارف کروائیں؟

(ix) Narrate the stand point of Quaid-e-Azam on Rowlatt Act 1919. رولٹ ایکٹ 1919ء پر قائدِاعظمؒ کا موقف بیان کیجیے۔

3. Attempt any six parts. 12 = 2 x 6 سوال نمبر3۔ کوئی سے چھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define the term Glacier. گلیشیر کی تعریف کریں۔

(ii) Name the two Natural Regions of Pakistan. پاکستان کے دو قدرتی خطوں کے نام تحریر کیجیے۔

(iii) Write names of two districts located in Desert Region in Punjab province. صوبہ پنجاب میں صحرائی خطے کے دو اضلاع کے نام لکھیں۔

(iv) In which mountain range Tirich Mir Peak is located and what is its height? ترچ میر کی چوٹی کس پہاڑی سلسلے میں شامل ہے اور اس کی بلندی کتنی ہے؟

(v) Which two important rivers are located in Balochistan Plateau? سطح مرتفع بلوچستان کے دو اہم دریا کون سے ہیں؟

(vi) Name four such departments in which women are playing their role in national progress. چار ایسے شعبوں کے نام لکھیں جہاں خواتین قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔

(vii) Write any two common ideas about violence against women. خواتین پر تشدد کے بارے میں کوئی دو عام تصورات تحریر کریں۔

(viii) D.W.P.O stands for what? D.W.P.O کس کا مخفف ہے؟

(ix) Write two suggestions to reduce terrorism. دہشت گردی کو کم کرنے کی دو تجاویز تحریر کریں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 16 = 8 x 2 نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Explain the Two-Nation Theory in detail. 4۔ دو قومی نظریہ کی وضاحت تفصیل سے کریں۔

5. Describe the salient features of Basic Democracies System of 1959. 5۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959ء کے خدوخال بیان کریں۔

6. Write notes on: 6۔ نوٹ لکھیں۔

(i) ہوائی آلودگی Air pollution (ii) پاکستان میں جنگلی حیات Wildlife in Pakistan

15(N)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

(b5) (1)

Name of Subject: Physics   Session: 2020 – 2022

Group: 1st   Group: 2nd

Group 1st

Q. Nos	Paper Code 1471	Paper Code 1473	Paper Code 1475	Paper Code 1477
1	D	C	C	B
2	D	D	A	A
3	C	B	B	B
4	A	D	A	C
5	B	D	B	A
6	A	C	C	C
7	B	A	A	D
8	C	B	C	B
9	A	A	D	D
10	C	B	B	D
11	D	C	D	C
12	B	A	D	A
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Group 2nd

Q. Nos	Paper Code 1472	Paper Code 1474	Paper Code 1476	Paper Code 1478
1	D	C	D	B
2	C	D	B	B
3	A	C	B	A
4	C	A	A	C
5	D	C	C	D
6	C	D	D	C
7	A	C	C	A
8	D	A	A	C
9	B	D	C	D
10	B	B	D	C
11	A	B	C	A
12	C	A	A	D
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون ___فزکس___ پرچہ ___Ist___ گروپ ___(I, II)___ سکیم ___2020-22___ میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا
سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By: Dated: 06-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	IFTIKHAR AHMAD	SS	Workers Welfare H/S School (Boys) MULTAN	03006348667	[signature]
2	Dr. M. Saeed	SST	Govt Model H/S Mailsi	0301-7934046	[signature]
3	Abid Hussain	SST	Govt. M.C H/S Rasheed Abad Multan	03056436936	[signature] 6/6/22
4	Ali Raza Siddiqui	SST	Govt Comp. HSS MLT	03005266573	[signature]
5	Dr Abid Hussain Butt	SST (Phy/Math)	GMHSS Vehari	03216965846	[signature]

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی)، معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تسلی کرلی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Muhammad Yousaf Noon	SST (SC)	Govt. Iqbal Secondary School Multan	0321-6313397	[signature]
2	Ghulam Sarwar	SST (Sc)	Govt. Johar H/S Multan	03336138905	[signature] 7/6/22
3					

تاریخ ___________

رول نمبر

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

PHYSICS GROUP-II — فزکس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours — وقت = 1.45 گھنٹے

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 48 — کل نمبر = 48

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

notespk.com

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Calculate how many seconds are there in one day?
ایک دن میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ (i)

(ii) Write two important parts of Vernier Callipers.
ورنیئر کیلیپرز کے دو اہم حصوں کے نام لکھیں۔ (ii)

(iii) Why is the use of zero error necessary in a measuring instruments?
پیمائشی آلات میں زیرو ایرر کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ (iii)

(iv) How can vector quantities be represented graphically?
ویکٹر مقداروں کو گرافیکلی کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟ (iv)

(v) Differentiate between rest and motion.
ریسٹ اور موشن میں فرق بیان کیجیے۔ (v)

(vi) Define uniform acceleration.
یونیفارم ایکسلریشن کی تعریف کیجیے۔ (vi)

(vii) State the Law Of Conservation Of Momentum.
مومینٹم کے کنزرویشن کا قانون بیان کیجیے۔ (vii)

(viii) Define force and write its unit.
فورس کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔ (viii)

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why the height of vehicles is kept as low as possible?
گاڑیوں کی اونچائی ممکن حد تک کم کیوں رکھی جاتی ہے؟ (i)

(ii) Define resultant vector.
رزلٹنٹ ویکٹر کی تعریف کریں۔ (ii)

(iii) Explain, what is meant by gravitational field strength?
گریوی ٹیشنل فیلڈ کی طاقت سے کیا مراد ہے؟ (iii)

(iv) What is meant by global positioning system?
گلوبل پوزیشننگ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ (iv)

(v) With what force an apple weighing 1N attract the earth?
ایک سیب جس کا وزن 1N ہے۔ زمین کو کتنی فورس سے کھینچتا ہے؟ (v)

(vi) Define Joule.
جول کی تعریف کریں۔ (vi)

(vii) What is mechanical energy and give one example.
مکینیکل انرجی کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔ (vii)

(viii) How can you find the efficiency of a system?
کسی سسٹم کی ایفی شینسی آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ (viii)

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5

سوال نمبر4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge weight floats?
پتھر کا ٹکڑا پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن ایک انتہائی بھاری بحری جہاز پانی پر تیرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ (i)

(ii) What is a barometer?
بیرومیٹر کیا ہوتا ہے؟ (ii)

(iii) Define Elasticity.
ایلاسٹیسٹی کی تعریف کریں۔ (iii)

(iv) Differentiate between Temperature and Heat.
ٹمپریچر اور حرارت میں فرق بیان کیجیے۔ (iv)

(v) What is meant by internal energy of a body?
کسی جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا مراد ہے؟ (v)

(vi) Why does transfer of heat in fluids take place by convection?
سیال اشیا میں انتقالِ حرارت کنویکشن سے کیوں عمل میں آتی ہے؟ (vi)

(vii) Differentiate between Land breeze and Sea breeze.
نسیم بری اور نسیم بحری میں فرق بیان کیجیے۔ (vii)

(viii) Define thermal conductivity.
تھرمل کنڈکٹیویٹی کی تعریف کیجیے۔ (viii)

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 x 2

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) State Newton's second law of motion and derive its equation. 1 + 3

5۔(الف) نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات اخذ کیجیے۔

(B) A cyclist completes half round of a circular track of radius 318m in 1.5 minutes. Find its speed and velocity. 5

(ب) ایک بائیسکل سوار 318 میٹر ریڈیس کے سرکلر ٹریک کا آدھا چکر 1.5 منٹ میں مکمل کرتا ہے۔ اس کی سپیڈ اور ولاسٹی معلوم کیجیے۔

6.(A) Explain 1st and 2nd condition of equilibrium. 2 + 2

6۔(الف) ایکوی لبریم کی پہلی اور دوسری شرط کی وضاحت کریں۔

(ب) ایک موٹر بوٹ $4ms^{-1}$ کی کونسٹنٹ سپیڈ سے حرکت کرتی ہے۔ اس پر عمل کرنے والی پانی کی رزسٹنس 4000N ہے۔ اس کے انجن کی پاور معلوم کیجیے۔ 5

(B) A motor boat moves at a steady speed of $4ms^{-1}$. Water resistance acting on it is 4000N. Calculate the power of its engine.

7.(A) What is evaporation? Explain the factors which affect the evaporation. 1 + 3

7۔(الف) ایوپوریشن کیا ہے؟ اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کریں۔

(ب) ہوا میں دھاتی چمچ کا وزن 0.48N ہے جبکہ پانی میں اس کا وزن 0.42N ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کریں۔ 5

(B) The weight of a metal spoon in air is 0.48N. Its weight in water is 0.42N. Find ist density.

19-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1472

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

PHYSICS GROUP-II

فزکس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چارممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which one of the following is the smallest quantity? درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟ (1)

(A) $0.01\,g$ (B) $2\,mg$ (C) $100\,\mu g$ (D) $5000\,ng$

(2) A measuring cylinder is used to measure: پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے۔ (2)

(A) Mass ماس (B) Area ایریا (C) Volume والیوم (D) Level of a liquid کسی مائع کا لیول

(3) A train is moving at a speed of $36\,Kmh^{-1}$. Its speed expressed in ms^{-1} is: ایک ٹرین $36\,Kmh^{-1}$ کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ ms^{-1} میں اس کی سپیڈ ہوگی۔ (3)

(A) $10\,ms^{-1}$ (B) $20\,ms^{-1}$ (C) $25\,ms^{-1}$ (D) $30\,ms^{-1}$

(4) Which of the following is the unit of momentum? مندرجہ ذیل میں مومینٹم کا یونٹ ہے۔ (4)

(A) Nm (B) $Kgms^{-2}$ (C) Ns (D) Ns^{-1}

(5) A force of 10N is making an angle of 30^o with horizontal. Its horizontal component will be: 10 نیوٹن کی ایک فورس X ۔ ایکسز کے ساتھ 30^o کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا اُفقی کمپونینٹ ہوگا۔ (5)

(A) $4\,N$ (B) $5\,N$ (C) $7\,N$ (D) $8.7\,N$

(6) The orbital speed of a low orbit satellite is: نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردش کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے۔ (6)

(A) Zero صفر (B) $8\,ms^{-1}$ (C) $8000\,ms^{-1}$ (D) $800\,ms^{-1}$

(7) The altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the earth is: جیوسٹیشنری آربٹ جن میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ گردش کرتے ہیں۔ ان کی بلندی سطح زمین سے ہوتی ہے۔ (7)

(A) 42,300 Km (B) 6400 Km (C) 1000 Km (D) 850 Km

(8) The work done in lifting a brick of mass 2 Kg through a height of 5m above ground will be: 2 کلوگرام کی ایک اینٹ زمین سے 5m کی بلندی تک لے جانے میں کیا گیا ورک ہوگا۔ (8)

(A) 2.5 J (B) 10 J (C) 50 J (D) 100 J

(9) What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? پانی کا بیرومیٹر بنانے کے لیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے؟ (9)

(A) 0.5 m (B) 11 m (C) 2.5 m (D) 1 m

(10) Water freezes at: پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے۔ (10)

(A) $0^o F$ (B) $32^o F$ (C) $-273\,K$ (D) $0\,K$

(11) Which of the following materials has large specific heat? کون سا میٹیریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟ (11)

(A) Water پانی (B) Ice برف (C) Copper کاپر (D) Mercury مرکری

(12) In gases, heat is mainly transferred by: گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے:۔ (12)

(A) Molecular collision مالیکیولز کا ٹکراؤ (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Radiation ریڈی ایشن

19(Obj)(☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1474

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

PHYSICS GROUP-II

فزکس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) In gases, heat is mainly transferred by: گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے:۔ (1)

(A) Molecular collision مالیکیولز کا ٹکراؤ (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Radiation ریڈی ایشن

(2) Which one of the following is the smallest quantity? درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟ (2)

(A) $0.01 g$ (B) $2 mg$ (C) $100 \mu g$ (D) $5000 ng$

(3) A measuring cylinder is used to measure: پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے۔ (3)

(A) Mass ماس (B) Area ایریا (C) Volume والیوم (D) Level of a liquid کسی مائع کا لیول

(4) A train is moving at a speed of $36 Kmh^{-1}$. Its speed expressed in ms^{-1} is: ایک ٹرین $36 Kmh^{-1}$ کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ ms^{-1} میں اس کی سپیڈ ہوگی۔ (4)

(A) $10 ms^{-1}$ (B) $20 ms^{-1}$ (C) $25 ms^{-1}$ (D) $30 ms^{-1}$

(5) Which of the following is the unit of momentum? مندرجہ ذیل میں مومینٹم کا یونٹ ہے۔ (5)

(A) Nm (B) $Kgms^{-2}$ (C) Ns (D) Ns^{-1}

(6) A force of 10N is making an angle of 30^o with horizontal. Its horizontal component will be: 10 نیوٹن کی ایک فورس X ۔ ایکسز کے ساتھ 30^o کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا اُفقی کمپونینٹ ہوگا۔ (6)

(A) $4 N$ (B) $5 N$ (C) $7 N$ (D) $8.7 N$

(7) The orbital speed of a low orbit satellite is: نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردش کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے۔ (7)

(A) Zero صفر (B) $8 ms^{-1}$ (C) $8000 ms^{-1}$ (D) $800 ms^{-1}$

(8) The altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the earth is: جیوسٹیشنری آربٹ جن میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ گردش کرتے ہیں۔ ان کی بلندی سطح زمین سے ہوتی ہے۔ (8)

(A) 42,300 Km (B) 6400 Km (C) 1000 Km (D) 850 Km

(9) The work done in lifting a brick of mass 2 Kg through a height of 5m above ground will be: 2 کلوگرام کی ایک اینٹ زمین سے 5m کی بلندی تک لے جانے میں کیا گیا ورک ہوگا۔ (9)

(A) 2.5 J (B) 10 J (C) 50 J (D) 100 J

(10) What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? پانی کا بیرومیٹر بنانے کے لیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے؟ (10)

(A) 0.5 m (B) 11 m (C) 2.5 m (D) 1 m

(11) Water freezes at: پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے۔ (11)

(A) $0^o F$ (B) $32^o F$ (C) $-273 K$ (D) $0 K$

(12) Which of the following materials has large specific heat? کون سا میٹیریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟ (12)

(A) Water پانی (B) Ice برف (C) Copper کاپر (D) Mercury مرکری

19(Obj)(☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1476

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

PHYSICS GROUP-II

فزکس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The work done in lifting a brick of mass 2 Kg through a height of 5m above ground will be:
(1) 2 کلوگرام کی ایک اینٹ زمین سے 5m کی بلندی تک لے جانے میں کیا گیا ورک ہوگا۔

(A) 2.5 J (B) 10 J (C) 50 J (D) 100 J

(2) What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer?
(2) پانی کا بیرومیٹر بنانے کے لیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے؟

(A) 0.5 m (B) 11 m (C) 2.5 m (D) 1 m

(3) Water freezes at:
(3) پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے۔

(A) $0^{o}F$ (B) $32^{o}F$ (C) $-273K$ (D) $0K$

(4) Which of the following materials has large specific heat?
(4) کون سا میٹیریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟

(A) Water پانی (B) Ice برف (C) Copper کاپر (D) Mercury مرکری

(5) In gases, heat is mainly transferred by:
(5) گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے:۔

(A) Molecular collision مالیکیولز کا ٹکراؤ (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Radiation ریڈی ایشن

(6) Which one of the following is the smallest quantity?
(6) درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟

(A) $0.01g$ (B) $2mg$ (C) $100\mu g$ (D) $5000ng$

(7) A measuring cylinder is used to measure:
(7) پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے۔

(A) Mass ماس (B) Area ایریا (C) Volume والیوم (D) Level of a liquid کسی مائع کا لیول

(8) A train is moving at a speed of $36\,Kmh^{-1}$. Its speed expressed in ms^{-1} is:
(8) ایک ٹرین $36\,Kmh^{-1}$ کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ ms^{-1} میں اس کی سپیڈ ہوگی۔

(A) $10\,ms^{-1}$ (B) $20\,ms^{-1}$ (C) $25\,ms^{-1}$ (D) $30\,ms^{-1}$

(9) Which of the following is the unit of momentum?
(9) مندرجہ ذیل میں مومینٹم کا یونٹ ہے۔

(A) Nm (B) $Kgms^{-2}$ (C) Ns (D) Ns^{-1}

(10) A force of 10N is making an angle of 30^{o} with horizontal. Its horizontal component will be:
(10) 10 نیوٹن کی ایک فورس X – ایکسز کے ساتھ 30^{o} کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا اُفقی کمپونینٹ ہوگا۔

(A) $4N$ (B) $5N$ (C) $7N$ (D) $8.7N$

(11) The orbital speed of a low orbit satellite is:
(11) نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردش کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے۔

(A) Zero صفر (B) $8\,ms^{-1}$ (C) $8000\,ms^{-1}$ (D) $800\,ms^{-1}$

(12) The altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the earth is:
(12) جیوسٹیشنری آربٹ جن میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ گردش کرتے ہیں۔ ان کی بلندی سطح زمین سے ہوتی ہے۔

(A) 42,300 Km (B) 6400 Km (C) 1000 Km (D) 850 Km

19(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1478

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

PHYSICS GROUP-II

فزکس گروپ ۔ دوسرا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer?

پانی کا بیرومیٹر بنانے کے لیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے؟ (1)

(A) 0.5 m (B) 11 m (C) 2.5 m (D) 1 m

(2) Water freezes at:

پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے۔ (2)

(A) $0^o F$ (B) $32^o F$ (C) $-273 K$ (D) $0 K$

(3) Which of the following materials has large specific heat?

کون سا میٹیریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟ (3)

(A) Water پانی (B) Ice برف (C) Copper کاپر (D) Mercury مرکری

(4) In gases, heat is mainly transferred by:

گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے:۔ (4)

(A) Molecular collision مالیکیولز کا ٹکراؤ (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Radiation ریڈی ایشن

(5) Which one of the following is the smallest quantity?

درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟ (5)

(A) $0.01 g$ (B) $2 mg$ (C) $100 \mu g$ (D) $5000 ng$

(6) A measuring cylinder is used to measure:

پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے۔ (6)

(A) Mass ماس (B) Area ایریا (C) Volume والیوم (D) Level of a liquid کسی مائع کا لیول

(7) A train is moving at a speed of $36 Kmh^{-1}$ Its speed expressed in ms^{-1} is:

ایک ٹرین $36 Kmh^{-1}$ کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ ms^{-1} میں اس کی سپیڈ ہوگی۔ (7)

(A) $10 ms^{-1}$ (B) $20 ms^{-1}$ (C) $25 ms^{-1}$ (D) $30 ms^{-1}$

(8) Which of the following is the unit of momentum?

مندرجہ ذیل میں مومینٹم کا یونٹ ہے۔ (8)

(A) Nm (B) $Kgms^{-2}$ (C) Ns (D) Ns^{-1}

(9) A force of 10N is making an angle of 30^o with horizontal. Its horizontal component will be:

10 نیوٹن کی ایک فورس X – ایکسز کے ساتھ 30^o کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا اُفقی کمپونینٹ ہوگا۔ (9)

(A) $4 N$ (B) $5 N$ (C) $7 N$ (D) $8.7 N$

(10) The orbital speed of a low orbit satellite is:

نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردش کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے۔ (10)

(A) Zero صفر (B) $8 ms^{-1}$ (C) $8000 ms^{-1}$ (D) $800 ms^{-1}$

(11) The altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the earth is:

جیوسٹیشنری آربٹ جن میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ گردش کرتے ہیں۔ ان کی بلندی سطح زمین سے ہوتی ہے۔ (11)

(A) 42,300 Km (B) 6400 Km (C) 1000 Km (D) 850 Km

(12) The work done in lifting a brick of mass 2 Kg through a height of 5m above ground will be:

2 کلوگرام کی ایک اینٹ زمین سے 5m کی بلندی تک لے جانے میں کیا گیا ورک ہوگا۔ (12)

(A) 2.5 J (B) 10 J (C) 50 J (D) 100 J

19(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-60000 **(MULTAN)**

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

PHYSICS GROUP-I فزکس گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48 کل نمبر = 48

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write any two main differences between mass and weight. ماس اور وزن میں کوئی سے دو نمایاں فرق لکھیے۔ (i)

(ii) What is meant by prefixes? Give two examples. پری فکسز سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیجیے۔ (ii)

(iii) Differentiate between Atomic Physics and Plasma Physics. اٹامک فزکس اور پلازما فزکس میں فرق بیان کیجیے۔ (iii)

(iv) Define friction and give its SI unit. فرکشن کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔ (iv)

(v) Define gravitational acceleration. Write down its value on the surface of earth. گریویٹیشنل ایکسلریشن کی تعریف کیجیے۔ زمین کی سطح پر اس کی قیمت کیا ہے؟ (v)

(vi) Define centripetal force. Write down its formula. سنٹری پیٹل فورس کی تعریف کیجیے۔ اس کا فارمولا لکھیے۔ (vi)

(vii) Write down the names of any two instruments for measuring length. لمبائی کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے دو پیمائشی آلات کے نام لکھیے۔ (vii)

(viii) Define velocity and write down its SI unit. ولاسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔ (viii)

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Rigid Body and Moment Arm. رجڈ باڈی اور مومنٹ آرم کی تعریف کریں۔ (i)

(ii) Why the height of vehicles is kept as low as possible? گاڑیوں کی اونچائی ممکن حد تک کم کیوں رکھی جاتی ہے؟ (ii)

(iii) Define Force of Gravitation and give two examples. فورس آف گریویٹیشن کی تعریف کریں اور دو مثالیں دیں۔ (iii)

(iv) How can you say that gravitational force is a field force? آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گریویٹیشنل فورس ایک فیلڈ فورس ہے؟ (iv)

(v) What is meant by geostationary orbit? جیوسٹیشنری آربٹ سے کیا مراد ہے؟ (v)

(vi) Define Potential Energy and describe its two types. پوٹینشل انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کی دو اقسام بیان کریں۔ (vi)

(vii) Differentiate between Mechanical Energy and Chemical Energy. مکینیکل انرجی اور کیمیکل انرجی میں فرق واضح کریں۔ (vii)

(viii) Define Efficiency and write its equation in percentage. ایفی شینسی کی تعریف کریں اور فیصد میں اس کی مساوات لکھیں۔ (viii)

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Density and write its SI unit. ڈینسٹی کی تعریف لکھیں اور SI یونٹ لکھیں۔ (i)

(ii) What is Hydrometer and write its uses. ہائیڈرومیٹر کیا ہے اور اس کے استعمالات لکھیں۔ (ii)

(iii) Why is heat transferred from a hot body to cold body? ہیٹ گرم جسم سے ٹھنڈے جسم میں کیوں منتقل ہوتی ہے؟ (iii)

(iv) What is meant by clinical thermometer? Write its range. کلینیکل تھرمومیٹر سے کیا مراد ہے؟ اس کی رینج لکھیں۔ (iv)

(v) Define the specific heat of a substance write its formula. کسی شے کی حرارت مخصوصہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا حسابی فارمولا لکھیں۔ (v)

(vi) What causes a glider to remain in air? گلائیڈر کے ہوا میں رہنے کا سبب بیان کریں۔ (vi)

(vii) Differentiate between Land and Sea Breezes. نسیم بری اور نسیم بحری میں فرق لکھیں۔ (vii)

(viii) Define Radiation. ریڈی ایشن کی تعریف کریں۔ (viii)

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 x 2 نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5.(A) State and explain Law of Conservation of Momentum. 1 + 3 5۔(الف) مومینٹم کے کنزرویشن کا قانون بیان کیجیے اور وضاحت کیجیے۔

(ب) ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے۔ یہ یونیفارم ایکسلریشن کے ساتھ 100 سیکنڈز میں ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ 100 سیکنڈز مکمل ہونے پر ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی؟ 5

(B) A train starts from rest. It moves through 1 km in 100 s with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 s?

6.(A) How will you determine Mass of the Earth? Explain. 3 + 1 6۔(الف) زمین کا ماس معلوم کرنے کے طریقہ کی وضاحت کریں۔

(ب) کسی کار کے سٹیرنگ وھیل کا ریڈیس 16 cm ہے۔ 50 N کے کپل سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کریں۔ 5

(B) The steering of a car has a radius 16cm. Find the torque produced by a couple of 50 N.

7.(A) What is meant by Volume Thermal Expansion? Derive its equation. 1 + 3 7۔(الف) والیوم میں حرارتی پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ اس کی مساوات اخذ کریں۔

(ب) 5 سینٹی میٹر سائیڈ کے شیشے کے کیوب کا ماس 306g ہے اور اس کے اندر کیویٹی (سوراخ) پائی جاتی ہے۔ اگر شیشے کی ڈینسٹی $2.55 gcm^{-3}$ ہو تو اس کیویٹی کا والیوم معلوم کریں۔ 5

(B) A cube of glass of 5cm side and mass 306g, has a cavity inside it. If the density of glass is $2.55 gcm^{-3}$. Find the volume of the cavity.

17-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

Page 205 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

PAPER CODE NUMBER: 1471

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر

PHYSICS GROUP-I فزکس گروپ ۔ پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

notespk.com

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Which one of the following is the smallest quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟ (1)

(A) 0.01 g (B) 2 mg (C) $100\,\mu g$ (D) 5000 ng

(2) Which of the following is a vector quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار ویکٹر ہے؟ (2)

(A) Speed سپیڈ (B) Distance فاصلہ (C) Power پاور (D) Displacement ڈس پلیسمنٹ

(3) Formula of acceleration is: ایکسلریشن کا فارمولا ہے۔ (3)

(A) $a = \frac{v_i - v_f}{t}$ (B) $a = \frac{v_f - v_i}{t^2}$ (C) $a = \frac{v_f - v_i}{t}$ (D) $a = \frac{v}{t}$

(4) Which of the following is the unit of momentum? مندرجہ ذیل میں سے مومینٹم کا یونٹ ہے۔ (4)

(A) Ns (B) $Kgms^{-2}$ (C) Nm (D) Ns^{-1}

(5) Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce: دو مساوی لیکن ان لائک پیرالل فورسز جن کا لائن آف ایکشن مختلف ہو، پیدا کرتی ہیں۔ (5)

(A) A Torque ٹارک (B) A couple کپل (C) Equilibrium ایکوی لبریم (D) Neutral equilibrium نیوٹرل ایکوی لبریم

(6) Law of gravitation is: گریوی ٹیشن کا قانون ہے۔ (6)

(A) $F = \frac{G m_1 m_2}{d^2}$ (B) $F = \frac{G Me}{d^2}$ (C) $F = \frac{G m_1 m_2}{d}$ (D) $F = \frac{m_1 m_2}{G}$

(7) One horse power is equal to: ایک ہارس پاور کے برابر ہے۔ (7)

(A) 748 W (B) 746 W (C) 749 W (D) 745 W

(8) The energy stored in coal is: کوئلہ میں ذخیرہ شدہ انرجی ہے۔ (8)

(A) Heat energy ہیٹ انرجی (B) Kinetic energy کائی نیٹک انرجی (C) Chemical energy کیمیکل انرجی (D) Nuclear energy نیوکلیئر انرجی

(9) The density of a substance can be found with the help of: کسی شے کی ڈینسٹی ______ کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ (9)

(A) Archimedes principle ارشمیدس کے اصول (B) Hooke's law ہک کے قانون

(C) Pascal's law پاسکل کے قانون (D) Principle of floatation تیرنے کے اصول

(10) The coefficients of linear expansion and volume expansion are related by equation: طولی پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ اور والیوم میں پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ کا تعلق یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ (10)

(A) $\beta = \frac{\alpha}{3}$ (B) $\beta = 2\alpha$ (C) $\beta = 3\alpha$ (D) $\alpha = 4\beta$

(11) Which of the following affects evaporation? ان میں سے کون سا جزو ایویپوریشن کو متاثر کرتا ہے؟ (11)

(A) Temperature ٹمپریچر (B) Surface area of the liquid مائع کی سطح کا ایریا (C) Wind ہوا (D) All these یہ تمام عوامل

(12) In solids heat is transferred by: ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے۔ (12)

(A) Radiation ریڈی ایشن (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Absorption ابزارپشن

17(Obj)(☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1473

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ______

PHYSICS GROUP-I فزکس گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions o n this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The coefficients of linear expansion and volume expansion are related by equation: طولی پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ اور والیوم میں پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ کا تعلق یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ (1)

(A) $\beta = \frac{\alpha}{3}$ (B) $\beta = 2\alpha$ (C) $\beta = 3\alpha$ (D) $\alpha = 4\beta$

(2) Which of the following affects evaporation? ان میں سے کون سا جزو ایویپوریشن کو متاثر کرتا ہے؟ (2)

(A) Temperature ٹمپریچر (B) Surface area of the liquid مائع کی سطح کا ایریا (C) Wind ہوا (D) All these یہ تمام عوامل

(3) In solids heat is transferred by: ٹھوس اجسام میں انتقالِ حرارت کا طریقہ ہے۔ (3)

(A) Radiation ریڈی ایشن (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Absorption ابزارپشن

(4) Which one of the following is the smallest quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟ (4)

(A) 0.01 g (B) 2 mg (C) 100 μg (D) 5000 ng

(5) Which of the following is a vector quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار ویکٹر ہے؟ (5)

(A) Speed سپیڈ (B) Distance فاصلہ (C) Power پاور (D) Displacement ڈس پلیسمنٹ

(6) Formula of acceleration is: ایکسلریشن کا فارمولا ہے۔ (6)

(A) $a = \frac{v_i - v_f}{t}$ (B) $a = \frac{v_f - v_i}{t^2}$ (C) $a = \frac{v_f - v_i}{t}$ (D) $a = \frac{v}{t}$

(7) Which of the following is the unit of momentum? مندرجہ ذیل میں سے مومینٹم کا یونٹ ہے۔ (7)

(A) Ns (B) $Kgms^{-2}$ (C) Nm (D) Ns^{-1}

(8) Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce: دو مساوی لیکن ان لائک پیرالل فورسز جن کا لائن آف ایکشن مختلف ہو، پیدا کرتی ہیں۔ (8)

(A) A Torque ٹارک (B) A couple کپل (C) Equilibrium ایکوی لبریم (D) Neutral equilibrium نیوٹرل ایکوی لبریم

(9) Law of gravitation is: گریویٹیشن کا قانون ہے۔ (9)

(A) $F = \frac{G m_1 m_2}{d^2}$ (B) $F = \frac{G Me}{d^2}$ (C) $F = \frac{G m_1 m_2}{d}$ (D) $F = \frac{m_1 m_2}{G}$

(10) One horse power is equal to: ایک ہارس پاور کے برابر ہے۔ (10)

(A) 748 W (B) 746 W (C) 749 W (D) 745 W

(11) The energy stored in coal is: کوئلہ میں ذخیرہ شدہ انرجی ہے۔ (11)

(A) Heat energy ہیٹ انرجی (B) Kinetic energy کائی نیٹک انرجی (C) Chemical energy کیمیکل انرجی (D) Nuclear energy نیوکلیئر انرجی

(12) The density of a substance can be found with the help of: کسی شے کی ڈینسٹی ______ کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ (12)

(A) Archimedes principle ارشمیدس کے اصول (B) Hooke's law ہک کے قانون

(C) Pascal's law پاسکل کے قانون (D) Principle of floatation تیرنے کے اصول

17(Obj)(☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

notespk.com

PAPER CODE NUMBER: 1475

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر (109)

PHYSICS GROUP-I

فزکس گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اِس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Formula of acceleration is: ایکسلریشن کا فارمولا ہے۔ (1)

(A) $a = \frac{v_i - v_f}{t}$ (B) $a = \frac{v_f - v_i}{t^2}$ (C) $a = \frac{v_f - v_i}{t}$ (D) $a = \frac{v}{t}$

(2) Which of the following is the unit of momentum? مندرجہ ذیل میں سے مومینٹم کا یونٹ ہے۔ (2)

(A) Ns (B) $Kgms^{-2}$ (C) Nm (D) Ns^{-1}

(3) Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce: دو مساوی لیکن ان لائک پیرالل فورسز جن کا لائن آف ایکشن مختلف ہو، پیدا کرتی ہیں۔ (3)

(A) A Torque ٹارک (B) A couple کپل (C) Equilibrium ایکوی لبریم (D) Neutral equilibrium نیوٹرل ایکوی لبریم

(4) Law of gravitation is: گریوی ٹیشن کا قانون ہے۔ (4)

(A) $F = \frac{G m_1 m_2}{d^2}$ (B) $F = \frac{G Me}{d^2}$ (C) $F = \frac{G m_1 m_2}{d}$ (D) $F = \frac{m_1 m_2}{G}$

(5) One horse power is equal to: ایک ہارس پاور کے برابر ہے۔ (5)

(A) 748 W (B) 746 W (C) 749 W (D) 745 W

(6) The energy stored in coal is: کوئلہ میں ذخیرہ شدہ انرجی ہے۔ (6)

(A) Heat energy ہیٹ انرجی (B) Kinetic energy کائی نیٹک انرجی (C) Chemical energy کیمیکل انرجی (D) Nuclear energy نیوکلیئر انرجی

(7) The density of a substance can be found with the help of: کسی شے کی ڈینسٹی ______ کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ (7)

(A) Archimedes principle ارشمیدس کے اصول (B) Hooke's law ہک کے قانون

(C) Pascal's law پاسکل کے قانون (D) Principle of floatation تیرنے کے اصول

(8) The coefficients of linear expansion and volume expansion are related by equation: طولی پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ اور والیوم میں پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ کا تعلق یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ (8)

(A) $\beta = \frac{\alpha}{3}$ (B) $\beta = 2\alpha$ (C) $\beta = 3\alpha$ (D) $\alpha = 4\beta$

(9) Which of the following affects evaporation? ان میں سے کون سا جز وایوپوریشن کو متاثر کرتا ہے؟ (9)

(A) Temperature ٹمپریچر (B) Surface area of the liquid مائع کی سطح کا ایریا (C) Wind ہوا (D) All these یہ تمام عوامل

(10) In solids heat is transferred by: ٹھوس اجسام میں انتقالِ حرارت کا طریقہ ہے۔ (10)

(A) Radiation ریڈی ایشن (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Absorption ابزارپشن

(11) Which one of the following is the smallest quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟ (11)

(A) 0.01 g (B) 2 mg (C) $100\,\mu g$ (D) 5000 ng

(12) Which of the following is a vector quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار ویکٹر ہے؟ (12)

(A) Speed سپیڈ (B) Distance فاصلہ (C) Power پاور (D) Displacement ڈس پلیسمنٹ

17(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1477	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر ______

PHYSICS GROUP-I — فزکس گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 — کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce: — دومساوی لیکن ان لائک پیرالل فورسز جن کالائن آف ایکشن مختلف ہو، پیدا کرتی ہیں۔

(A) A Torque ٹارک (B) A couple کپل (C) Equilibrium ایکوی لبریم (D) Neutral equilibrium نیوٹرل ایکوی لبریم

(2) Law of gravitation is: — گریویٹیشن کا قانون ہے۔

(A) $F = \frac{G m_1 m_2}{d^2}$ (B) $F = \frac{G Me}{d^2}$ (C) $F = \frac{G m_1 m_2}{d}$ (D) $F = \frac{m_1 m_2}{G}$

(3) One horse power is equal to: — ایک ہارس پاور کے برابر ہے۔

(A) 748 W (B) 746 W (C) 749 W (D) 745 W

(4) The energy stored in coal is: — کوئلہ میں ذخیرہ شدہ انرجی ہے۔

(A) Heat energy ہیٹ انرجی (B) Kinetic energy کائی نیٹک انرجی (C) Chemical energy کیمیکل انرجی (D) Nuclear energy نیوکلیئر انرجی

(5) The density of a substance can be found with the help of: — کسی شے کی ڈینسٹی ______ کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

(A) Archimedes principle ارشمیدس کے اصول (B) Hooke's law ہک کے قانون
(C) Pascal's law پاسکل کے قانون (D) Principle of floatation تیرنے کے اصول

(6) The coefficients of linear expansion and volume expansion are related by equation: — طولی پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ اور والیوم میں پھیلاؤ کے کوایفی شینٹ کا تعلق یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔

(A) $\beta = \frac{\alpha}{3}$ (B) $\beta = 2\alpha$ (C) $\beta = 3\alpha$ (D) $\alpha = 4\beta$

(7) Which of the following affects evaporation? — ان میں سے کون سا جزو ایویپوریشن کو متاثر کرتا ہے؟

(A) Temperature ٹمپریچر (B) Surface area of the liquid مائع کی سطح کا ایریا (C) Wind ہوا (D) All these یہ تمام عوامل

(8) In solids heat is transferred by: — ٹھوس اجسام میں انتقالِ حرارت کا طریقہ ہے۔

(A) Radiation ریڈی ایشن (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection کنویکشن (D) Absorption ابزارپشن

(9) Which one of the following is the smallest quantity? — مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟

(A) 0.01 g (B) 2 mg (C) 100 μg (D) 5000 ng

(10) Which of the following is a vector quantity? — مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار ویکٹر ہے؟

(A) Speed سپیڈ (B) Distance فاصلہ (C) Power پاور (D) Displacement ڈس پلیسمنٹ

(11) Formula of acceleration is: — ایکسلریشن کا فارمولا ہے۔

(A) $a = \frac{v_i - v_f}{t}$ (B) $a = \frac{v_f - v_i}{t^2}$ (C) $a = \frac{v_f - v_i}{t}$ (D) $a = \frac{v}{t}$

(12) Which of the following is the unit of momentum? — مندرجہ ذیل میں سے مومینٹم کا یونٹ ہے۔

(A) Ns (B) $Kgms^{-2}$ (C) Nm (D) Ns^{-1}

17(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-70000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

151

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: پنجابی Session: 2022ء

9th
A/22

notespk.com

Q.Nos	Paper Code 1321	Paper Code 1323	Paper Code 1325	Paper Code 1327
1	C	D	C	D
2	B	C	B	D
3	D	A	A	A
4	D	B	C	C
5	D	C	D	B
6	A	B	D	A
7	C	D	C	C
8	B	D	A	D
9	A	D	B	D
10	C	A	C	C
11	D	C	B	A
12	D	B	D	B
13	C	A	D	C
14	A	C	D	B
15	B	D	A	D
16				
17				
18				
19				
20				

<u>سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key</u>

ہم نے مضمون پنجابی پرچہ I گروپ ______ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 01-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	ظفر اقبال بابر	سینئر H/M	گورنمنٹ H/S چک 4/4 فیض ضلع خانیوال	03007312734	[signature]
2	شاہد حمید کنور	SST	گورنمنٹ بی ایچ ایس H/S ضلع خانیوال	03006341259	[signature]
3					
4					

رول نمبر ________ 2022 (A)

152

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

پنجابی

حصہ اِنشائیہ

وقت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

notespk.com

نوٹ۔ سارے سوال حل کرنا لازم نیں۔ جوابی کاپی تے اوہی سوال نمبر تے جزو نمبر لکھو جیہڑا سوالیہ پرچے وچ درج اے۔

حصہ اول

2۔ تھلے دتے گئے جزاں وچوں کسے ستاں (7) دے مختصر جوابات لکھو۔ 14 = 2 x 7

(i) لوکاں حضرت زید بن حارثؓ دی سالاری تے کیوں اعتراض کیتا؟
(ii) صادق دی منگیتر داناں تے عرف کیہ سی؟
(iii) خوشامد توں نفرت بارے قائدِ اعظمؒ دا واقعہ لکھو۔
(iv) محمود نے گھر دی مالکن نال کیہ وعدہ کیتا؟
(v) حضرت نوشہ گنج بخشؒ دے کنّے مرید سن؟ آپ اوہناں نوں کیہ کہہ کے بلاندے سن؟
(vi) بڈھے دادا نے علی جان نوں لبھن لئی کیہ کیتا؟
(vii) شاہ حسین دی کافی دا موضوع کیہ اے؟
(viii) '' غفلت نامہ '' وچ شاعر نے انسان نوں کس گل دی پکی کیتی اے؟
(ix) '' یار مینوں وی خوشی دا مُو نہہ وکھا تھوڑا جیہا '' کیہڑے شاعر دا مصرعہ اے؟
(x) شاعر دے نیڑے ملک داناں کیویں زندہ رکھیا جاسکدا اے؟

3۔ تھلے دتے گئے لفظاں وچوں پنج لفظاں دے واحد دے جمع تے جمع دے واحد لکھو۔ 5

(i) آہلنا (ii) صورت (iii) رسم (iv) سیانا (v) اِٹاں (vi) پنڈاں (vii) دھوئیں

4۔ تھلے دتے گئے لفظاں وچوں پنج لفظاں دے مذکر دے مؤنث تے مؤنث دے مذکر لکھو۔ 5

(i) راجا (ii) اداکار (iii) اوٹھ (iv) میراثی (v) بیوی (vi) تیلن (vii) مالکن

5۔ تھلے دتے گئے لفظاں/محاوریاں وچوں کسے صرف چھ لفظاں/محاوریاں دے جُملے انج بناؤ کہ مطلب سمجھ آجاوے۔ 6

(i) چَن (ii) حشر (iii) توکل (iv) پَیلاں پانا (v) خوشامدی (vi) سول سہنا (vii) خیر منگنا (viii) طوطا چشم (ix) کلیجے ٹھنڈ پانا

حصہ دوم

6۔ کسے اک عبارت دی تشریح سَوکھی پنجابی وچ کرو۔ سبق تے لکھاری داناں وی لکھو۔ 10 = 1 + 1 + 8

(الف) پنجاب وِچ مہندی دی رات جگراتے دی رات ہوندی اے۔ اوہ کسے نہ کسے طرحاں رات دے دس وَجے اَپڑ گیا۔ بجلیاں بَل رہیاں سَن، تنبو کناتاں تنیاں ہویاں سن، چہل پہل، ماسی دے گھر بڑی رونق سی۔ دلان وِچ وَج گج کے رَسماں ہو رہیاں سَن۔ گلیاں سُنیاں تے چُپ چان۔ اوہ سِدّھا مردانی بیٹھک وچ جالتھا۔ علیک سلیک تے جھپیاں شُھپیاں پے چُکیاں تے کھانا وَرتایا گیا۔ دلان وچ گاوَن والیاں کُڑیاں نُوں تے خورے کھان پین دا وی ہوش نہیں سی۔

(ب) لوکاں لئی اوہناں دی تعلیم دا خلاصہ انج اے: اللہ نُوں اِک منّو اوہدے توں سِوا کسے ہور دی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت کرو۔ یتیماں تے مسکیناں نال دلوں پیار کرو۔ دوجیاں دی خدمت تے مدد بناں لالچ کرو۔ وعدے دی پابندی کرو۔ استاداں تے بزرگاں دی عزّت کرو تے لڑائی جھگڑے تُوں دُور رہوو۔ صفائی دا خاص خیال رکھو۔ وقت دی قدر کرو۔ اوہناں دی من کھچویں تعلیم نے معاشرتی سطح اُتے زبردست انقلاب برپا کیتا۔

7۔ کسے اِک جزو دی سوکھی پنجابی وچ تشریح کرو تے شاعر داناں وی لکھو۔ 10 = 1 + 9

(الف)
ہُن تے یا مولا! وکھا دربار اوہ
ہُن تے چمکا دے میری قسمت دا رَنگ
ہُن تے نِمّھی پیندی جاندی اے نظر
ہُن تے اُڈن ہار اے صُورت دا رَنگ

(ب)
جہناں دا وی اُدّم اُچیرا رہوے گا
اوہناں دا اُچائیں بسیرا رہوے گا
ہنیرے وچوں اَنت پُھٹے گا چانن
ہنیرا کدوں تک ہنیرا رہوے گا

8۔ اپنے نکے بھرا دے ناں خط لکھو۔ جیہدے وچ اوہنوں دل لاکے پڑھن دی تلقین کرو۔ یاں '' غرور دا سِر نیواں '' دے عنوان تے پنجابی وچ کہانی لکھو۔ 10

53-2022(A)-2000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1321

2022 (A)

رول نمبر 153

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

پنجابی

حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) قدر آفاقی پیدا ہویا۔ (A) اٹھارویں صدی وچ (B) انیسویں صدی وچ (C) ویہویں صدی وچ (D) اکیویں صدی وچ

(2) حکیم شیر محمد دی غزل وچ '' ہنھیرا '' علامت اے۔ (A) رات دی (B) ظلم تے جہالت دی (C) سویرے دی (D) سرگی دی

(3) سب توں پہلاں ناں آوے گا۔ (حروف تہجی) (A) حکیم شیر محمد (B) ہاشم شاہ (C) حمید الفت (D) حفیظ تائب

(4) نویں پلیٹ فٹن تے مالکن نے محمود نال سلوک کیتا۔ (A) ماریا (B) پیار کیتا (C) گھروں کڈھ دتا (D) اپنے کم وچ رجھ گئی

(5) شرجیل بن عمرو غسانی ول خط لے جان والے اسلامی قاصد سن۔ (A) اسامہ بن زیدؓ (B) زید بن حارثہؓ (C) سعد بن الربیعؓ (D) حارثہ بن عمیر ازدیؓ

(6) '' شباب '' توں مراد اے۔ (A) جوانی (B) تور طریقے (C) چال ڈھال (D) جانا

(7) مولا بخشؒ دا کلام نصاب وچ صنف اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) دوہڑے

(8) '' لمیاں اڈیکاں '' وچ سجاد سی۔ (A) زمیندار (B) ڈسپنسر (C) ڈاکٹر (D) اٹنڈنٹ

(9) حضرت نوشہ گنج بخشؒ نے پنجابی توں علاوہ ہور کیہڑی زبان وچ شاعری کیتی؟ (A) اردو وچ (B) فارسی وچ (C) عربی وچ (D) سرائیکی وچ

(10) نصابی کتاب دی اک کہانی '' ______ '' وچ آزادی دا پرچار اے۔ (A) آسرا (B) لمیاں اڈیکاں (C) ہن کوئی دیوا نہیں بلدا (D) واپسی

(11) عام طور تے '' کافی '' دا موضوع ہوندا اے۔ (A) قصہ کہانی (B) عشق رسولؐ (C) عشق مجازی (D) ربی عشق

(12) ہر مشکل دے مشکل کشا نیں۔ (A) حضرت علیؓ (B) حضورؐ (C) بزرگان دین (D) اللہ تعالیٰ

(13) ہک خوشامدی '' شاہ پاکستان زندہ باد '' دا نعرہ جلسے وچ ماریا۔ (A) علی گڑھ وچ (B) کراچی وچ (C) دہلی وچ (D) آگرہ وچ

(14) '' حضرت یوسفؑ دا خواب '' ادبی صنف وچ اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) قصیدہ

(15) حکیم شیر محمد دا تخلص اے۔ (A) حکیم (B) ناصر (C) شیر محمد (D) شاہ

53(Obj)(☆)-2022(A)-2000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1323

2022 (A)

رول نمبر ______ 154

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

پنجابی

حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چارممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) ہر مشکل دے مشکل کشا نیں۔ (A) حضرت علیؓ (B) حضورؐ (C) بزرگانِ دین (D) اللہ تعالیٰ

(2) ہک خوشامدی '' شاہ پاکستان زندہ باد '' دا نعرہ جلسے وچ ماریا۔ (A) علی گڑھ وچ (B) کراچی وچ (C) دہلی وچ (D) آگرہ وچ

(3) '' حضرت یوسفؑ داخواب '' ادبی صنف وچ اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) قصیدہ

(4) حکیم شیر محمد داتخلص اے۔ (A) حکیم (B) ناصر (C) شیر محمد (D) شاہ

(5) قدر آفاقی پیدا ہویا۔ (A) اٹھارویں صدی وچ (B) انیسویں صدی وچ (C) ویویں صدی وچ (D) اکیویں صدی وچ

(6) حکیم شیر محمد دی غزل وچ '' ہنیرا '' علامت اے۔ (A) رات دی (B) ظلم تے جہالت دی (C) سویرے دی (D) سرگی دی

(7) سب توں پہلاں ناں آوے گا۔ (حروف تہجی) (A) حکیم شیر محمد (B) ہاشم شاہ (C) حمید الفت (D) حفیظ تائب

(8) نویں پلیٹ ٹُٹن تے مالکن نے محمود نال سلوک کیتا۔ (A) ماریا (B) پیار کیتا (C) گھروں کڈھ دتا (D) اپنے کم وچ رجھ گئی

(9) شرجیل بن عمرو غسانی ول خط لے جان والے اسلامی قاصد سن۔ (A) اسامہ بن زیدؓ (B) زید بن حارثہؓ (C) سعد بن الربیعؓ (D) حارثہ بن عمیر ازدیؓ

(10) '' شباب '' توں مراد اے۔ (A) جوانی (B) تور طریقے (C) چال ڈھال (D) جانا

(11) مولا بخشؒ دا کلام نصاب وچ صنف اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) دوہڑے

(12) '' لمیاں اڈیکاں '' وچ سجاد سی۔ (A) زمیندار (B) ڈسپنسر (C) ڈاکٹر (D) اٹنڈنٹ

(13) حضرت نوشہ گنج بخشؒ نے پنجابی توں علاوہ ہور کیہڑی زبان وچ شاعری کیتی؟ (A) اردو وچ (B) فارسی وچ (C) عربی وچ (D) سرائیکی وچ

(14) نصابی کتاب دی اک کہانی'' ______ '' وچ آزادی دا پرچار اے۔ (A) آسرا (B) لمیاں اڈیکاں (C) ہن کوئی دیوانہیں بلدا (D) واپسی

(15) عام طور تے '' کافی '' دا موضوع ہوندا اے۔ (A) قصہ کہانی (B) عشق رسولؐ (C) عشق مجازی (D) ربی عشق

53(Obj)(☆☆)-2022(A)-2000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1325

2022 (A)

رول نمبر 155

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

notespk.com

پنجابی

حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) مولا بخشؒ دا کلام نصاب وچ صنف اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) دوہڑے

(2) '' لمیاں اڈیکاں '' وچ سجاد سی۔ (A) زمیندار (B) ڈسپنسر (C) ڈاکٹر (D) اٹنڈنٹ

(3) حضرت نوشہ گنج بخشؒ نے پنجابی توں علاوہ ہور کیہڑی زبان وچ شاعری کیتی؟ (A) اردو وچ (B) فارسی وچ (C) عربی وچ (D) سرائیکی وچ

(4) نصابی کتاب دی اک کہانی '' ______ '' وچ آزادی دا پرچار اے۔ (A) آسرا (B) لمیاں اڈیکاں (C) ہن کوئی دیوانہیں بلدا (D) واپسی

(5) عام طورتے '' کافی '' داموضوع ہوندا اے۔ (A) قصہ کہانی (B) عشق رسولؐ (C) عشق مجازی (D) ربی عشق

(6) ہر مشکل دے مشکل کشا نیں۔ (A) حضرت علیؓ (B) حضورؐ (C) بزرگان دین (D) اللہ تعالیٰ

(7) بک خوشامدی '' شاہ پاکستان زندہ باد '' دا نعرہ جلسے وچ ماریا۔ (A) علی گڑھ وچ (B) کراچی وچ (C) دہلی وچ (D) آگرہ وچ

(8) '' حضرت یوسفؑ دا خواب '' ادبی صنف وچ اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) قصیدہ

(9) حکیم شیر محمد دا تخلص اے۔ (A) حکیم (B) ناصر (C) شیر محمد (D) شاہ

(10) قدر آفاقی پیدا ہویا۔ (A) اٹھارویں صدی وچ (B) انیسویں صدی وچ (C) ویہویں صدی وچ (D) اکیویں صدی وچ

(11) حکیم شیر محمد دی غزل وچ '' ہنیرا '' علامت اے۔ (A) رات دی (B) ظلم تے جہالت دی (C) سویرے دی (D) سرگی دی

(12) سب توں پہلاں ناں آوے گا۔ (حروف تہجی) (A) حکیم شیر محمد (B) ہاشم شاہ (C) حمید الفت (D) حفیظ تائب

(13) نویں پلیٹ ٹئن تے مالکن نے محمود نال سلوک کیتا۔ (A) ماریا (B) پیار کیتا (C) گھروں کڈھ دتا (D) اپنے کم وچ رجھ گئی

(14) شرجیل بن عمرو غسانی ول خط لے جان والے اسلامی قاصد سن۔ (A) اسامہ بن زیدؓ (B) زید بن حارثہؓ (C) سعد بن الربیعؓ (D) حارثہ بن عمیر ازدیؓ

(15) '' شباب '' توں مراد اے۔ (A) جوانی (B) تورطریقے (C) چال ڈھال (D) جانا

53(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-2000 **(MULTAN)**

PAPER CODE
NUMBER: 1327

2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

رول نمبر ______ 156

پنجابی

حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ
کل نمبر = 15

notespk.com

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات C ،B ،A اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) نویں پلیٹ ٹن تے مالکن نے محمود نال سلوک کیتا۔ (A) ماریا (B) پیار کیتا (C) گھروں کڈھ دتا (D) اپنے کم وچ رجھ گئی

(2) شرجیل بن عمرو غسانی ول خط لے جان والے اسلامی قاصد سن۔ (A) اسامہ بن زیدؓ (B) زید بن حارثہؓ (C) سعد بن الربیعؓ (D) حارثہ بن عمیر ازدیؓ

(3) '' شباب '' توں مراد اے۔ (A) جوانی (B) تور طریقے (C) چال ڈھال (D) جاننا

(4) مولا بخشؒ دا کلام نصاب وچ صنف اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) دوہڑے

(5) '' لمیاں اڈیکاں '' وچ سجاد سی۔ (A) زمیندار (B) ڈسپنسر (C) ڈاکٹر (D) اٹنڈنٹ

(6) حضرت نوشہ گنج بخشؒ نے پنجابی توں علاوہ ہور کیہڑی زبان وچ شاعری کیتی؟ (A) اردو وچ (B) فارسی وچ (C) عربی وچ (D) سرائیکی وچ

(7) نصابی کتاب دی اک کہانی '' ______ '' وچ آزادی دا پرچار اے۔ (A) آسرا (B) لمیاں اڈیکاں (C) ہن کوئی دیوانہیں بلدا (D) واپسی

(8) عام طور تے '' کافی '' دا موضوع ہوندا اے۔ (A) قصہ کہانی (B) عشق رسولؐ (C) عشق مجازی (D) ربی عشق

(9) ہر مشکل دے مشکل کشا نیں۔ (A) حضرت علیؓ (B) حضورؐ (C) بزرگان دین (D) اللہ تعالیٰ

(10) ہک خوشامدی '' شاہ پاکستان زندہ باد '' دا نعرہ جلسے وچ ماریا۔ (A) علی گڑھ وچ (B) کراچی وچ (C) دہلی وچ (D) آگرہ وچ

(11) '' حضرت یوسفؑ دا خواب '' ادبی صنف وچ اے۔ (A) نظم (B) کافی (C) غزل (D) قصیدہ

(12) حکیم شیر محمد دا تخلص اے۔ (A) حکیم (B) ناصر (C) شیر محمد (D) شاہ

(13) قدر آفاقی پیدا ہویا۔ (A) اٹھارویں صدی وچ (B) انیسویں صدی وچ (C) ویویں صدی وچ (D) اکیویں صدی وچ

(14) حکیم شیر محمد دی غزل وچ '' ہنیرا '' علامت اے۔ (A) رات دی (B) ظلم تے جہالت دی (C) سویرے دی (D) سرگی دی

(15) سب توں پہلاں ناں آوے گا۔ (حروف تہجی) (A) حکیم شیر محمد (B) ہاشم شاہ (C) حمید الفت (D) حفیظ تائب

53(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-2000 **(MULTAN)**

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION,2022.

Name of Subject: اردو ریڈر دانش Session: 2022

Q.Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
1	D			
2	A			
3	B			
4	B			
5	C			
6	B			
7	A			
8	C			
9	D			
10	A			
11	B			
12	B			
13	C			
14	B			
15	D			
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ Key

ہم نے مضمون اردو ریڈر دانش پرچہ A (نہم) گروپ ---------- میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ ومعروضی(Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی(MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کرکے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات/ مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 1-06-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	محمد رمضان	SST	گورنمنٹ ہائی سکول [illegible]	0305-7335555	[signature]
2	سعید احمد	SST	گورنمنٹ [illegible]	0301-4806142	[signature]
3					
4					

notespk.com

رول نمبر ____________ 2022 (A)

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

اردو ادب 216

وقت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

notespk.com

حصہ اِنشائیہ

حصہ اول

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

2۔(الف) درج ذیل نظم کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ 10 = 4 + 6

(i) دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمھیں تو ہو — ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمھیں تو ہو

(ii) ملے پھر تو آپس میں وہ خوب سے — کہ یوسفؑ ملے جیسے یعقوبؑ سے

(iii) تاثیر کر گئی تھی انھیں صحبتِ امام — تھا نزع میں بھی خشک لبوں پہ خدا کا نام

(ب) درج ذیل غزل کے اشعار کی تشریح کیجیے۔

(i) ارض و سما کہاں تری وسعت کو پا سکے — میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے

(ii) لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے — اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے

حصہ دوم

3۔ درج ذیل نثر پارے کی تشریح کیجیے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور سیاق و سباق بھی تحریر کیجیے۔ 10 = 2 + 1 + 1 + 6

اتنے میں ایک خاتون ہلکے سبز رنگ کی ساڑھی میں ملبوس ڈرائنگ روم میں تشریف لائیں۔ قدرے شوخ میک اپ کیا ہوا تھا۔ عمر میں وہ شاہ سے جو چالیس سال کے پیٹے میں معلوم ہوتے تھے یقیناً آٹھ دس برس چھوٹی ہوں گی۔ مسٹر شاہ نے میری ادبی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اپنی بیگم سے میرا تعارف کرایا۔ جس پر انھوں نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اپنی منکسر المزاجی کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے ظاہر کرتے ہوئے اُن کے سلام کا جواب دیا اور وہ ڈرائنگ روم ہی میں ایک بڑی سی میز پر چائے کے برتن سجانے میں مصروف ہو گئیں۔

4۔ درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ 10

(i) سرگزشت آزاد بخت پادشاہ کی (ii) آنگن

5۔ درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیے۔ 5

(i) عبادتِ صبح (ii) مفلسی

6۔ درج ذیل کی تعریف کیجیے۔ 20

(i) مسدس (ii) مقطع (iii) قافیہ (iv) صنعتِ تضاد

7۔ افسانہ ’’ گھر سے گھر تک ‘‘ میں کس معاشرتی رویے کی نشاندہی کی گئی ہے؟ 5

85-2022(A)-20 **(MULTAN)**

Page 217 of 225 - notespk.com - The Excellence of Knowledge - Free Notes, Tests & Papers

PAPER CODE NUMBER: 1371

2022 (A)

رول نمبر ____________

سیکنڈری سکول امتحان پارٹ - I (جماعت نہم)

215

اردو ادب

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

حصہ معروضی

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

سوال نمبر 1۔

(1) " باغ و بہار " تصنیف ہے۔
(A) رجب علی سرور کی (B) مولانا نذیر احمد کی (C) خدیجہ مسرور کی (D) میرامن کی

(2) ماما عظمت کتنے عرصے سے محمد کامل کے گھر میں ملازمہ تھی؟
(A) پچیس برس سے (B) دس برس سے (C) بیس برس سے (D) پچاس برس سے

(3) ایک جگہ سڑک سے ہٹ کر میں نے ایک ______ دیکھا۔ (بندر والا)
(A) جلوس (B) مجمع (C) ہجوم (D) حادثہ

(4) اماناتھ نے کہا مجھے میڈیکل ہال کھولنے کے لیے کم از کم ضرورت ہے۔
(A) چار ہزار روپے کی (B) پانچ ہزار روپے کی (C) چھ ہزار روپے کی (D) سات ہزار روپے کی

(5) احمد نگر کا دریا سے فاصلہ ہے۔ (مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ)
(A) ایک میل (B) تین میل (C) دو میل (D) چار میل

(6) ماشاءاللہ بڑا پیارا ______ بچہ ہے۔ (بندر والا)
(A) بدصورت (B) ہونہار (C) بدتمیز (D) لائق

(7) ابن انشا کا اصل نام تھا۔
(A) شیر محمد (B) غلام محمد (C) غلام علی (D) محمد علی

(8) مادے کی قسمیں ہیں۔
(A) ایک (B) دو (C) تین (D) چار

(9) علامہ محمد اقبالؒ نے شاعری کی۔
(A) صرف اردو زبان میں (B) صرف عربی زبان میں (C) صرف پنجابی زبان میں (D) اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں

(10) یارب ______ پہ زیست آساں کر دے۔
(A) اکبر (B) اصغر (C) جگر (D) حالی

(11) میر حسن پیدا ہوئے۔
(A) لکھنؤ میں (B) دلّی میں (C) بنارس میں (D) لاہور میں

(12) اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اُس شعر کو کہتے ہیں۔
(A) مقطع (B) آخری شعر (C) قافیہ (D) ردیف

(13) نظم " عبادتِ صبح " کے شاعر ہیں۔
(A) مولانا حالی (B) میر حسن (C) محسن کاکوروی (D) نظیر اکبر آبادی

(14) مخمس نظم میں مصرعوں کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) چار (B) پانچ (C) چھ (D) دو

(15) مومن کی یادگار ایک دیوان اور ______ مثنویاں ہیں۔
(A) دو (B) تین (C) پانچ (D) چھ

85(Obj)-2022(A)-20 **(MULTAN)**

(167)

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022. Part-I

Name of Subject: Health & Phy Edu Session: 2021-2022

Q.Nos	Paper Code 1421	Paper Code 1423	Paper Code 1425	Paper Code 1427
1	A	C	D	C
2	C	C	C	D
3	D	C	C	C
4	C	C	C	C
5	C	B	C	C
6	B	A	B	C
7	C	C	A	B
8	B	D	C	A
~~9~~	برائے طلباء	برائے طلباء	برائے طلباء	برائے طلباء
~~10~~ 9	A	D	B	B
~~11~~ 10	B	A	D	B
~~12~~ 11	B	B	A	D
~~13~~ 12	D	B	B	A
~~14~~	برائے طالبات	برائے طالبات	برائے طالبات	برائے طالبات
~~15~~ 9	A	D	B	B
~~16~~ 10	B	A	D	B
~~17~~ 11	B	B	A	D
~~18~~ 12	D	B	B	A
19	/	/	/	/
20	/	/	/	/

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون صحت و تعلیم جسمانی پرچہ پہلا SSC-P-I گروپ ---------- میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کرلیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کرلیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کرلیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب اگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم/Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 09 June-22

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	KHALID MEHMOOD	SST	GOVT. M.H.S Gulgasht	03007359108	[signature]
2	Khazina Rani			03017830221	[signature]
3					
4					

notespk.com

2022 (A)

رول نمبر ______ 162

SSC PART-I (9th CLASS)

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION صحت و تعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 1.45 Hours **SUBJECTIVE** حصہ انشائیہ وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48 کل نمبر = 48

notespk.com

NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What definition of Physical Education has been given by Aristotle? (i) ارسطو نے تعلیم جسمانی کی کیا تعریف کی ہے؟

(ii) What is the relation of Physical Education with health? (ii) تعلیم جسمانی کا صحت سے کیا تعلق ہے؟

(iii) What are Basic Movements? (iii) بنیادی حرکات کیا ہیں؟

(iv) Write down the types of Derived Movements. (iv) فروعی حرکات کی اقسام بیان کریں۔

(v) Write down two exercises of Bending. (v) جھکانے کی دو ورزشیں تحریر کریں۔

(vi) Write down the four objectives of Physical Education. (vi) تعلیم جسمانی کے چار مقاصد تحریر کریں۔

(vii) What is meant by Dress? (vii) لباس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Explain briefly Uneven Shoulder. (viii) ناہموار کندھے کی وضاحت کریں۔

3. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two objectives of using Dress. (i) لباس استعمال کرنے کے دو مقاصد تحریر کریں۔

(ii) What is meant by Joint? (ii) جوڑ سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write down names of four systems in human body. (iii) انسانی جسم کے چار نظاموں کے نام لکھیں۔

(iv) Write down any two problems of Public Health. (iv) عوام کی صحت کے دو مسائل تحریر کریں۔

(v) What is meant by Personal Hygiene? (v) شخصی حفظانِ صحت سے کیا مراد ہے؟

(vi) How should we care our teeth? (vi) دانتوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟

(vii) What is meant by Muscles? (vii) عضلات سے کیا مراد ہے؟

4. Attempt any five parts. 10 = 2 x 5 سوال نمبر 4۔ کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down any four rules of shot put. (i) گولہ پھینکنے کے کوئی سے چار قوانین تحریر کریں۔

(ii) Define starting blocks. (ii) سٹارٹنگ بلاکس کی تعریف کریں۔

(iii) How is the lane selected in 200m race? (iii) 200 میٹر دوڑ میں راہداری کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟

(iv) Write down the structure of shot put. (iv) گولے کی بناوٹ کے بارے میں لکھیں۔

(FOR BOYS ONLY) (صرف لڑکوں کے لئے)

(v) Write down the position of players in Volleyball game. (v) والی بال کھیل میں کھلاڑیوں کی پوزیشن بیان کریں۔

(vi) Explain the start of Volleyball game. (vi) والی بال کھیل کے آغاز کی وضاحت کریں۔

(vii) Write down the length and width of Volleyball Court. (vii) والی بال کورٹ کی لمبائی اور چوڑائی تحریر کریں۔

(FOR GIRLS ONLY) (صرف لڑکیوں کے لئے)

(v) How many points are in Badminton game? (v) بیڈمنٹن کھیل کتنے پوائنٹس کی ہے؟

(vi) Explain briefly about start of Badminton game. (vi) بیڈمنٹن کھیل کے آغاز کی مختصر وضاحت کریں۔

(vii) Explain the "net" in the Badminton game. (vii) بیڈمنٹن کھیل میں " نیٹ " کی وضاحت کریں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 x 2 نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. What is meant by Health Education, moreover it has a strong relation with Physical Education. Explain.
5۔ علم الصحت سے کیا مراد ہے؟ نیز اس کا تعلیم جسمانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ وضاحت کریں۔

6. Define Physical Education and write down its objectives in detail.
6۔ تعلیم جسمانی کی تعریف کریں اور اس کے اغراض و مقاصد تحریر کریں۔

7. Write down the rules of 200 meter race.
7۔ 200 میٹر دوڑ کے قوانین تحریر کریں۔

57-2022(A)-4000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1421

2022 (A)

SSC PART-I (9th CLASS)

رول نمبر ________

163

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION صحت وتعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes **OBJECTIVE** حصہ معروضی وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) The silkworms are the source of: (1) ریشم کے کیڑے ______ کا ذریعہ ہیں۔
(A) Silk dress ریشمی لباس (B) Woolen dress اونی لباس (C) Skin dress جلدی لباس (D) Cotton dress سوتی لباس

(2) The fastest race of the world is: (2) دنیا کی تیز ترین دوڑ ہے۔
(A) 200m (B) 300m (C) 100m (D) 800m

(3) Types of muscles are: (3) عضلات کی اقسام ہیں۔
(A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(4) What is meant by Gymnastic? (4) جمناسٹک سے کیا مراد ہے؟
(A) Exercise in clothing کپڑے پہن کر ورزش (B) Wrestling کشتی کرنا
(C) Exercise without clothing ننگے جسم ورزش (D) Exercise in open air کھلے آسمان تلے ورزش

(5) Weight of shot put for men is: (5) مردوں کے لیے گولے کا وزن ہے۔
(A) 4kg (B) 3.25kg (C) 7.260kg (D) 7.270kg

(6) Types of basic movements are: (6) بنیادی حرکات کی اقسام ہیں۔
(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(7) Number of posture defects is: (7) قامتی نقائص کی تعداد ہے۔
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(8) Activities to take control over the opponent was: (8) مخالف پر قابو پانے کے لیے ______ سہارا لیا جاتا تھا۔
(A) Individual Education انفرادی تعلیم کا (B) Physical Education جسمانی تعلیم کا
(C) Traditional Education روایتی تعلیم کا (D) Recreational Education تفریحی تعلیم کا

(FOR BOYS ONLY) (صرف لڑکوں کے لئے)

(9) Length of volleyball court is: (9) والی بال کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔
(A) 18m (B) 16m (C) 19m (D) 17m

(10) Width of net in Volleyball game is: (10) والی بال کھیل میں نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 1.5m (B) 1m (C) 2m (D) 2.5m

(11) The number of technical time out is: (11) ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ کی تعداد ہے۔
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(12) Number of players in Volleyball game is: (12) والی بال کھیل میں کھلاڑیوں کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

(FOR GIRLS ONLY) (صرف لڑکیوں کے لئے)

(9) Length of Badminton court is: (9) بیڈمنٹن کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔
(A) 13.40m (B) 13.60m (C) 13.80m (D) 4.00m

(10) Width of shot service area in Badminton court is: (10) بیڈمنٹن کورٹ میں شارٹ سروس ایریا کی چوڑائی ہے۔
(A) 2.98m (B) 1.98m (C) 1.89m (D) 1.80m

(11) Number of feathers in shuttle cock is: (11) شٹل کاک میں پروں کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) 14 (B) 16 (C) 12 (D) 15

(12) Width of back gallery in Badminton is: (12) بیڈمنٹن میں بیک گیلری کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 73cm (B) 74cm (C) 75cm (D) 76cm

57(Obj)(☆)-2022(A)-4000 (MULTAN)

PAPER CODE NUMBER: 1423

2022 (A)

رول نمبر ______

SSC PART-I (9th CLASS)

164

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION — صحت و تعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes — وقت = 15 منٹ

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 12 — کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) What is meant by Gymnastic? — جمناسٹک سے کیا مراد ہے؟ (1)

(A) Exercise in clothing کپڑے پہن کر ورزش (B) Wrestling کشتی کرنا
(C) Exercise without clothing ننگے جسم ورزش (D) Exercise in open air کھلے آسمان تلے ورزش

(2) Weight of shot put for men is: — مردوں کے لیے گولے کا وزن ہے۔ (2)

(A) 4kg (B) 3.25kg (C) 7.260kg (D) 7.270kg

(3) Types of basic movements are: — بنیادی حرکات کی اقسام ہیں۔ (3)

(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(4) Number of posture defects is: — قامتی نقائص کی تعداد ہے۔ (4)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(5) Activities to take control over the opponent was: — مخالف پر قابو پانے کے لیے ______ سہارا لیا جاتا تھا۔ (5)

(A) Individual Education انفرادی تعلیم کا (B) Physical Education جسمانی تعلیم کا
(C) Traditional Education روایتی تعلیم کا (D) Recreational Education تفریحی تعلیم کا

(6) The silkworms are the source of: — ریشم کے کیڑے ______ کا ذریعہ ہیں۔ (6)

(A) Silk dress ریشمی لباس (B) Woolen dress اونی لباس (C) Skin dress جلدی لباس (D) Cotton dress سوتی لباس

(7) The fastest race of the world is: — دنیا کی تیز ترین دوڑ ہے۔ (7)

(A) 200m (B) 300m (C) 100m (D) 800m

(8) Types of muscles are: — عضلات کی اقسام ہیں۔ (8)

(A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(FOR BOYS ONLY) — (صرف لڑکوں کے لئے)

(9) Number of players in Volleyball game is: — والی بال کھیل میں کھلاڑیوں کی تعداد ہوتی ہے۔ (9)

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

(10) Length of volleyball court is: — والی بال کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔ (10)

(A) 18m (B) 16m (C) 19m (D) 17m

(11) Width of net in Volleyball game is: — والی بال کھیل میں نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (11)

(A) 1.5m (B) 1m (C) 2m (D) 2.5m

(12) The number of technical time out is: — ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ کی تعداد ہے۔ (12)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(FOR GIRLS ONLY) — (صرف لڑکیوں کے لئے)

(9) Width of back gallery in Badminton is: — بیڈمنٹن میں بیک گیلری کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (9)

(A) 73cm (B) 74cm (C) 75cm (D) 76cm

(10) Length of Badminton court is: — بیڈمنٹن کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔ (10)

(A) 13.40m (B) 13.60m (C) 13.80m (D) 4.00m

(11) Width of shot service area in Badminton court is: — بیڈمنٹن کورٹ میں شارٹ سروس ایریا کی چوڑائی ہے۔ (11)

(A) 2.98m (B) 1.98m (C) 1.89m (D) 1.80m

(12) Number of feathers in shuttle cock is: — شٹل کاک میں پروں کی تعداد ہوتی ہے۔ (12)

(A) 14 (B) 16 (C) 12 (D) 15

57(Obj)(☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1425	2022 (A)	رول نمبر ________

SSC PART-I (9th CLASS)

165

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION صحت و تعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 — کل نمبر = 12

notespk.com

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1۔

(1) Types of muscles are: — عضلات کی اقسام ہیں۔ (1)
(A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(2) What is meant by Gymnastic? — جمناسٹک سے کیا مراد ہے؟ (2)
(A) Exercise in clothing کپڑے پہن کر ورزش
(B) Wrestling کشتی کرنا
(C) Exercise without clothing ننگے جسم ورزش
(D) Exercise in open air کھلے آسمان تلے ورزش

(3) Weight of shot put for men is: — مردوں کے لیے گولے کا وزن ہے۔ (3)
(A) 4kg (B) 3.25kg (C) 7.260kg (D) 7.270kg

(4) Types of basic movements are: — بنیادی حرکات کی اقسام ہیں۔ (4)
(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(5) Number of posture defects is: — قامتی نقائص کی تعداد ہے۔ (5)
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(6) Activities to take control over the opponent was: — مخالف پر قابو پانے کے لیے ______ سہارا لیا جاتا تھا۔ (6)
(A) Individual Education انفرادی تعلیم کا
(B) Physical Education جسمانی تعلیم کا
(C) Traditional Education روایتی تعلیم کا
(D) Recreational Education تفریحی تعلیم کا

(7) The silkworms are the source of: — ریشم کے کیڑے ______ کا ذریعہ ہیں۔ (7)
(A) Silk dress ریشمی لباس (B) Woolen dress اونی لباس (C) Skin dress جلدی لباس (D) Cotton dress سوتی لباس

(8) The fastest race of the world is: — دنیا کی تیز ترین دوڑ ہے۔ (8)
(A) 200m (B) 300m (C) 100m (D) 800m

(FOR BOYS ONLY) (صرف لڑکوں کے لئے)

(9) The number of technical time out is: — ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ کی تعداد ہے۔ (9)
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(10) Number of players in Volleyball game is: — والی بال کھیل میں کھلاڑیوں کی تعداد ہوتی ہے۔ (10)
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

(11) Length of volleyball court is: — والی بال کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔ (11)
(A) 18m (B) 16m (C) 19m (D) 17m

(12) Width of net in Volleyball game is: — والی بال کھیل میں نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (12)
(A) 1.5m (B) 1m (C) 2m (D) 2.5m

(FOR GIRLS ONLY) (صرف لڑکیوں کے لئے)

(9) Number of feathers in shuttle cock is: — شٹل کاک میں پروں کی تعداد ہوتی ہے۔ (9)
(A) 14 (B) 16 (C) 12 (D) 15

(10) Width of back gallery in Badminton is: — بیڈمنٹن میں بیک گیلری کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (10)
(A) 73cm (B) 74cm (C) 75cm (D) 76cm

(11) Length of Badminton court is: — بیڈمنٹن کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔ (11)
(A) 13.40m (B) 13.60m (C) 13.80m (D) 4.00m

(12) Width of shot service area in Badminton court is: — بیڈمنٹن کورٹ میں شارٹ سروس ایریا کی چوڑائی ہے۔ (12)
(A) 2.98m (B) 1.98m (C) 1.89m (D) 1.80m

57(Obj)(☆☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

PAPER CODE NUMBER: 1427	2022 (A) SSC PART-I (9th CLASS)	رول نمبر __________

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION — صحت وتعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes — **OBJECTIVE** حصہ معروضی — وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12 — کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہرسوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 — سوال نمبر 1۔

(1) The fastest race of the world is: — دنیا کی تیز ترین دوڑ ہے۔
(A) 200m (B) 300m (C) 100m (D) 800m

(2) Types of muscles are: — عضلات کی اقسام ہیں۔
(A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(3) What is meant by Gymnastic? — جمناسٹک سے کیا مراد ہے؟
(A) Exercise in clothing کپڑے پہن کر ورزش
(B) Wrestling کشتی کرنا
(C) Exercise without clothing ننگے جسم ورزش
(D) Exercise in open air کھلے آسمان تلے ورزش

(4) Weight of shot put for men is: — مردوں کے لیے گولے کا وزن ہے۔
(A) 4kg (B) 3.25kg (C) 7.260kg (D) 7.270kg

(5) Types of basic movements are: — بنیادی حرکات کی اقسام ہیں۔
(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(6) Number of posture defects is: — قامتی نقائص کی تعداد ہے۔
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(7) Activities to take control over the opponent was: — مخالف پر قابو پانے کے لیے ______ سہارا لیا جاتا تھا۔
(A) Individual Education انفرادی تعلیم کا
(B) Physical Education جسمانی تعلیم کا
(C) Traditional Education روایتی تعلیم کا
(D) Recreational Education تفریحی تعلیم کا

(8) The silkworms are the source of: — ریشم کے کیڑے ______ کا ذریعہ ہیں۔
(A) Silk dress ریشمی لباس (B) Woolen dress اونی لباس (C) Skin dress جلدی لباس (D) Cotton dress سوتی لباس

(FOR BOYS ONLY) — (صرف لڑکوں کے لئے)

(9) Width of net in Volleyball game is: — والی بال کھیل میں نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 1.5m (B) 1m (C) 2m (D) 2.5m

(10) The number of technical time out is: — ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ کی تعداد ہے۔
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(11) Number of players in Volleyball game is: — والی بال کھیل میں کھلاڑیوں کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

(12) Length of volleyball court is: — والی بال کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔
(A) 18m (B) 16m (C) 19m (D) 17m

(FOR GIRLS ONLY) — (صرف لڑکیوں کے لئے)

(9) Width of shot service area in Badminton court is: — بیڈمنٹن کورٹ میں شارٹ سروس ایریا کی چوڑائی ہے۔
(A) 2.98m (B) 1.98m (C) 1.89m (D) 1.80m

(10) Number of feathers in shuttle cock is: — شٹل کاک میں پروں کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) 14 (B) 16 (C) 12 (D) 15

(11) Width of back gallery in Badminton is: — بیڈمنٹن میں بیک گیلری کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 73cm (B) 74cm (C) 75cm (D) 76cm

(12) Length of Badminton court is: — بیڈمنٹن کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے۔
(A) 13.40m (B) 13.60m (C) 13.80m (D) 4.00m

57(Obj)(☆☆☆☆)-2022(A)-4000 **(MULTAN)**

نَحۡمَدُهٗ وَ نُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡم

معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ! گزارش ہے کہ سٹوڈنٹس کو مطالعہ سے پہلے درج ذیل دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاک اللہ۔

عزیز طلبا و طالبات، آپ سب بھی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور اساتذہ کرام کے علم، زندگی اور ایمان میں برکت دے۔ آمین۔

ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں اور سکون نصیب فرمائے۔

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمٰن و رحیم ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

رَبِّ اشۡرَحۡ لِيۡ صَدۡرِيۡ ۝ وَيَسِّرۡ لِيۡۤ اَمۡرِيۡ ۝ وَاحۡلُلۡ عُقۡدَةً مِّنۡ لِّسَانِيۡ ۝ يَفۡقَهُوۡا قَوۡلِيۡ ۝

رَبِّ زِدۡنِيۡ عِلۡمًا۔ رَبِّ زِدۡنِيۡ عِلۡمًا۔ رَبِّ زِدۡنِيۡ عِلۡمًا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيۡۤ اَسۡئَلُكَ عِلۡمًا نَّافِعًا وَّرِزۡقًا طَيِّبًا وَّ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا ۝

آخر میں درود شریف دوبارہ پڑھیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کے علم کے حصول میں آسانیاں عطا فرمائے۔

notespk.com
Nauman Sadaf